

# ”غیر سودی بینکاری“ ایک منصافانہ علمی جائزہ

مقدار علماء اور اہل افتاء حضرات زید مجدد  
کی تصریفات و تائیدات کے ساتھ

شالینت

## احمد ممتاز

تلعید رشید

حلیۃ مجاز

عارف بالله حق قادر مولانا شاہ حکیم محمد اختر حسین  
حضرات مؤمن المأْمُنِیٰ رشید احمد لہ حیثاں اوی ﷺ

ناشر

جامعہ خلفاء دلشادین

مدنی کالوںی، گریکس ماری پور، ہاس۔ بے روڈ، کراچی

القلم

## قارئین کرام!

اس کتاب میں درج ذیل تین کتابوں کو سامنے رکھ کر منصفانہ علمی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

(۱) ”غیرسودی بینکاری“

تالیف حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدهم

(۲) ”غیرسودی بینکاری“

تالیف حضرات رفقاء دارالافتاء مدظلہم

جامعۃ الرشید، احسن آباد، کراچی

(۳) ” بلاسود بینکاری“

تالیف حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب مدظلہ

کربونغمہ شریف

طبع دوم : دسمبر 2010ء، محرم الحرام ۱۴۳۲ھ

ناشر : جامعہ خلفائے راشدین (علیہ السلام)

فون : 0333-2226051

ایمیل : [sharjeeljunaid@gmail.com](mailto:sharjeeljunaid@gmail.com)

[rizwanahmad313@yahoo.com](mailto:rizwanahmad313@yahoo.com)



## المحتويات

- |    |   |
|----|---|
| ۸  | تقریظ: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم           |
| ۹  | تقریظ: حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب دامت برکاتہم                 |
| ۱۰ | تقریظ: شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب دامت برکاتہم      |
| ۱۱ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی عبدالجید دین پوری صاحب دامت برکاتہم             |
| ۱۳ | تقریظ: شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ گورمانی صاحب دامت برکاتہم |
| ۱۶ | تقریظ: حضرات مفتیان کرام دارالافتاء جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالوںی       |
| ۱۷ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم                      |
| ۱۸ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی گل حسن صاحب دامت برکاتہم                        |
| ۲۰ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی محمد روزی خان صاحب دامت برکاتہم                 |
| ۲۱ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم                     |
| ۲۲ | تقریظ: شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب دامت برکاتہم          |
| ۲۳ | تقریظ: حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن کوثر المدنی صاحب دامت برکاتہم         |
| ۲۸ | مکملین  |
| ۳۰ | مروجه اسلامی بیکاری کے عدم جواز کی وجہ                                  |

- (۱) ”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم“  
”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم“ کی ”سادہ سی مثال“ پر اشکالات  
اصلوں مسلمہ
- ۶۳ رأس المال کا معلوم ہونا
- ۲۸ ایک نیادعویٰ اور اس کا بطلان
- ۸۲ شرکت و مضاربہ تشریع ہونے کے بعد بعض شرکاء کا بعض یا کل رقم نکلوانا
- (۲) وزن(Weightage) پر اہم سوال جس کا جواب نہیں دیا گیا
- ۹۰ (۳) محروم و ذمہ داری
- ۹۳ (۴) بینک کے ملازم کی حیثیت کیا ہے؟
- ۹۵ مضاربہ اور فساد ملازمت رب المال کی وجہ
- ۹۶ شرکت اور فساد ملازمت شریک کی وجہ
- (۵) سیکوریٹی ڈیپاٹ کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم  
حضرت مفتی لقی عثمانی مدظلہ کے کلام پر تبصرہ
- (۶) الصفقة في الصفقة
- (۷) بيع الوفاء و العقد قبل بطرد و عده کو لازم سمجھنا  
(الف) بيع الوفاء  
مقصد اول کا ابطال
- ۱۱۳ اکابر حمیم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ
- ۱۱۷ دوسری صورت یعنی شرط و فاء قبل العقد کے جواز کے متدلات کا تجزیہ  
حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ سے استدلال اور اس کا جواب
- ۱۲۵

- ۱۳۰ مقصودِ ثانی کا ابطال
- ۱۳۳ کیا شرطِ وفا قبل العقد میں دو قول ہیں؟
- ۱۳۵ ایک سوال اور اس کا جواب، پھر دونوں پر تبصرہ
- ۱۴۰ بحث کا خلاصہ اور تبصرہ
- ۱۴۱ (ب) عقد سے قبل یک طرف وعدے کا حکم
- ۱۵۰ (۸) شرکتہ متناقصہ
- ۱۵۵ (۲) ”بحوث فلسفیہ معاصرہ“ اور کتاب ”غیرسودی بینکاری“ میں تعارض
- ۱۵۶ کو آپ یہ کہیں کہ جواب
- ۱۵۹ منی آرڈر کا جواب
- ۱۶۰ (۹) اجارہ اور اس میں مرمت کی شرط
- ۱۷۳ مندرجہ بالاعبارات سے مستنبط قانون کا حاصل
- ۱۷۳ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مذکور کے قانون کا توڑ خود حضرت کی پیش کردہ دوسری عبارت سے
- ۱۷۷ (۱۰) اجرت اور کرایہ کا مجہول ہونا
- ۱۷۸ عقدِ بیع و اجارہ کے کمل ہونے کے بعد ثمن و اجرت میں کمی اور بیشی کا قانون
- ۱۸۳ اجارہ بخوبی کی صورت میں حضرت کی تحریرات کی روشنی میں
- ۱۸۵ حضرت کی تاویل اور اس کا ابطالان
- ۱۸۷ بعض دیگر لوگوں کی تاویل اور اس کا ابطالان
- ۱۸۷ (۱۱) بوقتِ مرا بحہ و اجارہ ”لزومِ اتزامِ تصدقِ مال“
- ۱۸۷ (۱) اصل مسئلہ
- ۱۸۹ بعض مالکیہ کا قول

۱۹۲	مالکیہ کے مذہب کے جوابات
۱۹۷	(۳) ”لزوم الترامِ تصدقِ مال“، کا حکم
۲۰۰	الترامِ تصدقِ مال اور مجلسِ تحقیق مسائل حاضرہ
۲۰۳	”لزوم الترامِ تصدقِ مال“، کے تحت مجلسِ تحقیق کا فیصلہ
۲۰۵	(۱۲) قبضہ امانت کا قبضہ ضمان میں بدول تجدید تبدیل کرنا
۲۱۶	قبضہ کے اقسام
۲۱۸	قبضہ و تسلیم کی حقیقت
۲۲۳	میتع کا بینک کے ضمان میں آنا
۲۲۵	خریداری کے بعد ایجاب و قبول کے دستاویز کی شرعی حیثیت
۲۲۵	مرا بحکم بونکیہ اور مرا بحکم شرعیہ میں واضح فرق
۲۲۸	مرا بحکم اور سودی قرض میں فرق
۲۳۳	مفروضہ شخص قانونی
۲۳۶	شخص قانونی کے ثبوت کے نظائر کے جوابات
۲۳۶	نظم نمبر (۱) : وقف اور بیت المال
۲۳۱	نظم نمبر (۳) : ترکتہ مستغزۃ بالدین
۲۳۳	نظم نمبر (۲) : خلطۃ الشیوع
۲۳۷	اکابر حمہم اللہ تعالیٰ کی تاسیک کن کو حاصل ہے!
۲۵۳	سودی نظام کا تبادل
۲۶۱	مرا بحکم واجارہ، اصل تجارت یا حیلہ!
۲۶۲	اصل حقیقت کیا ہے؟ رفع اشکالات کیونکر؟ اور ہمارے تحفظات کیا ہیں؟

- ۲۶۳ ہمارے تحفظات!
- ۲۶۷ بینگ کے مسئلہ پر اجتماعی غور و فکر کی کوشش ناکام کیوں ہوئی؟
- ۲۷۳ کتاب ”غیرسودی بینکاری“ کا خلاصہ
- ۲۷۴ اس کتاب سے بندہ کو کیا فائدہ ہوا؟
- ۲۷۵ سود پر عییدیں
- ۲۸۱ دارالافتاء جامعۃ الرشید کی کتاب ”غیرسودی بینکاری“
- ۲۸۹ دونوں خاکوں کا موازنہ
- ۲۹۵ احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کیا ہے؟
- ۳۰۷ کتاب ” بلا سود بینکاری“ پر تبصرہ
- ۳۰۸ حقیقت کیا ہے؟
- ۳۱۶ حقیقت کیا ہے؟
- ۳۱۸ حقیقت کیا ہے؟
- ۳۱۹ حقیقت کیا ہے؟
- ۳۲۰ ”کیپ لیب ایشیاء“ کمپنی کی شرعی حیثیت



## تقریظ و تائید

بقیة السلف شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم  
بانی و رئیس جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالوںی کراچی و صدر و فاق المدارس العربیۃ پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء والمرسلين

و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بمحسان الى يوم الدين:

ملک کے مقدار اہل افتاء نے حضرت مولانا مفتی احمد متاز صاحب کی مرتب کردہ  
کتاب ”غیر سودی بینکاری، ایک منصفانہ علمی جائزہ“ کی تصویب و تصدیق فرمائی ہے، جن  
میں سے بعض کی تصدیقی تقریظات کتاب کے شروع میں بھی موجود ہیں، بندہ کو بھی ان اہل  
افتاء پر کامل اعتماد ہے، اس لئے اس کی پروپریتی تائید کرتا ہے۔

اہل علم سے گزارش ہے کہ کتاب پڑھ کر دینداری سے اس کے دلائل پر غور کریں اور  
عوام کو اس نامہ اسلامی بینکاری سے نچنے کی تلقین فرمائیں، نیز عام مسلمانوں کو بھی میرا  
مشورہ اور نصیحت ہے کہ جس چیز کو اتنے بڑے علمائے کرام اور اہل افتاء نے روکرتے ہوئے  
حرام اور ناجائز قرار دیا، اس سے بچیں اور کاروبار میں اور ذرائع جو اتفاقاً جائز ہوں انہیں  
اختیار کریں۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور  
امت کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمين۔

سلیم اللہ خان

۱۴۳۷/۷/۱۸

## تقریظ

حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان صاحب دامت برکاتہم

رئیس دارالافتاء الجامعۃ الشرفیۃ لاہور

بعنوان الرحمٰن للرجوع

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم :

جناب مولانا مفتی احمد متاز صاحب زید مجدد ہم نے ایک رسالہ بنام ”غیر سودی بیکاری“

(ایک منصافانہ علمی جائزہ) لکھ کر اس موضوع پر مختصر گر جامع اور مدل گویا دریا کو کوزے میں بند

کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم قبولیت عطا کر کے امت مسلمہ کو اس سے مستفید ہونے

کی توفیق نصیب فرمادے۔ آمین ثم آمین

**مفتی حمید اللہ جان**

رئیس دارالافتاء جامعۃ الشرفیۃ لاہور

و مدیر دارالافتاء والا رشد ارائے و نڈ روڈ لاہور

۱ / ۷ / ۱۴۳۱ھ

## تقریظ

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب ولادت برکاتہم

رئیس دارالافتاء جامعہ اسلامیہ صراحت بازار، میٹھا در کراچی

بعض اللہ الرحمن الرحیم

برادرم! حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم نے موجودہ نام نہاد اسلامی بینکوں کے خلاف جو کوشش کی ہے، میں ان کوششوں کو سراہتا ہوں اور عوامِ الناس کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان نام نہاد اسلامی بینکوں سے دور رہیں اور آمدنی کے لئے ایسا روزگار اور ذریعہ اختیار کریں جس کے جواز پر اہل حق علماء کرام اور مفتیان عظام کا اتفاق ہو۔

حبیب اللہ

۱۲/ شعبان ۱۴۳۱ھ

## تقریظ

حضرت مولانا مفتی عبدالجید دین پوری صاحب ولیت برگانع  
رئیس دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوی ٹاؤن کراچی نمبر ۵  
بعض اللہ للرحمٰن للرَّحِیْم

حامداً ومصلیاً !

”مروجہ اسلامی بینکاری“ کے جواب میں حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب زید محمد ہم نے ”غیر سودی بینکاری“ نامی کتاب تحریر فرمائی۔ حضرت نے اپنی اس تأثیف لطیف میں جو انداز اختیار فرمایا، حقائق و واقعات سے روشناس فرمانے کے لئے جو اسلوب محمود، متعارف کرایا، اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، نوجوان علماء کو جس حسین پیرائے میں استدلال و احتجاج کے گرد ہشر بتلائے، اس سے قطع نظر اگر صرف آپ کی کتاب کے فقہی پہلوؤں پر انحصار کرتے ہوئے گنتگوکی جائے تو آپ کا عالی مقام اور نمایاں رتبہ اس سے قطعاً منع نہیں بنتا۔

چنانچہ اسی کا ایک مظہر یہ تحریر یہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے خیال کے مطابق تحریر ہذا نہایت وقیع اور خوب جاندار ہے، یہ تحریر چند اہم خصوصیات کی حامل ہے۔  
۱۔ ”غیر سودی بینکاری“ نامی کتاب میں مؤلف محترم کے فقہی تسامحات کو بڑے با ادب طریقے سے فقہی مغالطات باور کرایا گیا ہے۔

۲۔ بڑے ادب اور نہایت سلیقے کے ساتھ یہ بھی باور کرایا ہے کہ ”مروجہ اسلامی بینکاری“ نامی کتاب کا جواب دینے کے لئے آخضور اپنے بڑے پن کے کئی تقاضے جذبات کی نظر ہونے سے نہیں بچا سکے۔

۳۔ غیر سودی بینکاری کا منصافانہ علمی جائزہ پیش کرتے ہوئے مؤلف محترم نے بارہ نہیادی نکات متعین فرمائے ہیں اور اپنی گنتگو کو ان بارہ نکات کے دائرے میں عمدہ پیرائے

سے پیش فرمایا ہے۔ یہ بہت عمدہ کوشش ہے اس لئے کہ خالص علمی و تدریسی طرز کے عادی علماء کرام اس ترکیزی انداز سے بآسانی فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

۳۔ حق اور حقیقت کے متلاشی کے لئے یہ بارہ نکات بھی کافی ہیں، وہ ان نکات کی روشنی میں بخوبی جان سکتا ہے کہ فقہی مسئلہ کہاں ہے اور حلیہ جو یا نہ تأویلات کہاں سے اور کیسے درآمد کی جاری ہیں۔

۵۔ ہمارے مؤلف موصوف نے اچھی طرح نہایت ادبی قرینے کے ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ بلا سود بینکاری نامی کتاب میں اپنے کئے کرائے کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی یا حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہم اللہ یا مجلس تحقیق کے سر تھوپنے کا جو تأثر دیا ہے وہ ایک مغالطہ سے زائد کچھ نہیں۔

بہر کیف ہمارے رفیق محترم مفتی احمد ممتاز صاحب مدظلہم کی طرف سے اس موضوع پر یہ عمدہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اسے مغالطوں کے ازالے اور ہم سب کی ہدایت اور مؤلف موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔

### فقط والسلام

(مفتی) محمد عبدالجید دین پوری عفی عنہ

دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر ۵

## تقریظ و تصویب

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ گورمانی صاحب زید مجری  
رئیس دارالافتاء جامعہ فتح العلوم تو شہرہ سانسی، گوجرانوالہ  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

رقم حروف نے حضرت مولیٰ مفتی احمد متاز صاحب دام مجدہ کا ”غیر سودی بینکاری“ پر ”ایک علمی جائزہ“ مطالعہ کیا جو آپ کے علم و فضل اور تفہم پر مشتمل ہے۔ کلام کے تسلسل اور روانی سے دلائلی مطابقیہ پر مشتمل جوابات کا ایسا شائستہ اور بلیغ انداز ہے گویا مؤلف نے اپنے غیر سودی بینکاری کے سوالیہ کا جواب خود لکھا ہے۔

محوزین حضرات نے ایک نئی راہ اختیار کی ہے جس کا اسلاف امت نے ہمیشہ درکیا ہے۔ ایسی مہیب راہ جس کے تصور سے جگر پارہ پارہ ہوتا ہے۔ خدا، رسول کے محاربہ جیسی پُر خطر بدعت جس کی مثال سابق دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ افسوس! انہوں نے علماء کے اختلاف کو شبہہ کا درجہ بھی نہیں دیا۔ حدود اللہ بھی شبہہ سے ختم ہو جاتے ہیں جس کا عمومی تعلق حقوق اللہ سے ہے لیکن ربا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے متعلق ہے جس سے ہر قسم کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔

ان حضرات نے ۱۹۸۰ء میں بینک سے زکوٰۃ کٹوٰتی میں جمہور علماء کرام سے انفرادیت اختیار کی اور علماء کرام کی آراء کے علی الرغم ضیاء حکومت کی تائید کی اور جواز کا فتویٰ دیا (و القصة بطولہا) فقهاء کرام نے انہی خطرات کے پیش نظر ارشاد فرمایا ”هذا یعلم و لا یفتی به“، بعض مسائل کا علم کی حد تک جاننا ضروری ہے لیکن ان پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔

امام ابن ہمامؓ نے کہا:

لما فيه من تسلط الظلمة على أموال المسلمين اذ يدعى كل ظالم أن

الأرض تصلح لزراعة الزعفران و نحوه و علاجه صعب (شرح عقود)

فتوى ديني سے نقصان یہ ہو گا ظالم لوگ مسلمانوں کے مال پر مسلط ہو جائیں گے ہر ظالم دعویٰ کرے گا یہ میں زعفران کی کاشت کے قابل تھی اس میں گندم کاشت کی گئی ہے ان سے زعفران کا کلکیں وصول کیا جائے، اس صورتحال کا علاج مشکل ہے۔

سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رض عام حالات کے اعتبار سے جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم کی اجازت نہ دیتے تھے۔

”اما أَنَا إِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لِأَصْلِي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ“

”مجھے اگر پانی نہ ملے میں پانی ملنے سے پہلے نماز نہ پڑھوں گا۔“ حالانکہ سورۃ مائدہ میں جنبی کے لئے تیم کی اجازت نص سے ثابت ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رض نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے اس بارے میں بحث کی آپ نے فرمایا:

قال عبد الله: لور خص لهم في هذا لاوشكوا إذا أبدوا عليهم

الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى: وإنما كرهتم هذا

لهذا؟ قال: نعم (سنن أبي داود، مصنف ابن أبي شيبة وغيره)

”اگر ان کو اس سلسلے میں تیم کی رخصت دی جاتی جب بھی وہ ٹھنڈا پانی محسوس کرتے بلا تکلف تیم کر لیتے۔ ابو موسیٰ رض نے کہا: اچھا! آپ نے اسی وجہ سے ان کے لئے یہ ناپسند کیا؟ کہا: اسی لئے۔“

سیدنا عمر رض نے عرف اور معاشرہ کی رو سے عبادات میں احتیاط کا اس حد تک خیال رکھا، ایک حقیقت ثابتہ سے بھی لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کے عکس ان لوگوں نے معاملات میں قطعی حرام اور منوع امر میں تشكیک پیدا کر کے اسے مختلف نیمہ بنادیا۔

بین تفاوت راہ ازا کجا است تا کجا

ربا کی وعیدات کے ڈر سے مسلمان بینک کے کاروبار سے خالف تھے لیکن مجوہین کے حیلے والے سے لوگوں میں خوفِ خدا تعالیٰ نہ رہا۔ بلا امتیاز بینک کا کاروبار جائز سمجھنے لگے۔

گرزباغ رعیت ملک خور دسپے      برآ ورند غلام ان اور دخت از بنج

بچ پیضہ کہ سلطان تم روادار د      زند لشکر یاں ہزار مرغ بستخ

”رعیت کے باغ سے بادشاہ اگر ایک سیب کھائے اس کے غلام درخت کو جڑ سے اکھیڑ لیں گے۔ سلطان اگر پانچ اونٹے کا ظلم روا رکھے اس کے فوجی ہزار مرغوں کے سخن پر کباب بنا ڈالیں گے۔“

قال النبی ﷺ : من سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیه وزرها و  
وزر من عمل بها من بعده من غير أَن ينقص من أوزارهم شيء.

(مشکوہ شریف)

اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی مسامی جیلہ قبول فرمائے اور جن مقاصد کے پیش نظر آپ نے محنت کی، باراً و فرمائے اور خلق خدا کی ہدایت کا وسیلہ بنائے۔ آمین ثم آمین  
و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین

محمد عیسیٰ عنہ

۲۷ / شعبان ۱۴۳۱ھ، ۹ / اگست ۲۰۱۰ء

جامعہ فتح العلوم (دارالافتاء)

نوشہرہ سانسی گوجرانوالہ

☆ تکافل کے عنوان سے عامۃ المسلمين کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حضرت مفتی صاحب سے گزارش ہے ”تکافل پر ایک مفصل مقالہ سپر ڈفم فرمائیں۔“

## تقریظ و تصدیق و تصویب

حضرات مفتیان کرام دامت برکانہج

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی نمبر ۷ کراچی

بعن اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين و

على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين : أما بعد !

مروجہ اسلامی بینکاری کے غیر اسلامی ہونے اور تصوری کی حرمت کا ”متفقہ فتوی“ اکابر مفتیان کرام کی طرف سے منظر عام پر آنے کے بعد مجوزین حضرات کی طرف سے اس کو غیر مؤثر اور غلط ثابت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی گئی، اس کی تردید میں جو تحریرات و مضمایں سامنے آئے وہ زیادہ تر علمی باتوں کی بجائے تحقیر و استہزاء اور تمسخر، یا پھر گلے شکوے اور شکایات پر مشتمل تھے، اس لئے ان کے جواب کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔

البتہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر ”غیر سودی بینکاری“، جب شائع ہو کر منظر عام پر آگئی، تو اسے بغور خالی الذہن ہو کر پڑھا گیا اور بنظر انصاف اس کا مطالعہ کیا گیا کہ شاید اس کتاب میں اشکالات کے مدل، تسلی بخش جوابات ہوں، لیکن پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کتاب میں بہت سارے اہم اور نیادی اشکالات کو بکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور جن اشکالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی اطمینان بخش نہیں، جبکہ اس وقت یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی، کہ تمام اشکالات کے جوابات دیدیئے گئے ہیں اور پھر اس کا بھرپور پروپیگنڈہ بھی کیا گیا۔

ان حالات میں حضرت اقدس، فقیہ اعصر، حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کے تلمیز رشید، حضرت مولانا مفتی احمد متاز صاحب زید مجرم نے قلم اٹھایا

اور اس سلسلے میں کافی تگ و دو کی اور شبانہ روز محنت کر کے اُن جوابات کا فقہی جائزہ لیا جو ”غیرسودی بیکاری“ میں مذکور ہیں، اور یہ ثابت کیا کہ ۸۰ فیصد اشکالات غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ نہایت باریک بینی کے ساتھ بیننگ کے نظام کا جائزہ لینے کے بعد اٹھائے گئے ہیں، جن کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد حقیقتِ حال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب زید مجدد ہم کی اس محنت کو قبول فرماء کر ہدایت کا ذریعہ

بنائے۔ آمین

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ

شاہ فیصل کالونی نمبر: ۲

کراچی نمبر: ۲۵

## تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب ولیمن برکانع

سابق استاذ ورثیق افتاء

جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، کراچی

با اسمہ تعالیٰ!

ملک کے جید علماء اور مقدر اہل افتاء کی رائے کے مطابق یہ عاجز بھی نام نہاد اسلامی بنکاری سے مطمئن نہیں۔ فقط

(مفتی) محمد شاہد

Z/ 475 بہادر آباد، کراچی

## تقریظ و تصدیق و تصویب

حضرت مولانا مفتی گل حسن صاحب دامت برکاتہ

دارالافتاء جامعہ سلامیہ دارالعلوم رحیمیہ

نیلا نبند سرکی روڈ کوئٹہ بلوچستان

بسم اللہ الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد :

”مروجہ اسلامی بینکاری“ نے ملک میں ایک مہلک مرض کی شکل اختیار کی ہے، جس سے ہر شخص کو احتساب کرنا چاہئے۔ مجوزین (قاتلین) حضرات ہمارے قابل احترام مشائخ میں سے ہیں۔ احرف ان کے سامنے ایک ادنیٰ طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ان کے دلائل پر غور کرنے کے بعد مجھ پر ایک حقیقت عیان ہوئی اور مانعین حضرات کے دلائل دفاعات اور جزئیات کی شکل میں خود بخود مجھ پر منکشf ہوئے۔

مروجہ اسلامی بینکاری..... کو جس زاویہ سے پیاس کیا جائے، بالآخر اس کا انجمام سود (ربو) پر منجت ہوتا ہے۔ مجوزین کے دلائل میں ”خرود عن المذہب“ تو معمولی بات ہے، جس طرح چاہو ضعیف اقوال اور شاذ اقوال سے مسئلہ مرتب کرو، ان کے نزدیک اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جیسا کہ ان کی تحریرات سے واضح ہوتا ہے۔ اگر (بغیر اجماع امت منعقد کئے) اس طریق کا رکومطلق العنوان چھوڑا جائے کہ جن مجتهد کا چاہو قول اختیار کرلو تو مذہب ایک کھلونا بن جائے گا۔ کیونکہ مجتہدین کے اقوال میں کچھ نہ کچھ منفرد اقوال ایسے ملتے ہیں جو ہر شخص کے مقصد کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی امام کے نزدیک شطرنج کھلینا جائز ہے، اور کسی کے نزدیک موسیقی جائز ہے، اور کسی کے ہاں بے سایہ تصویر جائز ہیں، اور کسی کے ہاں روزہ کی ابتداء طلوع شمس سے ہوتی ہے، یا اگر کسی عورت کو کسی مرد سے پرده کرنا مشکل ہو تو

اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس بالغ مرد کو دودھ پلا دے اس طرح حرمت رضا عت ثابت ہو جائے گی اور پرده اٹھ جائیگا، وغیرہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں نے اختیاط اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے شمار نہیں کیا۔ تو ”مروجہ اسلامی بینکاری“، یعنیہ اسی طرح ہے، مجھے اس کے حرام (سود) ہونے اور غیر شرعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

بہر کیف ”قاکلین“، کی تردید میں زیر نظر مقالہ ”ایک منصافانہ علمی جائزہ“، جس کو فقیہ الحصر حضرت مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم نے مرتب کیا ہے، میں نے مقالہ کے متعدد عنوانات کا مطالعہ کیا۔ الحمد للہ مرتب نے ”غیر سودی بینکاری“ کا بہترین آپریشن کیا ہے، اور اس کے اہم ستونوں کو بارہ و جوہات سے معقول انداز پر مدل بحوالہ مخدوش کیا ہے۔ مقالہ ہذا قابل اشاعت ہے تاکہ ہرقاری اس سے استفادہ کر سکے۔ مقالہ ہذا کو شخص کے نصاب میں شامل کیا جائے تو نور علی نور ہو گا۔ الحمد للہ میں نے اس سے پہلے بھی مختصین کے لئے ”جدید مسائل پر تبصرہ“ کے عنوان سے ایک وقت مختص کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مقالہ نگار کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم حق بیان کرنے اور معاملات کو شرع کے مطابق وضع کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

فقط والسلام (مفتق) گل حسن عفی عنہ

دارالعلوم رجیسٹریڈ نیلا گنبد سر کی روڈ کوئٹہ

موباکل نمبر: ۰۳۳۳۷۸۰۱۲۹

فون: ۰۸۱۲-۲۶۵۵۳۶

## تقریظ و تصویب

حضرت مولانا مفتی محمد روزی خان صاحب دامت برکاتہم

رئیس دارالافتاء ربانیہ جی، او، آر، کالونی کوئٹہ

بعن اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على نبي المصطفى، أما بعد!

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی کا علمی اور فقہی مقام محتاج بیان نہیں، خصوصاً جدید معاشی مسائل کو شرعی سانچے میں ڈالنے کے لئے آپ کی کی گئی کوششوں کو ہر کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن اس دوران ”سودی بینکاری“ کے تبادل کے طور پر اسلامی بینکاری یا غیر سودی بینکاری کے نام سے آپ نے جو بینکاری نظام متعارف کرایا، علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ ایک عرصے سے یہ علماء اپنی تحریرات کی ذریعے آپ کی تحریرات اور آراء میں پائی جانے والی شرعی خامیوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔

حضرت مفتی احمد متاز صاحب کی تالیف ”غیر سودی بینکاری“، ایک منصفانہ علمی جائزہ، اسی سلسلے میں تحریر کی گئی ہے، جس میں آپ نے حضرت کی شخصیت کا مکمل احترام کرتے ہوئے انتہائی مدلل انداز میں آپ کی، اسلامی بینکنگ سے متعلق، بعض آراء و تحریرات میں شرعی خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اسلامی بینکاری کے نام سے چلنے والی بینکاری کے غیر شرعی ہونے کے فقہی دلائل بھی پیش بھی ذکر کئے ہیں۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو مؤلف کے لئے نجات و خلاصی اور قارئین کے لئے صحیح شرعی رہنمائی کا ذریعہ بنادے۔ آمین۔

والسلام

(مفتی) محمد روزی خان

رئیس دارالافتاء ربانیہ جی، او، آر، کالونی کوئٹہ

## تقریظ و تصویب

حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب زیر مجموع

رئیس دارالافتاء جامعہ اشتر فیہ سکھر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله و صلى الله تعالى على محمد و آله و أصحابه و أزواجـه و على من تبعه الى يـوم الدـين، قال الله تبارك تعالى: فـاسـئـلـوا أـهـلـ الـذـكـرـ انـ كـنـتـمـ لـاـ تـعـلـمـونـ، وـ قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ ﷺ: وـ مـنـ يـرـدـ اللـهـ بـهـ خـيـرـاـ يـفـقـهـهـ فـىـ الدـيـنـ، وـ قـالـ ﷺ: اـنـمـاـ أـنـاـ قـاـسـمـ وـ اللـهـ يـعـطـىـ، أـمـاـ بـعـدـ: حـضـرـتـ مـوـلـاـنـاـ مـفـتـیـ مـحـمـدـقـیـ صـاحـبـ کـیـ کـتابـ ”ـغـیرـ سـودـیـ بـینـکـارـیـ“ـ پـرـ حـضـرـتـ مـوـلـاـنـاـ مـفـتـیـ اـحـمـدـ مـمـتـازـ صـاحـبـ کـاـ تـبـصـرـہـ بـنـامـ ”ـاـیـکـ مـنـصـفـانـہـ عـلـمـیـ جـائزـہـ“ـ بـنـدـہـ کـوـ رـائـےـ دـیـنـ کـےـ لـئـےـ بـیـجـیـاـ گـیـ جـسـ کـوـ چـیدـہـ چـنـدـ جـگـہـوـںـ سـےـ دـیـکـھـنـےـ کـاـ اـتفـاقـ ہـوـ۔ـ مـاـشـاءـ اللـهـ حـضـرـتـ مـفـتـیـ صـاحـبـ کـاـ تـبـصـرـ اـسـمـ بـاـسـکـیـ اـوـ مـمـتـازـ کـاـ سـمـ الـمـؤـلـفـ اوـ قـاـبـلـ دـیدـ وـ دـادـ ہـےـ۔ـ مـیـںـ اـسـ سـےـ مـتـقـنـ ہـوـ اـوـ رـاـسـ پـرـ بـیـثـانـ حـالـ مـاـحـوـلـ مـیـںـ اـمـتـ مـسـلـمـہـ کـےـ لـئـےـ مـشـعـلـ رـاـہـ سـبـحـتـاـ ہـوـ،ـ عـوـامـ سـےـ بـالـعـمـوـمـ اـوـ مـنـہـمـکـیـنـ وـ مـشـتـغـلـیـنـ فـیـ الـفـتوـیـ سـےـ بـالـخـصـوـصـ درـخـواـستـ ہـےـ کـاـسـ کـوـنـعـتـةـ غـیرـ مـتـرـقـبـ سـبـحـتـ ہـوـےـ استـفـادـہـ کـرـیـںـ۔ـ

آخر میں دعاء ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور امۃ مرحومہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق خیر توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

رام

العبد المستغفر عبد الغفار غفر اللہ

دارالافتاء جامعہ اشتر فیہ سکھر

۳۰ / جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ

## تقریظ و تصویب

شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب زید بصری

مؤسس و رئیس الجامعۃ العربیۃ احسن العلوم، گلشنِ اقبال کراچی

گرامی قدر برادرم حضرت مولانا مفتی احمد متاز صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہ

آن جناب کی گرفتاری تصنیف کا مسودہ ہی دل و جان کے سکون اور مسئلہ مستفسرہ عنہا کے اہداف پر نہایت منطبق پایا تھا کثرتِ اشغال اور افتادگی طبع جیسے عوارض سے بروقت آپ کو تائید نامہ یا حمایت شاکرہ تحریر آندے سکا جس کے لئے جناب کی عظمتوں اور بار بار مراجعت جیسے حسین اور متین کاوشوں کے سامنے شرمندہ اور معدرت خواہ ہوں، حقیقت یہ ہے کہ نام نہاد اسلامی بینکاری قربِ قیامت کے ان بڑے فتنوں میں سے ہے جو مال اور ایمان دونوں کی تباہی کا باعث ہے مگر بخوائے حدیث صحیح ایک جماعت حق پر قائم رہ کر غلط کاروں کی نشاندہی اور ان کے مخالف آفرینیوں سے امت کے عظیم محسین اور شاکرین ہو کر اہل و اصل موضوع اور محورِ علم و حیات یعنی حق کا احراق اور باطل کا ابطال جیسے اہم فریضہ ادا کرتے رہیں گے اور اس سلسلے میں کسی ”لومہ لائم“ کے رواد نہیں ہوں گے۔

ہمارے عظیم بزرگ اہل حق کے سر خلیل فخر الحمد شیخ، استاذ العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی عمر شریف میں اللہ تعالیٰ برکت دے کے انہوں نے بروقت اس کا احساس فرمایا اور اللہ نے ان کے کامل اخلاص اور مثالی قد کاٹھ کے زیر سایہ فقہاء اجلہ اور اغراض دین جانے والے اور ان پر غیرت کرنے والے مفتیان صاحبان کو اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے کمر بستہ فرمایا، ان میں ہمارے عزیز دوست مولانا مفتی احمد متاز صاحب بھی ہیں جن کے بروقت اور فقہاء اور تحقیق سے آراستہ پیراستہ گراں تدریقات نے

حق کے پڑے کو خاصہ وزنی فرمایا۔ شگرگزار ہوں اور دعا گو ہوں آپ کے مقامات کی بلندی کے لئے اور امت کے حق میں ذریعہ نجات سمجھتا ہوں آپ کی محققانہ یکے بعد دیگرے تصنیفات : .....

ایں چنیں می روی کہ زیبائی روشن

اللہ تعالیٰ مزید توفیق ارزانی فرمائے، تازہ دم تصنیف کی علمی مغالطات کا بر وقت ازالہ ہے اور کئی علمی شبہات کا خاطر خواہ دفعیہ ہے، پڑھنے والا داد و تحسین دیے بغیر نہیں رہے گا۔

کتاب۔ مشکل آں است کہ خود بویڈنہ کہ عطار بگویڈ

کا حسین نظارہ ہے، گراں قد رتحریات، محققانہ تعبیرات اور فرقہ مختلف کے شبہات تک رسائی اور پھر فاضلانہ جواب میں اس سے دستِ فراغت حاصل کرنا جیسے کمالات بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح لٹڑی میں پروئے کے احتیاج کے بغیر درِ مُنْتَهٰ اور یا قیمتِ مُعْشَہ کی طرح نظر آتے ہیں اور دیدہ زیب طباعت اس پر مستزاد۔

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می گنری کرشمہ دامنِ ترمی کشد کہ جائیں جاست ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور راہِ حق سے مخربین کے لئے اور حبِ مال کے شکاریوں کے لئے اور اغراضِ دنیا سے متاثرین کے لئے اللہ تعالیٰ اس گراں قد رتصنیف کو علایِ نافع اور تریاقِ سود مدد بنائے۔ آمین والسلام مع التحیۃ والاکرام عاجز و فقیر

(رئیس دارالافتاء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی) محمد زرولی خان عفان اللہ عنہ

خادمِ جامعہ عربیہ احسن العلوم و خادمِ تفسیر و حدیث و افتاء، ہبہ

۱۴/ ذی الحجه ۱۴۳۱ھ

۱۱/ نومبر ۲۰۱۴ء

## تقریظ و تصویب

مولانا عبدالرحمن کوثر المدنی دامت برکاتہم

ابن حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ

بعض لله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء

والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآلہ واصحابہ أجمعین أما بعد :

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿الیوم أكملت لكم دینکم و أتممت عليکم نعمتی و رضیت لكم الإسلام دینا﴾ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے کامل اور تام ہونے کی خبر دی ہے کامل کا معنی ہے کہ یہ دین اسلام ہر طرح سے کامل ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بڑھائے جانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور تام کا معنی ہے کہ ایسا تام دین ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاسکتی۔

قال علی ابن أبي طلیحة : عن ابن عباس قوله : ﴿الیوم أكملت لكم

دینکم﴾ و هو الإسلام أخبر الله نبيه صلی الله علیہ وسلم و المؤمنین أنه

أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أتممه الله فلا ينقصه

أبداً ، وقد رضي الله فلا يخطئه أبداً و قال أبسط عن السدى نزلت هذه

الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام (تفسیر ابن کثیر ۲ / ۱۳)

ہمارا دین اسلام زندگی کے جملہ شعبوں میں کامل تعلیمات دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کل زمان و کل مکان قبل تطبیق ہیں، اور ان کی صلاحیت تا قیامت ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کسی بھی گوشے میں کوئی کمی کوئی ضعف اور کوئی خلل و کوئی فتور نہیں۔

تمام مسلمانوں پر دین اسلام کے ہر شعبہ کو مضبوطی سے کپڑا لازم ہے، مخملہ ان شعبہ جات

میں سے ایک شعبۂ اقتصاد بھی ہے، اس شعبے میں بھی اسلام نے ہمیں کامل تعلیمات والا عمل عطا فرمایا ہے، حال ہی میں حضرۃ الاشخ مولانا مفتی محمد تقی صاحب مظلہم نے اسلامی اقتصاد کو فروغ دینے کے لئے اور سود جیسے عگین گناہ سے نجات دلانے کے لئے محنت و کوشش کی اور بلا سود بینکاری کے عنوان سے ایک لا جھ عمل طے کیا، ان کا یہ اقدام تو بہت اچھا تھا لیکن حضرۃ موصوف کے اس مجوزہ لا جھ عمل کو جو کہ انہوں نے اپنے اجتہاد شخصی جہد سے تیار فرمایا تھا اسکو دیگر علماء کرام کے سامنے پیش کر کے اور ان کی موافقت کرنا میسر نہ ہو سکا، اور دیگر علماء و اہل افتاء کی موافقت سے پہلے میزان بینک نے اس کا نفاذ کر لیا، اور اسے اسلامی بینک کاری سے موسم کر دیا۔ ہمیں حضرت موصوف مظلہم کے مخلاص ہونے میں شک نہیں لیکن صفت عصمت تو حضرات انبیاء ﷺ الصلاۃ والسلام کے لئے ہے، اور کوئی مقصوم نہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کا مسئلہ امت کا اجتماعی مسئلہ ہے اجتماعی مسائل میں کسی ایک عالم کی رائے قابل تنفیذ نہیں، اجتماعی مسائل میں جملہ اہل افتاء کی رائے لینی چاہیے حضرات خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آتا تھا تو صحابہ میں اہل علم و اہل حل و عقد و جمع فرماتے تھے اور ان کے سامنے اس اجتماعی مسئلہ کو پیش فرماتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ أَمْرُهُمْ شُورِيٌّ بَيْنَهُمْ ﴾ (سورۃ الشوری آیت ۳۸)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی پر عمل فرمایا چنانچہ چالیس اہل علم کی مجلس شوریٰ تشكیل دی اور فقہی مسائل کو اس مجلس کے ارکان شوریٰ پر پیش فرماتے تھے اور ایک ایک مسئلہ پر بحث ہوتی تھی جیسا کہ اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں لہذا بعدواں اہل علم پر بھی اجتماعی مسائل میں یہی طریقہ کاراپنانا لازم ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلہم کا مجوزہ لا جھ عمل متعلقہ اسلامی بینکاری جب دیگر اہل علم و افتاء کے سامنے آیا تو ان اہل علم اہل افتاء کو شدید اشکالات ہوئے ان علماء نظام و مفتیان کرام نے مذکورہ بالا لا جھ عمل کا جائزہ لیا تو ان حضرات پر یہ ظاہر ہوا کہ مجوزہ لا جھ

عمل میں خامیاں ہیں اور اس لائج عمل میں ایسے امور ہیں جو شریعت کے قواعد و تعلیمات کے خلاف ہیں، اور یہ لائج عمل کلی طور پر سود سے مبرأ نہیں ہے، اور اس میں ایک بات بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو تو اس کو اسلامی بینکاری کہنا جائز نہیں، لہذا اس کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے تا کہ صحیح معنی میں اسلامی اقتصاد کو راجح کیا جائے، لہذا امر بالمعروف اور نبی عن امکن اور تو اوصی با الحق کی اہمیت سامنے رکھتے ہوئے ان مفتیان کرام نے مشارالیہ بینکاری پر نکیر فرمائی۔ اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی اور ایک سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں۔

اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مذہب نے ان کے جواب میں ایک کتاب بعنوان ”غیر سودی بینکاری“ تالیف فرمائی لیکن دیگر اہل علم کو اس میں اکثر باتوں پر اطمینان نہ ہوا لہذا ضرورت محسوس کی گئی، اداء للواجہ، کتاب مذکور کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس سے متعلق کچھ تحریر کیا جائے تا کہ جو لوگ اس مروجہ اسلامی بینکاری کو حقیقتاً سلامی بینکاری سمجھتے ہوئے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اس سے رجوع کر لیں اور توبہ واستغفار کر لیں، جو لوگ میزان بینک کو اسلامی بینک سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تجارتی معاملات کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک اہم مفتی کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر مفتیان کرام کا اختلاف ہو تو وہاں پر اختیاط والے فتویٰ کو اختیار کرنا چاہیے تا کہ اپنے دین کی حفاظت ہو سکے اور مشتبہ چیز سے بچا جاسکے جس چیز میں شبہ ہوا سے اجتناب کرنے کا حکم حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیٰ ہے: ﴿دَعْ مَا يَرِيْكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْكَ﴾ یعنی تم ایسی چیز کو چھوڑ دو جس میں شبہ ہے اور ایسی چیز اختیار کرو جو شک و شبہ سے پاک ہو۔

نیز صحیحین کی روایت میں ہے:

الحلالُ بَيْنُ وَ السَّحَراَمُ بَيْنُ وَ بَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبَرَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ

گرائِ یرعی حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ۔ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ

حِمَىٰ إِلَّا إِنَّ حِمَىَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمٌ۔ الحدیث۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث شریف بھی ان احادیث میں سے ہے جن میں اسلامی اصول بیان کیے گئے ہیں مذکور بالا حدیث شریف میں مشتبہات سے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور جو مشتبہات میں پڑے گا قریب ہے کہ وہ صریح حرام میں مبتلا ہو جائے لہذا مومن بندہ کو غالص حلال اختیار کرنا چاہئے اور مشتبہات سے گریز کرنا چاہئے۔

یہ دنیاۓ فانی چند روزہ ہے اس کو دوام نہیں اور آخرت باقی ہے جس کو زوال نہیں، لہذا باقی کی فکر کرنی چاہئے، وَاللهُ الْمَوْفُقُ وَالْمَعِينُ وَالْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔

قارئین کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں حضرت مولانا مفتی احمد متاز صاحب دامت برکاتہم نے مروجہ اسلامی بینکاری کی بڑی دقیق نظری کے ساتھ جانچ پڑتاں کی اور یہ کتاب بعنوان ”غیر سودی بینکاری ایک منصفانہ علمی جائزہ“ تأییف کی جسکی تصدیق و تصویب بہت سے اہل علم و مفتیان کرام نے فرمائی، یہ کتاب حضرت مؤلف کی عالمانہ و تقدیمانہ صلاحیت پر دال ہے۔ بندہ نے جہاں جہاں سے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو حضرت مؤلف کے علمی موقف کو قوی پایا۔ اللہ تعالیٰ شاً نہ قبول فرمائے۔

اس کتاب کی تقریظ و تصویب استاذ الاسلامۃ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم و دیگر مفتیان کرام کے کرنے کے بعد ناچیز کی تقریظ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن بندہ نے یہ چند سطیریں حضرت مؤلف کے فرمانے پر لکھا وادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاً نہ سے دعا ہے کہ بندہ نے جو سطور لکھی ہیں اس کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔

اللہ تعالیٰ شاً نہ مؤلف کو امت اسلامیہ کی طرف سے دارین میں جزاۓ خیر عطا فرمائے۔

دوسرے بنوک رویہ (یعنی سودی بینکوں) کی طرح مروجہ اسلامی بنوک کے ساتھ بھی معاملات جائز نہیں کیونکہ یہ بھی سودے قیمتیہ مبرانہیں۔

## مہینہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!

کتاب ”غیر سودی بینکاری“ تالیف حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد ہم جب بندہ کے پاس تبصرہ کے لئے یادگارِ اسلاف، استاذ العلماء، شیخ المشائخ، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے بھیجی گئی، تو جامعہ خلفاء راشدین کے اہل افتاء احباب کی مجلس میں ایک مرتبہ پوری کتاب پڑھی گئی۔ دورانِ خواندنگی بندہ کچھ تحفظات بھی ساتھ ساتھ لکھواتا اور بتاتا رہا۔

خواندنگی کے بعد بندہ نے اپنے تحفظات جمع کرنا شروع کئے جو محمد اللہ تعالیٰ ۱۵ صفحات کی ضخیم تحریر کی صورت میں شعبان ۱۴۳۰ھ کو مکمل ہوا۔

پھر ۱۴۳۱ھ کے مختصین فی الفقه الاسلامی کو سبقاً سبقاً تحریر مذکور پڑھائی گئی، اس اثناء میں مختلف مسائل پر بحث و تھیص بھی ہوتی رہی جس کے نتیجے میں بینک کے معاملات کے عدم جواز کی واضح اور صریح وجہ مزید کھل کر سامنے آئیں۔

تقریباً بارہ وجوہ (جنکی تفصیل قارئین کرام ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ اوراق میں ملاحظہ فرمایکیں گے) ایسی ہیں جن پر معمولی غور کرنے سے بآسانی یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ان بیکوئی میں جو معاملات راجح ہیں اور مجوزین حضرات نے ان کو جائز قرار دیا ہے ان میں سے کئی معاملات خلاف شرع، فاسد اور بکلم سود ہیں۔

نیز مجوزین حضرات جو ہر جگہ عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے ”تبادل“ کی ضرورت اور اہمیت پر بیان کرتے ہوئے بعض اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش کرتے رہتے ہیں، اس

سلسلے میں یہ گذارش ہے کہ کسی بھی سچے مسلمان کو اس کی ضرورت اور اہمیت سے نہ انکار ہو سکتا ہے اور نہ ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ اسلامی نامی بینکوں نے یہ ضرورت پوری کر دی ہے یا نہیں؟ اکابر حبهم اللہ تعالیٰ جس تبادل کے لئے کوشش تھے یہ بینک وہی تبادل ہیں یا نہیں؟ ان بینکوں کو شرعی تبادل کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟

زیر نظر اوراق میں تبادل کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ موجودہ بینک اُس شرعی تبادل کا مظہر نہیں، جن کی تمنا ہمارے اکابر حبهم اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں۔

قارئین کرام کی خدمت میں زیر نظر کتاب میں پہلے عدم جواز کی بارہ وجوہ کی تفصیل پیش کی گئی ہے، اس کے بعد کچھ دوسری اہم باتیں ہیں، اور آخر میں شرعی تبادل کی تفصیل اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ”غیر سودی بینکاری“ کا مختصر غلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔

امید ہے کہ احباب بنظر انصاف ان اوراق کا مطالعہ فرمائیں گے، فجز اکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس توفیق کو قبول فرمائ کر اپنی رضا کا بہانہ بنائیں اور مسلمانوں کے لئے خیر و برکت اور رہنمائی کا سامان..... فقط..... ان کم فی اللہ

خویدم العلماء

احمد متاز

جامعہ خلفاء راشدین علیہ السلام

مدنی کالونی، گریکس، ہاکس بے روڈ ماری پور کراچی

۲۹ / ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ



## ﴿مروجہ اسلامی بینکاری کے عدم جواز کی وجہ﴾

مندرجہ ذیل وجوہ کی بنابر مروجہ اسلامی بینکاری ناجائز اور حرام ہے۔

- (۱) ””یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم“، یہ شرعی مضاربت و شرکت کے خلاف ہے، نیز رأس المال کا معلوم ہونا بھی صحتِ شرکت و مضاربت کے لئے شرط ہے جبکہ بینک میں رأس المال کا معلوم ہونا ممکن ہی نہیں۔

(۲) ”وپیچ اور وزن میں تفاوت“، اس پر اہم اشکال اور اس کے ضمن میں کئی خلاف شرع امور۔

(۳) ”محود ذمہ داری کا تصور“، یہ مفسد عقد ہے، اور بیچ فاسد میں بیچ پر نفع لینا حرام ہے۔

(۴) ”بینک شرکیک کو ملازم رکھتا ہے“، یہ بھی مفسد شرکت ہے، کیونکہ اس سے ”شرکت فی الربح، منقطع ہو جاتی ہے۔“

(۵) ”سیکیورٹی ڈپاٹ کی شرط“، یہ ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ میں داخل اور سود ہے، جس کی شندید حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں۔

(۶) ”صفقه فی صفقه“، یہ بھی عدم جواز کی ایک بڑی وجہ ہے۔

- (۷) ”بیع الوفاء“ اور ”عقد سے قبل یک طرف وعدے کو لازم سمجھنا“ یہ چونکہ شرط لازم کی طرح ہے، اس لئے یہ بھی مفسد عقد اور حرام ہے۔
- (۸) ”شرکت متناقضہ“ یہ بھی کئی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہے۔
- (۹) ”اجارہ اور اس میں مرمت کی شرط لگانا“ یہ بھی مفسد اجارہ اور بحکم سود ہے۔
- (۱۰) ”اجرت اور کرایہ کا مجہول ہونا“ اس سے بھی اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔
- (۱۱) ”الزام تصدق مال“ یہ بھی لزوم کی وجہ سے طیب خاطر اور رضائے تام کے منافی اور حرام ہے۔
- (۱۲) ”قبض امانت کی قبض خمان میں بدوں تجدید تبدیلی“ یہ بھی خلاف شرع ہے۔

## (۱) ﴿”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم“﴾

اس عنوان کے تحت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

”بینکوں کا طریق کاری ہے کہ اس میں رقمیں رکھوانے والے اگرچہ ایک مخصوص مدت کے لئے رقمیں رکھواتے ہیں لیکن اکاؤنٹ میں سے رقمیں بکالے اور داخل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ غیرسودی بینکوں میں اس صورتحال کو منظر رکھتے ہوئے نفع کی تقسیم کا ایک طریق کاری ہوتا ہے جسے اردو میں ”یومیہ پیداوار“ کہا جاستا ہے، انگریزی میں "Daily Product" کہا جاتا ہے، اور عربی میں ”حساب النمر“ یا ”حساب النقاط“ کہتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے اس طریق کارکا نام اور تذکرہ اس وقت سنا جب اسلامی نظریاتی کو نسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر بینک میں رقم رکھوانے اور نکالنے کی کوئی تاریخ

متعین کی جائے کہ تمام شرکاء ایک ہی تاریخ میں رقمیں جمع کرائیں، اور ایک ہی تاریخ میں نفع نقصان کا تعین ہونے پر نکالیں، اور بیچ میں کسی کو مضاربہ کھاتے میں نہ کوئی رقم رکھوانے کی اجازت ہو، اور نہ نکالنے کی تو اس میں لوگوں کو سخت دشواری پیش آئیں (اقول: شرعی مضاربہ اور شرکتہ کے لئے اس دشواری کا تحمل ناگزیر ہے، احمد متاز) الہذا کیا کوئی ایسا طریقہ ممکن ہے جس میں رقمیں ڈالنے اور نکالنے کا سلسلہ جو آج بینکوں میں راجح ہے، برقرار رکھا جاسکے؟ بینک میں رقمیں رکھوانا آج کل ایک عام ضرورت بن چکا ہے، یہاں تک کہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقمیں رکھوانے کو علماء عصر نے بااتفاق اسی ضرورت کی وجہ سے جائز کہا ہے، (اقول: حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز فرمایا ہے، احسن الفتاویٰ /۱۵، ۱۴/، احمد متاز) ورنہ اس سے سودی کا رو بار میں تعاون لازم آتا ہے، اب لوگوں کو اس بات کا پابند کرنا کہ وہ کسی ایک خاص تاریخ میں بینک میں رقمیں رکھوائیں، اور ایک ہی تاریخ میں نکالیں، تقریباً ناقابل عمل ہے، (اقول: حرام اور سود سے بچنے کے لئے اس کو قابل عمل بنانا ہوگا، احمد متاز) اور اگر یہ کہا جائے کہ اس خاص طریق کے علاوہ کسی اور دن کسی کو رقم رکھوانے کی ضرورت ہو تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھوائے، مضاربہ کھاتے میں شریک نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تمام رقم سے بینک تو نفع حاصل کرے لیکن ان رقم کے مالکان کو کوئی نفع نہ ملے۔ (اقول: مالکان کو تخلی کرنا پڑے گا، احمد متاز) ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظریاتی کو نسل کے سامنے یہ

تجویز پیش کی گئی کہ رقمیں خواہ کسی وقت رکھوائی جائیں، انہیں ”یومیہ پیداوار“ کے حسابی طریقے کے مطابق نفع میں شریک کیا جائے۔ ”یومیہ پیداوار“ کے حسابی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ مدت مضاربت کے اعتنام پر جو نفع آئے، اس کے بارے میں یہ حساب کیا جائے کہ اوسطاً فی یوم فی روپیہ کتنا نفع حاصل ہوا؟ مثلاً تیس دن میں تین سورو پے پر تیس روپیہ نفع ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سورو پے پر فی یوم ایک روپیہ نفع آیا، لہذا ایک روپے پر فی یوم نفع 33.003 ہوا۔ اب اگر کسی شخص کا ایک روپیہ پندرہ دن مضاربت کھاتے میں رہا تو اس ایک روپے کو 33.003 پندرہ سے ضرب دیا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ایک روپے پر 0.04999 نفع آیا، اب اگر کسی کے دس روپے پندرہ دن رہے تھے تو اس نفع کو دس سے ضرب دے کر اس کا نفع 0.4999 ہو گیا۔

اس طریقے کو ”یومیہ پیداوار“ کا حساب کہا جاتا ہے۔

اسلامی نظریاتی کو نسل نے مذکورہ بالا امور کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر سودی بینکوں کے لئے اس طریقہ کار کی منظوری دی جو اس کی روپورٹ کے صفحہ ۲۸ پر ”بینک ڈپاٹس“ کے زیر عنوان مذکور ہے۔ میں تو اس وقت کو نسل کا سب سے کم عمر کن تھا، لیکن اس وقت کو نسل کے علماء ارکان میں حضرت مولانا نعیم الحق صاحب افغانی، اور حضرت مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کا خلیل رحمہما اللہ تعالیٰ اور بریلوی حضرات میں سے حضرت مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، اور پیر قمر الدین سیاللوی شامل تھے۔

.....بندے نے بھی اپنی کتاب ”بحوث فی قضایا فقهیہ

معاصرہ“ کی دوسری جلد میں اس طریق کا رپرنسنگو کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک نیا طریق کارہے جس کا صرتوذکر کتب فقه میں ملنا ممکن نہیں، لیکن چونکہ یہ ایک نئی صورت حال ہے جس کی حاجت پیش آنے کا اس وقت تصور نہیں تھا، اس لئے اس کو ان اصولوں کی روشنی میں دیکھنا چاہئے جو شرکت اور مضاربہ کے بنیادی اصول ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں شرکت اور مضاربہ کے بارے میں اصولی ہدایات دی گئی ہیں جن کی روشنی میں عدل کے عام اصولوں اور عرف و تعامل کی بنیاد پر فقہاء کرام نے احکام متعین فرمائے ہیں۔

شرکت اور مضاربہ میں نفع کی تقسیم کے بارے میں جو بنیادی قاعدہ فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ”الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على قدر المال“، یعنی نفع اس بنیاد پر تقسیم ہوگا جس پر شرکاء متفق ہو جائیں، اور نقصان ہمیشہ سرمایہ کے بقدر ہوگا۔ (أقول: لیکن جن ایام اور شہور میں بعض افراد شریک ہی نہیں تو بصورت نقصان ان کے ذمہ نقصان کیوں؟ اور بصورت نفع یہ اس نفع میں شریک کیوں؟ احمد ممتاز) اس اصول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کاروبار کا نقصان تو ہمیشہ سرمائے پر پڑنا ضروری ہے، یعنی جس نے جس تناسب سے سرمایہ لگایا ہے، نقصان بھی وہ اسی تناسب سے برداشت کرے گا، اور اس کے خلاف اگر باہمی رضامندی سے بھی کوئی معاهدہ کر لیا جائے جس میں نقصان کوئی ایک فریق اٹھائے، یا کوئی فریق اپنے لگائے ہوئے سرمائے سے کم یا زیادہ نقصان برداشت کرے تو یہ ناجائز ہے، (أقول: ”یومیہ

پیداوار“ میں یہی بات لازم آتی ہے، کیونکہ چھ ماہ بعد آنے والا گذشتہ چھ ماہ کے نقصان کا ضامن بنایا جاتا ہے جبکہ اس کا سرمایہ اب تک تجارت میں لگا ہوا بھی نہیں، احمد متاز) لیکن جہاں تک نفع کی تقسیم کا سوال ہے، تو جب تک تمام شرکاء کو نفع مل رہا ہو، اور کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس میں کسی ایک شریک کو نفع ملے، دوسرے کو نہ ملے (جسے فقهاء کرام نے فقط اس الشرکت سے تعبیر کیا ہے) تو تقسیم کی کوئی بھی شرح باہمی رضامندی سے تجویز کی جاسکتی ہے۔ انہی مختلف شرحوں کو بینکاری کی اصطلاح میں ”وزن“ یا وِتّیج (weightage) کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؓ کے جس ارشاد پر فقهاء حفیہ نے یہ اصول متفرع کیا ہے، وہ شرکت اور مضاربہ دونوں کے لئے ہے، چنانچہ مصنف عبدالرازاق میں ہے کہ:

((أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقُ قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْحَصِينِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلَى فِي الْمَضَارِبَةِ: ”الْوَضِيْعَةُ عَلَى الْمَالِ وَ الرِّبَاحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ“)) ” وَ أَمَّا الشُّورِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عَلَى فِي الْمَضَارِبَةِ أَوِ الشَّرِيكِينَ“

(مصنف عبدالرازاق، کتاب البيوع، باب نفقة المضارب و وضيعيته، رقم ۷۴، ۱۵۰۸ھ / ۸، ۲۳۷ھ، ط: المجلس العلمي)

﴿حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ﴾ عقد مضاربہ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ نقصان اصل سرمائے پر ہو گا اور نفع اس بنیاد پر تقسیم ہو گا جس پر شرکاء آپس میں متفق ہو جائیں ﴿

پھر فقهاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مضاربہ میں اگر نفع کا تناسب

مختلف حالتوں میں مختلف مقرر کر لیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے:

”وقال ابن سماعة : سمعت محمدا قال في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فقال له : ان اشتريت به الحنطة فلك من الربع النصف ولی النصف، و ان اشتريت به الدقيق فلك الثالث ولی الشisan، فقال : هذا جائز و له أن يشتري أى ذلك شاء على ما سمي له رب المال ؛ لأنه خيره بين عمليين مختلفين فيجوز ، كما لو خير الخياط بين الخياطة الرومية والفارسية، ولو دفع اليه على أنه ان عمل في المصر فله ثلث الربع، و ان سافر فله النصف جاز، و الربع بينهما على ما شرطا ان عمل في المصر فله الثالث و ان سافر فله النصف“

(بدائع الصنائع، کتاب المضاربة ج ۲ ص ۹۹ ط: ایچ ایم سعید)  
بظاهر اس معاملے میں بھی شرکت اور مضاربت میں کوئی فرق نہیں ہے،  
کیونکہ نفع کا تناوب مقرر ہونا جس طرح شرکت میں ضروری ہے، اسی طرح مضاربت میں بھی ضروری ہے۔ (دیکھئے شرکت کے لئے بدائع ج ۶ ص ۵۹ اور مضاربت کے لئے ج ۶ ص ۸۵)

اب ذرا غیرسودی بینک اکاؤنٹس کی فقہی حیثیت پر غور فرمائیے:  
جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں جس میں اکاؤنٹ ہو لڈ رار باب الاموال ہیں، اور بینک مضارب ہے۔ اور فقہی اعتبار سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ

بہت سے لوگ مل کر کسی ایک مضارب سے مضاربت کا عقد کریں۔ شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی متعدد کتب میں تو اس کی تصریح موجود ہے، اور اگرچہ اس بات کی تصریح حنفیہ کی کتابوں میں مجھے نہیں ملی، لیکن علامہ ابن قدامہ نے امام ابوحنیفہ سے ایک مسئلہ نقل فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے بھی اسے جائز کہا ہے، اور ساتھ ہی ان کے نزدیک ایسی صورت میں ارباب الاموال کے درمیان نفع میں تقاضل بھی جائز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وَ إِنْ قَارَضَ أَثْنَانَ وَاحِدًا بِأَلْفِ جَازٍ. وَ إِذَا شرطَ الْهُرَبَةَ متساوِيَاً مِنْهُمَا جَازَ، وَ إِنْ شرطَ أَحدهُمَا لِ النَّصْفِ وَ الْآخِرِ الشَّيْلَثُ جَازَ، وَ يَكُونُ باقِي رِبَحِ مَالٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَ هَذَا شرطًا كَوْنَ الْبَاقِي مِنَ الرِّبَحِ بَيْنَهُمَا نَصْفَيْنِ لَمْ يَجِزْ، وَ هَذِهِ مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَ كَلَامُ القاضِي يَقْضِي جَوازَهُ، وَ حَكَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَ أَبِي ثُورٍ. وَ لَنَا: أَنَّ أَحدهُمَا يَبْقَى لَهُ مِنَ رِبَحِ مَالِهِ النَّصْفُ وَ الْآخِرُ يَبْقَى لَهُ الشَّيْلَاثُ، فَإِذَا اشْتَرَطَا التَّسَاوِيَ فَقَدْ شرطَ أَحدهُمَا لِلآخِرِ جَزءًا مِنَ رِبَحِ مَالِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَلَمْ يَجِزْ كَمَا لَوْ شرطَ رِبَحَ مَالِهِ الْمُنْفَرِدَ“ (المغنی لابن قدامة ج ۵ ص ۱۲۶)

یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دو مختلف آدمیوں، مثلاً زید اور عمرو نے ایک مضارب مثلاً بکر سے الگ الگ مضاربت کا معاملہ کیا، زید نے مضارب کا حصہ نفع مقرر کیا، اور عمرو نے ایک ثلث، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثلث بکر کا ہوگا، اور دو ثلث عمرو کے ہونے گے، گویا دونوں ارباب الاموال

نے بکر کے ساتھ نفع کی الگ الگ شرطیں مقرر کیں۔ اب امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مضارب کو اس کا حصہ دینے کے بعد زید اور عمر و کے درمیان نفع کی تقسیم ان کے لگائے ہوئے سرمائے ہی کے حساب سے ہوگی، اس لئے وہ مضارب سے یہ طنہیں کر سکتے کہ اس کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا، وہ ہم آپس میں برابر تقسیم کریں گے، کیونکہ زید کے لگائے ہوئے سرمائے کا حصہ تو نفع کا نصف تھا، اور عمر و کا دو ملٹھ تھا، اس لئے وہ اسی تناسب سے تقسیم ہونا چاہئے، برابر کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ زید اور عمر و جو دونوں رب المال ہیں، اپنے لگائے ہوئے سرمائے کی نسبت سے نہیں، بلکہ تفاضل کے ساتھ نفع تقسیم کرنے کی شرط لگارہے ہیں، اور عمر و اپنے سرمائے کے نفع کا کچھ حصہ زید کو دے رہا ہے، حالانکہ زید نے کوئی عمل نہیں کیا، الہذا وہ ناجائز ہے۔

لیکن خط کشیدہ عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنفیہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے کہ کئی افراد رب المال ہوں، اور وہ مل کر کسی ایک مضارب سے معاملہ کریں، اور امام ابوحنفیہ کے نزدیک اس صورت میں ارباب الاموال کے درمیان شرکت شرکت عقد ہے، اس لئے اگر ارباب الاموال آپس میں نفع کی شرطیں تفاضل کے ساتھ مختلف طے کر لیں تو امام ابوحنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔

امام احمد اگرچہ شرکت عقد میں حفیہ کی طرح تفاضل فی الرنج کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شاید اس لئے اختلاف کیا ہے کہ مضارب کو دینے کی صورت میں یہ بات طے ہے کہ وہ عمل نہیں کریں گے،

اور جب کوئی شریک عدم عمل کی شرط لگائے تو وہ رأس المال کے تابع سے زیادہ نفع کی شرح مقرر نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابوحنیفہ، امام ابوثورؓ اور حنبلہ میں سے قاضی عیاضؓ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس صورت میں شرکاء کا عمل صرف مضارب سے معاملہ کرنا ہے، اور اس عمل میں وہ سب شریک ہیں، اس لئے ان کے لئے تھا ضل فی الرجح بھی جائز ہے۔  
البتہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک چونکہ شرکت میں تساوی فی الرجح ہر حالت میں شرط ہے، اس لئے ان کے نزدیک یہ تو ہو سکتا ہے کہ کئی آدنی مل کر کسی ایک سے مضارب کا معاملہ کریں، لیکن ان کے درمیان آپس میں نفع کی شرح متساوی ہونی ضروری ہے، چاہے مضارب کے ساتھ ہر ایک کی نفع کی شرح مختلف رکھی گئی ہو۔

چنانچہ علامہ بغوی شافعیؓ فرماتے ہیں:

”ولو قارض رجلان رجالاً على ألف، فقلوا: قارضناك على أن نصف الربح لك، والباقي بيننا بالسوية، جاز. ولو قالوا: على أن لك الثالث من نصيب أحدنا و الرابع من نصيب الآخر، ان لم يبينا لم يجز، و ان بینا نظر ان لم يقولا: الباقي بيننا صحي و يكون الباقي من نصيب كل واحد له، فان قالوا: الباقي بيننا لا يصح لأنه يبقى لمن شرط للعامل الثالث أقل، فلا يكون الباقي بينهما سواء، كما لو قال: ثلث الربح لك، والباقي بيننا أثلاثنا لا يصح“

(التهذیب للبغویؓ، کتاب القراءن، ۲/۸۴۳ ط: درالكتب العلمیة)

مالکیہ کے نزدیک بھی قریب قریب یہی بات ہے۔ علامہ ابن رشد مالکیٰ لکھتے ہیں:

”و سئل مالک عن رجل أخذ من رجلين مala قراضاً فأراد أن يخلطه بغير اذنهما فقال: يستأذنهما أححسن وأحب إلى، فان لم يستأذنهما فلا أرى عليه سبيلا. قيل له: فإنه استاذن أحدهما فأذن له و لم يأذن له الآخر فخلطهما؟ قال: يستغفر الله ولا يعد“

(البيان والتحصيل لابن رشد ج ۱۲ ص ۳۲۹)

اور امداد الاحکام میں بھی ایک سوال کے جواب میں متعدد ارباب الاموال کے ایک مضارب سے عقد کرنے کی ایک صورت بیان ہوئی ہے، اور اس میں اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ کسی رب المال کا روپیہ باقی شرکاء کی مرضی سے حساب سے پہلے ہی واپس کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”سوال: کچھ دوقتوں پر نظر کر کے یہ بات ذہن میں کئی مرتبہ آچکی ہے کہ با فعل صرف ایک ہزار روپیہ دس مسلمانوں سے بوقت واحد، مثلاً محرم کے مہینے میں، لے کر اس روپیہ سے ہر وقت بنے والی کتابیں خرید کروں، حساب اس کا بالکل الگ رکھوں، اور سال گزرنے پر یا چھ ماہ گزرنے پر اس کا نفع حساب کر کے، الگ کر کے، نصف صاحب روپیہ کو دوں، اور نصف خود لے لوں۔ اس مذکورہ صورت میں رب المال دس ہوں گے۔ جو شریک اپناروپیہ واپس لینا چاہے، حساب کے وقت ۲ ماہ پہلے اطلاع کر دے، وقت حساب مع نفع کے اس کا روپیہ واپس کر دوں۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟“  
الجواب: اگر چند آدمی شریک ہو کر مشترک رقم مضاربت کے لئے دیں تو

اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں ایک شخص کا روپیہ مضارب درمیان میں ادا کر دے، بلکہ سب شرکاء کی رضامندی شرط ہے۔ و هذَا كَلَهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ۔ البتة اگر ایسا کیا جاوے کہ ہر شخص کی رقم کی کتابیں جدا گانہ رکھی جاویں تو پھر ہر شخص کا حساب الگ ہو سکتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ احقر عبد الکریم عفی عنہ  
الجواب صحیح۔ ظفر احمد عفانہ“

(امداد الاحکام، کتاب الشرکۃ والمضاربة ج ۳ ص ۳۵۷)

ان اصولوں اور احکام کو ذہن میں رکھتے ہوئے غیرسودی بینوں میں شرکت و مضاربہت قائم کرنے اور ”یومیہ پیداوار“ کی بنیاد پر نفع و نقصان پر غور کیا جائے تو اس میں روایتی طریق کار سے دو چیزوں میں فرق نظر آتا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں شرکاء و قفعے و قفعے سے آر ہے ہیں اور انہیں ان کی مدت شرکت کے حساب سے نفع یا نقصان میں شریک کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ مدت شرکت ختم ہونے سے پہلے کلی یا جزوی طور پر اس سے نکل بھی رہے ہیں۔ اب دونوں پہلوؤں پر الگ الگ گفتگو مناسب ہو گی۔

جہاں تک شرکاء کے وقفے و قفعے سے شرکت میں داخل ہونے کا تعلق ہے، اس کے لئے ایک سادہ سی مثال پر غور کر لیں۔ فرض کیجئے زید اور عمر و کا ایک چلتا ہوا کاروبار ہے جو مختلف نوعیت کے معاملات پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں اپنے نفع و نقصان کا حساب سالانہ کیم رمضاں کو کرتے ہیں۔ اب کیم رمضان سے چھ مہینے پہلے بکران سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے کاروبار میں سرمایہ

ڈال کر شریک ہونا چاہتا ہوں، چونکہ زید اور عمر و کو بھی اپنے کاروبار میں وسعت لانے کے لئے مزید سرمائے کی ضرورت ہے، اس لئے وہ بکر کو شریک کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں، اور یہ طے کرتے ہیں کہ بکر اتنا سرمایہ کاروبار میں ڈالے گا جس سے وہ کاروبار کے ایک تہائی حصے میں شریک ہو جائے، اور نفع کا تناسب بھی تینوں شرکاء کا ایک ایک تہائی ہو گا، البتہ کیم رمضان کو جب نفع و نقصان کا حساب ہو گا تو چونکہ بکر کی حصہ داری صرف چھ ماہ رہی ہے جو دوسرے دو حصہ داروں کے مقابلے میں آدھی ہے، اس لئے وہ ایک تہائی نفع کے نصف، یعنی چھٹے حصے کا حق دار ہو گا۔ اگر تینوں فریق اس پر متفق ہو جائیں تو ظاہر ”الربح على ما اصطحا عليه“ کے قاعدے کے عوم کے پیش نظر اس میں شرکت کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بس ”یومیہ پیداوار“ کی بنیاد پر نفع کی تقسیم کا یہی مطلب ہے۔ (غیر سودی بینکاری ۳۰۳ تا ۳۱۷)

﴿”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر نفع کی تقسیم“ کی ”سادہ سی مثال“ پر اشکالات ﴾  
اس پر ایک اشکال تو یہ ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں کبھی اصل سرمایہ کے ساتھ نفع بھی ہوتا ہے، تو یہ صرف سرمایہ کی نسبت سے ایک تہائی میں شریک ہو گا یا سرمایہ مع نفع کے؟ بہرحال جو بھی مراد ہے، ہر ایک پر اشکال ہے۔

**مراد اول پر اشکال:** اگر مراد صرف سرمایہ میں ایک تہائی کی شرکت ہے، مثلاً زید اور عمر و کا سرمایہ دس لاکھ تھا اور چھ ماہ کاروبار کے بعد مثلاً دواں لاکھ کا نفع بھی ہو گیا، اب اگر یہ کیا جائے کہ بکر اصل سرمایہ کے مطابق صرف دس لاکھ جمع کر کے دے تاکہ، ایک تہائی کاروبار میں

شریک ہو جائے تو اس پر یہ اشکال ہے کہ آئندہ کار و بار تینوں کے اصل سرمایہ جو کہ تمیں لا کھ ہے اور زید عمر و کے نفع جو کہ دولا کھ ہے، دونوں کے مجموعہ جو کہ بتیں لا کھ ہے، سے ہو گا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگلے چھ ماہ کا کار و بار بتیں لا کھ سرمایہ سے ہو رہا ہے نہ کہ تمیں لا کھ سے..... لہذا اس تفصیل کے مطابق بکرا ایک تہائی کار و بار میں کیسے شریک ہوا؟ اور ایک تہائی نفع کا کیسے مستحق ہوا؟

**مراوٹانی پر اشکال:** اور اگر مراد اصل مع نفع یعنی ۲۲ لاکھ کی ایک تہائی ہے تو اس صورت پر اشکال یہ ہے کہ جب گذشتہ نفع کو سرمایہ میں ملا یا گیا اور اس کے تناسب سے بکر سے ۱۱ لاکھ سرمایہ لیا گیا، تو اب بکر کو نفع کی ایک تہائی کا آدھا یعنی ایک بیاچھو، ۶ رادینا کیوں جائز ہو گا؟ کیونکہ جب گذشتہ چھ ماہ کے نفع کی وجہ سے دونوں کے سرمایہ میں اضافہ کیا گیا تو گویا وہ دونوں گذشتہ نفع وصول کر چکے اب دوبارہ کیوں دیا جائے گا؟

نیزان دونوں صورتوں پر ایک اشکال یہ بھی ہے کہ چلتے کار و بار میں نقودا و عروض دونوں قسم کے اموال ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں صرف نقد سے شرکت کرنا احتاف رحمم اللہ تعالیٰ کی کس کتاب میں جائز لکھا ہوا ہے؟ اس کا حوالہ درکار ہے۔

آگے عبارت ”اس پر بنیادی اشکال اخ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد صرف اصل سرمایہ بدول نفع کے ہے..... اس پر گذشتہ اشکال کے علاوہ درج ذیل اشکالات بھی ہیں۔

**پہلا اشکال:** یہ ہے کہ مثلاً اگر شروع چھ ماہ میں چار لاکھ پچاس ہزار روپے کا نفع ہوا ہو اور بکر کی شرکت کے بعد آخری چھ ماہ میں صرف ڈیڑھ لاکھ کا نفع ہوا ہو، اس صورت میں شرعاً زید اور عمر و میں سے ہر ایک کو ۲۵ لاکھ ۷ ہزار نفع ملے گا اور بکر کو صرف ۵۰ ہزار ملے گا..... لیکن ”یومیہ پیداوار“ کی وجہ سے بکر کو پچاس ہزار زیادہ دیا جائے گا، اور زید اور دونوں کے

نفع میں سے ۲۵، ۲۵ ہزار کم کیا جائے گا۔ ان دونوں کے نفع میں سے مجموعہ ۵۰ ہزار کم کرنا اور بکر کو دینا، جبکہ بکرا بتدائی چھ ماہ میں ان کے ساتھ شریک ہی نہیں۔ کس مذہب اور فقہ کی رو سے شرکاء پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اپنے نفع میں غیر شریک کو بھی دینا پڑے گا؟

**دوسری اشکال:** یہ ہے کہ مثلاً اگر شروع چھ ماہ میں ۶ لاکھ کا نفع ہوا اور بکر کے آنے کے بعد چھ ماہ میں بجائے نفع کے تین لاکھ کا نقصان ہوا۔

شرعاً ایسی صورت میں بکر کے سرمایہ سے ایک لاکھ کم کر دیا جائے گا اور نفع کو بھی ملے گا اور زید و عمر و کوچھ لاکھ نفع میں سے دو لاکھ نقصان میں وضع کیا جائے گا اور باقی چار لاکھ ان میں تقسیم ہو کر ہر ایک کو دو دو لاکھ نفع ملے گا..... جبکہ ”یومیہ پیداوار“ نے بکر کا نقصان بھی زید و عمر و کے نفع پر ڈال دیا اور مزید ان کے نفع سے کچھ نفع بھی حاصل کر لیا، کیونکہ ”یومیہ پیداوار“ کی بنیاد پر جب شرکت و مضاربت کے اصول کے مطابق سال کا نقصان نفع سے پورا کیا گیا تو تین لاکھ نفع کے اس میں چلے گئے اور باقی تین لاکھ میں سے چھٹا حصہ یعنی ۵۰ ہزار روپے بطور نفع بکر بھی لے گیا۔

**تیسرا اشکال:** یہ ہے کہ مثلاً شروع چھ ماہ میں نفع صرف ایک لاکھ ہوا تھا اور بکر کی شرکت کے بعد چھ لاکھ ہوا۔

ایسی صورت میں شرعاً بکر کو دو لاکھ نفع طے شدہ نسبت سے ملنا شرعاً ضروری ہے جب کہ زید و عمر و میں سے ہر ایک کو ڈھائی لاکھ ملنا چاہئے..... لیکن ”یومیہ پیداوار“ کی وجہ سے بکر کو طے شدہ نسبت سے بہت کم یعنی ایک لاکھ سولہ ہزار چھ سو چھیاسٹھروپیہ چھیاسٹھ پیسہ، ملے گا، اور زید و عمر و کو طے شدہ نسبت سے بہت زیادہ یعنی دو لاکھ اکیانوے ہزار چھ سو چھیاسٹھروپیہ چھیاسٹھ پیسہ ہر ایک کو ملے گا۔

**چوتھا اشکال:** یہ ہے کہ مثلاً اگر زید اور عمرو نے چھ ماہ میں حوادث کی وجہ سے اصل سرمایہ (جو بیس لاکھ تھا) سے بھی زیادہ نقصان اٹھایا، مثلاً تمیں لاکھ کا نقصان ہوا جس سے سرمایہ بھی گیا اور مزید دس لاکھ مقرر وض بھی ہوئے (لیکن پھر بھی ادھار پر سامان خرید کر کاروبار چلا رہے ہیں) بکر کے شریک ہونے کے بعد تقریباً ایک لاکھ کا نفع ہوا.....اس صورت میں شرعاً نقصان پورے کا پورا زید اور عمر و کا ہوگا، اور بکر کو تینیں ہزار تین سو تینیں روپیہ تینیں پیسے نفع کا بھی ملے گا اور اصل سرمایہ بھی پورا محفوظ ہوگا.....لیکن ”یومیہ پیداوار“ کی وجہ سے زید اور عمرو کے ساتھ ساتھ بکر کو نفع کچھ بھی نہیں ملے گا، اثنان لاکھ سرمایہ بھی ڈوب جائے گا اور بقایا ایک لاکھ میں یہ صرف ایک تہائی یعنی تینیں ہزار تین سو تینیں روپیہ تینیں پیسے کا مالک رہے گا۔

اگر بکر نے پوچھ لیا کہ میری شرکت کے بعد اتنا بڑا نقصان تو میرے سامنے نہیں آیا؟ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی شرکت سے قبل یہ نقصان ہو چکا تھا اور ہمارے پاس جو سامان تھا وہ سارے کا سارا ادھار کا تھا..... تو کیا ان دونوں کے بکر کی شرکت سے قبل کے نقصان کو بکر قبول کر لے گا؟ اور کیا شرعاً بکر کے ذمے یہ نقصان قبول کرنا لازم ہے؟ ظاہر ہے کہ بکر یہی کہے گا کہ جب میں گزشتہ چھ ماہ میں تمہارا شریک ہی نہیں تھا تو پھر میرے ذمہ نقصان کیونکرڈ الگیا؟ کیس مذہب اور فقہ میں ہے کہ نقصان تو شرکاء آپس میں کریں اور ڈالیں غیر شریک پر؟

**نتیجہ:** کئی تجارتے بتایا کہ ہر مہینے نفع کا تناسب بجائے یکساں ہونے کے اکثر تو قریب قریب بھی نہیں ہوتا، کسی مہینے میں زیادہ نفع ہوتا ہے اور کسی مہینے میں بہت کم، کسی مہینے کچھ بھی نفع نہیں ہوتا اور کسی مہینے میں اچھا خاصاً نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لئے شروع کے چھ ماہ اور آخری چھ ماہ کے نفع نقصان کا برابر ہونا عادۃً محال ہے، خود ان نام نہاد اسلامی بیانکوں میں

ملازمت کرنے والے دو فراد نے بتایا کہ بھی مراد کے دو تین فارم پر کئے جاتے ہیں اور بھی بیس یا تیس بھی ہوتے ہیں۔

آگے پھر لکھتے ہیں:

”اس پر بنیادی اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ نفع کا جو حساب آخر میں کیا گیا ہے، اس میں وہ نفع بھی شامل ہو جاتا ہے جو صرف زید اور عمر و کے مال پر ہوا جو ابتداء ہی سے شریک تھے، لیکن اس میں حصہ دار بکر بھی ہو رہا ہے جو بعد میں شریک ہوا جبکہ اس وقت وہ کاروبار میں شریک نہیں تھا۔

اس اشکال کے بارے میں عرض یہ ہے کہ چونکہ بکر شروع کے کاروبار میں شریک نہیں تھا، اسی لئے اس کا نفع کا حصہ بھی اسی نسبت سے کم ہو گیا ہے۔ اس لئے اس میں عدل و انصاف کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ (آقول: مندرجہ بالا اشکالات سے اب ہر ایک سمجھ گیا ہو گا کہ اس میں عدل و انصاف کے خلاف بہت بڑی بات ہے، کہ ایک کو دوسرے کا حق ناجائز طور پر کھلایا جا رہا ہے، اور بلا وجہ ایک کا نقصان دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے، نیز آئندہ کاروبار بکر کے سرمائے اور نفع دونوں سے ہو رہا ہے جبکہ نفع زید اور عمر کو ان کے سرمائے کے تناوب سے دیا جا رہا ہے، یہ بھی عدل و انصاف کے خلاف ایک واضح بات ہے، احمد متاز) نیز شرکت قائم ہو جانے کے بعد نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے روپ پر کتنا نفع ہوا، بلکہ سب لوگوں کا سرمایہ شرکت کے حوض میں جانے کے بعد مخلوط ہو جاتا ہے۔ اسی لئے نفع میں شرکاء کے درمیان کمی بیشی جائز ہے۔ (آقول: جب شروع کے چھ ماہ میں بکر کی شرکت قائم ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا سرمایہ شرکت

کے حوض میں جا کر مخلوط ہوا ہے، پھر تو دیکھنا چاہئے کہ زید اور عمرو کے روپے پر کتنا نفع ہوا ہے؟ (احمد متاز) فرض کیجئے کہ زید کا سرمایہ کاروبار میں چالیس فی صد ہے، اور عمر و کا ساٹھ فی صد اور کام دونوں کرتے ہیں۔ اگر باہمی رضامندی سے یہ معابدہ کریں کہ زید کو نفع کا ساٹھ فی صد ملے گا، اور عمر و کو چالیس فی صد، تو یہ صورت مذکورہ بالا آثار کی روشنی میں جائز ہے، اور فہمیہ بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ اب زید کے ساٹھ فی صد میں سے دو تہائی یعنی چالیس فی صد تو زید کے اپنے سرمائے کے حصے اور اپنے عمل سے حاصل ہوا ہے، اور باقی بیس فی صد عمرو کے لگائے ہوئے سرمائے اور عمل سے، لیکن اس کے لئے یہ بیس فی صد نفع بھی طشدہ شرط کے مطابق حلال ہے۔ (آقوٰ: بے شک حلال ہے، لیکن شروع کے چھ مہینوں میں تو بکرا ان سے کسی قسم کا معابدہ ہی نہیں، تو کیونکہ حصہ دار بنے گا اور نفع حلال ہوگا؟ احمد متاز) اس سے بھی زیادہ واضح مثال یہ ہے کہ اگر زید اور عمرو نے شرکت کا عقد کر لیا، لیکن اپنا سرمایہ اکٹھا نہیں کیا۔ (آقوٰ: شروع کے چھ ماہ میں جب بکرنے ان کے ساتھ شرکت کا عقد کیا ہی نہیں، تو کیونکہ شریک ہوگا؟ الہذا اس مثال کو یہاں پیش کرنا صرف مندرجہ ذیل عبارات فہمیہ کے ذکر کرنے کا ایک خوبصورت بہانہ سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ”یومیہ پیداوار“ کے طریقہ پر نفع کی تقسیم کا جواز ہرگز ثابت نہیں ہوتا، احمد متاز) اس کے باوجود اگر زید صرف اپنے مال سے شرکت کے لئے کوئی چیز خرید کر بیچ تو اس کے نفع میں دونوں شریک ہونگے، اور اگر خریداری کے بعد وہ چیز تباہ ہو جائے تو اس کا نقصان بھی دونوں اٹھائیں گے۔

(أقوال: چھ ماہ قبل بکر کی شرکت سے پہلے جوزید اور عمر و نے نقصانات کئے، کیا وہ بکر کے ذمہ بھی ہوں گے؟ حوالہ درکار ہے! احمد ممتاز)

بدائع الصنائع میں ہے:

”اما قوله الشرکة تنبئ عن الاختلاط فمسلم، لكن على اختلاط رأس المال أو على اختلاط الربح؟ فهذا مما لا يتعرض له لفظ الشرکة، فيجوز أن يكون تسميتها شركة لاختلاط الربح لا لاختلاط رأس المال، و اختلاط الربح يوجد ان اشتري كل واحد بمال نفسه على حدة، لأن الزيادة‘ وهي الربح‘ تحدث على الشرکة (أقوال: هل الربح قبل شرکة بکر، كان حدث على الشرکة؟ احمد ممتاز) .... حتى لو هلك بعد الشراء يأخذهما كان الھالک من الماليين جمیعا لأنھ هلك بعد تمام العقد“

(بدائع الصنائع ج ۲ ص ۶۰ ط کراچی)

(أقوال: إن هلك قبل شرکة بکر، فهل هلك بعد تمام العقد؟  
احمد ممتاز)

﴿رہا امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ”شرکت آپس میں مال کے مل جانے کو ظاہر کرتی ہے“ یہاں تک تو مسلم ہے، لیکن یہ بات کہ شرکت کو شرکت آیا دونوں شریکوں کے رأس المال کے مل جانے کی وجہ سے کہتے ہیں یا دونوں کے نفع کے مخلوط ہونے کی وجہ سے؟ تو یہ ایک ایسی بات جس کی طرف لفظی شرکت میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ شرکت کو شرکت فقط اختلاط نفع کی وجہ سے کہا جائے، نہ کہ دونوں شریکوں کے رأس المال کے مل جانے کی وجہ سے، اور اختلاط نفع توہاں بھی پایا جائے گا جہاں شرکاء

میں سے ہر ایک اپنے مال سے علیحدہ کوئی چیز خرید لے، اس لئے کہ (خریداری کے بعد چیز کی قیمت میں) اضافہ جو کہ نفع ہی ہے، یہ شرکت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے تو باع دنوں شرکیوں کو قیمت کا ضامن بنا سکتا ہے اور اس کا نقصان دنوں کے مال پر آئے گا، کیونکہ وہ چیز عقد مکمل ہونے کے بعد ہلاک ہوئی ہے۔  
اسی طرح شرکتہ الاعمال میں اگر ایک شریک نے کوئی عمل نہ کیا ہو، تب بھی وہ اس اجرت میں شریک ہوتا ہے جو دوسرے شریک کے عمل پر ملی ہو، چنانچہ مبسوط سرخسی میں ہے:

”قال: و الشريكان في العمل اذا غاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل و عمل الآخر: فالربح بينهما على ما اشتراطا؛ لما روى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أعمل في السوق ولی شریک يصلی فی المسجد؛ (أقول: هل بکر، قبل الشرکة فی الشهور الماضية ستة يكون مصداقاً)“ و لی شریک“ ألم لا؟“ أَحْمَدَ مُمْتَازٌ) فقال رسول الله ﷺ: ﴿لِعَلَّكَ بِرَحْكَتِكَ مِنْهُ﴾ و المعنی أن استحقاق الأجر بتقبل العمل دون مباشرته، و التقبل كان منهما (أقول: التقبل كان من زيد و عمرو فقط قبل شرکة بکر، فهل كان بکر شریکاً معهم؟“ أَحْمَدَ مُمْتَازٌ) وإن باشر العمل أحدهما. ألا ترى أن المضارب إذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط. أو لا ترى أن الشریکین في العمل یستویان فی الربح و هما لا یستطيعان أن یعملا على وجه یکونان فيه سواء، و ربما یشترط لأحدهما زيادة

ربح لحداقته و إن كان الآخر أكثر عملا منه، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقى العقد بينهما و إن كان المباشر للعمل أحدهما، ويستوى إن امتنع الآخر من العمل بعدر أو بغير عذر؛ لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه من العمل واستحقاق الربح بالشرط في العقد“ (المبسوط، أوائل كتاب الشركة) ج ۱۱ ص ۱۵۷، ۱۵۸ ط: دار المعرفة)

﴿اور شرکت اعمال میں اگر دو شرکیوں میں سے ایک غائب ہو جائے یا بیمار ہو جائے اور دوسرا شریک کام کرے تو منافع آپس میں معابدے کے مطابق تقسیم ہو گا اس لئے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں بازار میں کام کرتا رہتا ہوں میرا ایک شریک ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا رہتا ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیری برکت بھی اسی کی وجہ سے ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اجرت کا مستحق ہونا کام کو قبول کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کو سرانجام دینے کی وجہ سے، اور کام قبول کرنا دونوں شرکیوں کی جانب سے ہوا، اگرچہ کام ایک ہی نے کیا ہو، یہ بات واضح ہے کہ مضارب اگر رب المال سے بعض کاموں میں مدد بھی لے پھر بھی نفع دونوں کے درمیان وعدے کے مطابق برابر تقسیم ہو گا۔ شرکت اعمال میں دونوں شرکیوں کا نفع میں برابر ہونا یہ اس کی دلیل ہے حالانکہ وہ دونوں تو اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ بالکل برابر برابر کام کریں، بسا اوقات کسی ایک شریک کی مہارت کی وجہ سے نفع میں اس کا حصہ زیادہ مقرر کر دیا جاتا ہے اگرچہ دوسرا شریک

اس سے زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح نفع دونوں شریکوں کے مابین معاملے کے مطابق تقسیم ہوگا جب تک کہ عقد شرکت ان دونوں را کے درمیان باقی رہے گا اگرچہ کام سرانجام دینے والا ایک ہو خواہ دوسرا شریک کام کرنے سے کسی عذر کی وجہ سے رکے یا بلا عذر اس لئے کہ عقد شرکت تو صرف کام سے رک جانے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا اور نفع کا مستحق ہونا عقد شرکت میں طے شدہ شرط کے مطابق ہوگا ॥

نیز شرکتہ الوجہ میں مال کسی بھی شریک کا نہیں ہوتا، اور شرکت صرف اس بات کے لئے ہوتی ہے کہ دو آدمی محض اپنی ساکھی کی بنیاد پر سودا ادھار خرید کر بازار میں بیچتے ہیں۔ پھر اگر ان میں سے ایک شریک صرف اپنے وجاہت کی بنیاد پر کچھ مال خریدے، دوسرا نہ موجود ہو، اور نہ بیچنے والا اسے جانتا ہو، تب بھی وہ اس مال میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ بدائع میں ہے:

حتى لو اشتراكا بوجههما على أن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين أو أثلاً ثالثاً أو أرباعاً و كيف ما شرعا على التساوى والتفاضل؛ كان جائزاً و ضمان ثمن المشتري بينهما على قدر ملكيهما في المشتري والربح بينهما على قدر الضمان.

(البدائع، ۸۷/۵)

(أقول: هل بكر قبل الشركة في الشهور الماضية الستة يكون مصداقاً لـ ”اشترى كابوجوهما“؟ وهل يلزم عليه ”ضمان ثمن المشتري؟“؟ أحمد ممتاز)

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں قسم کی شرکتوں کے جواز پر اس طرح استدلال فرمایا ہے:

”ولنا: أن الناس يتعاملون بهذين النوعين فيسائر الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لاتجتمع أمتى على ضلاله؛ وأنهما يشتملان على الوكالة والوكالة جائزة والمشتمل على الجائز جائز وقوله: إن الشركة شرعت لاستئناء المال فيستدعي أصلًا يستتبعه فنقول: الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال وأما الشركة بالأعمال أو بالوجوه فما شرعت لتنمية المال بل لتحصيل أصل المال“ و الحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته فلما شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى ..... و كذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فقررهم على ذلك حيث لم ينفهم ولم ينكر عليهم، و التقرير أحد وجوه السنة، و لأن هذه العقود شرعت لمصالح العباد، و حاجتهم إلى استئناء المال متحققة . وهذا النوع طريق صالح للاستئناء فكان مشروعًا؛ و لأنه يشتمل على الوكالة والوكالة جائزة اجتماعا.“

(بدائع الصنائع، کتاب الشركة ج ۲ ص ۵۸)

(أقول : هل بکر کان و کیلال زید و عمرو قبل الشركة في الشهور الماضية الستة، و هل كانوا و کیلین له؟ أحمد ممتاز) ان مثالوں سے واضح ہے کہ شرکت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے

روپے پر کتنا نفع ہوا بلکہ مجموعی نفع، خواہ کسی کے روپے سے حاصل ہوا ہو اسی کو شرکاء کے درمیان طے شدہ تناسب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

نیز شرکت اور مضاربہ میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں اگر مطلقی بارکیوں کا لحاظ کیا جائے تو وہ ناجائز قرار پائیں، (ا قول: لیکن فقہی بارکیوں کا لحاظ تو ضروری ہے، احمد ممتاز) لیکن فتحاء کرام نے انہیں تعامل اور حاجت کے پیش نظر جائز قرار دیا ہے۔ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے:

اذا أقعد الصائغ معه رجالاً في دكانه، فطرح عليه العمل بالنصف،  
جاز استحساناً، لتعامل الناس من غير نكير منكر، و لأن الناس  
بحاجة إلى ذلك، فالعامل قد يدخل بلدًا لا يعرفه أهلها، و لا  
يأمنونه على متابعتهم، و إنما يأمنون على متابعتهم صاحب الدكان  
الذى يعرفونه، و صاحب الدكان لا يتبرع على العامل بمثل هذا في  
العادة، ففى تجويز هذا العقد يحصل غرض الكل؛ فان العامل يصل  
إلى عوض عمله، و صاحب الدكان يصل إلى عوض منفعة دكانه،  
والناس يصلون إلى منفعة عمل العامل. ويطيب لرب الدكان  
الفضل، لأنه أقعده في دكانه، وأعانه بمتاعه، و ربما يقيم صاحب  
الدكان بعض العمل، كال LIABILITY يتقبل المكان، و يلي قطعه، ثم يدفع  
إلى آخر بالنصف.

قال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله تعالیٰ: هذا العقد نظیر  
عقد السلم، من حيث أنه رخص فيه لحاجة الناس“  
(المحيط البرهانی، کتاب

(أقول : هل عقد بكر قبل الشركه في الشهور الماضية المستتبة

كان موجوداً؟ اذ ليس فلم اشترك بكر في الربح؟ وعبارة  
المحيط السابقة تدل على الشركه في الربح بعد العقد لا قبله،  
أحمد ممتاز)

﴿جب کوئی رنگ ساز اپنے ساتھ دکان میں کسی اور شخص کو بٹھائے اور کام  
آدھے آدھے نفع کی بنیاد پر اس کے حوالے کرے، تو یہ استحساناً جائز ہے،  
اس لئے کہ لوگوں کا اس پر بلا نکیر تعامل چلا آرہا ہے، اور اس لئے بھی کہ  
لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کام کرنے والا بھی کسی شہر جا کر  
تجارت کرتا ہے حالانکہ اس شہر کے لوگ اسے جانتے نہیں، اور وہ اپنے  
سامان کے بارے میں اس شخص پر اعتماد بھی نہیں کرتے، بلکہ اس دکان  
والے پر جس کو وہ جانتے ہیں اعتماد کرتے ہیں، اور دکان والا بھی اس کام  
کرنے والے پر عادۃ تبرع اور احسان نہیں کرتا، لہذا اس عقد کو جائز قرار  
دینے میں سب کی غرض حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس طرح کہ عامل اپنے عمل  
کی اجرت پالیتا ہے اور دکان والا اپنی دکان کی منفعت کا عوض پالیتا ہے،  
اور عام لوگ کام کرنے والے کے عمل کی منفعت حاصل کر لیتے ہیں، اب  
مالکِ دکان کے لئے عامل کے نفع میں سے نصف حلال ہے اس لئے کہ  
اسی نے عامل کو اپنی دکان پر بٹھایا اور اپنے سامان کے ذریعے اس کی  
اعانت اور مدد کی، بسا اوقات دکان والا خود بھی بعض کام کر لیتا ہے، جیسا  
کہ درزی کوئی جگہ لے لیتا ہے اس میں کپڑا کاٹنے کا کام اپنے ذمہ لے  
لیتا ہے پھر آگے کسی دوسرے کو یہ کام آدھے نفع کی بنیاد پر دیتا ہے۔﴾

شمس الائمه امام سرخی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ عقد بھی اس اعتبار سے کہ لوگوں کی ضرورت کی بناء پر اس میں رخصت دی گئی ہے، عقد سلم ہی کی جنس سے ہے۔

(اقول: کیا بکر کا عقد گذشتہ چھ ماہ میں عقد شرکت سے پہلے معرض وجود میں آیا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں آیا تھا..... بھلا جب وہ شریک ہی نہیں تھا تو زید و عمرو کے ساتھ نفع میں کیسے حصہ دار ہوا؟ حالانکہ محیط کی پیش کردہ سابقہ عبارت تو عقد شرکت کے بعد نفع میں شرکت پر دلالت کرتی ہے نہ کہ عقد شرکت سے قبل۔ احمد متاز) ﴿

یہ درست ہے کہ جتنی مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں، وہاں اگرچہ ایک شخص دوسرے کے مال، عمل یا وجہت سے مشق ہو رہا ہے، لیکن ان کے درمیان عقد پہلے سے موجود ہے، اور بیدکاری کے طریق کار میں جو لوگ مدت شرکت شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، وہ عقد میں پہلے سے شریک نہیں تھے، لیکن ایک نظیر ایسی بھی موجود ہے جہاں پہلے سے عقد نہ ہونے کے باوجود دو فریقوں کے درمیان مضاربت تسلیم کی گئی، اور وہ حضرت عمرؓ کا مشہور فیصلہ ہے جو موطاً امام مالک میں منقول ہے، اور وہ یہ کہ ان کے صاحزادے حضرت عبداللہؓ اور عبید اللہ بن عمرؓ عراق گئے جہاں اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ حاکم تھے، اور کچھ رقم حضرت عمرؓ کے پاس مدینہ منورہ بھیجنا چاہتے تھے، جب حضرت عمرؓ کے یہ صاحب زادے مدینہ منورہ جانے لگے تو حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ان سے کہا کہ یہ رقم میں آپ کو قرض کے طور پر دیدیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کا سامان یہاں سے خرید کر

وہاں تھے دیں نفع خود رکھ لیں، اور اصل رقم حضرت عمرؓ کو دیدیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب حضرت عمرؓ کو علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بیٹوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ معاملہ کیا ہے، اس لئے انہوں نے جو نفع کمایا ہے، وہ بیت المال کو واپس کر دیں۔ حضرت عبید اللہؓ نے فرمایا کہ اگر یہ مال ہلاک ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہی ہوتی، اس لئے اس کا نفع بھی ہمیں مانا چاہئے، حضرت عمرؓ نے یہ بات نہیں مانی، پھر ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ آپ اسے مضارابت بنادیں، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسے مضارابت قرار دیکر آدھا نفع ان صاحجز ادوں کو دیا اور آدھا بیت المال میں داخل کروایا۔

(موطاً امام مالکؐ، ماجاء في القراض، حدیث نمبر ۱۱۹۵)

(آقول: قرض لیتے ہی یہ مال صاحجز ادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ضمان میں آیا، یا نہیں؟ احمد ممتاز)

اس واقعے میں جب رقم ان صاحب زادوں کو دی گئی، اس وقت مضارابت کا کوئی عقد نہیں تھا، لیکن عمرؓ نے بعد میں اسے مضارابت قرار دیا۔ اس فیصلے کی فقهاء کرامؐ نے متعدد توجیہات کی ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یوں فرمائی گئی ہے:

”ان عمر أجرى عليهما أجرا فى الربح حكم القراض الصحيح، و ان لم يتقدم منهما عقد، لأنه كان من الأمور العامة ما يتسع حكمه عن العقود الخاصة، فلما رأى المال لغيرهما و العمل منهما و لم يرهما متعديين فيه، جعل ذلك عقد قراض صحيح.

و هذا ذكره أبو على بن أبي هريرة.

(المجموع شرح المذهب ج ۸ ص ۹)

(أَقُول: لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَةِ مَا يَتَسَعُ حُكْمُهُ عَنِ الْعَقُودِ  
الخَاصَّةِ؟ يَهُ عِبَارتُ صِرَاطَةً إِلَيْهِ اسْبَاتُ كَيْ دِلِيلٌ هُنَّ كَهُ حَضْرَتُ عُمَرُ  
اَخْتِيَاطًا إِلَيْهِ اسْكُونَتُ كَمُضَارِبَتُ كَيْ طَرَحَ قَرْدَيَا هُنَّ، لِهُذَا أَنَّهُ أَنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
عَمَلَ كَرَانَ كَيْ أَيْكَ جَزَيَّهُ پُر ”يُومِيَّهُ پِيدَاوَار“ كَهُ قَانُونَ كَيْ اَتَى بِرُبْدِي وَزْنِي  
عِمارَتُ قَانُونَ كَرَنَا، كَيْوَكَرَجَانَزَهُو سُكَّتَا هُنَّ (احمد ممتاز)

یہ مثالیں پیش کرنے کا منشأ یہ نہیں ہے کہ یہ صورتیں ”یومیہ پیداوار“ کے  
طریقے پر پوری طرح منطبق ہیں، بلکہ منشأ یہ ہے کہ فقہاء کرام نے شرکت  
کی ایسی مختلف صورتوں کو عرف و تعامل اور حاجت کی بنیاد پر جائز قرار دیا  
ہے جن میں ظاہر ایک شخص دوسرے کے پیے اعمال یا وجہت سے فائدہ  
اٹھا رہا ہے (أَقُول: لِيَكُنْ عَقْدًا وَرَحْمَانَ كَهُ بَعْدَ، جَبَكَهُ ”يُومِيَّهُ پِيدَاوَار“ كَهُ  
طریقے میں بدلوں عقد اور رحمان دوسرے کے پیے اعمال اور وجہت سے  
فائده اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ چھ ماہ میں نہ عقد ہے اور نہ رحمان لہذا یہ  
قیاس و استنباط باطل اور مردود ہے۔ احمد ممتاز)۔ لہذا جیسا کہ اوپر عرض کیا  
گیا، ”یومیہ پیداوار“ کے طریقے میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے شرکت  
کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، جبکہ اس کے نفع کا  
تناسب اسی نسبت سے کم بھی ہو رہا ہے جس نسبت سے کاروبار میں اس کا  
 حصہ شامل نہیں تھا۔ شرکت کا وہ بنیادی اصول کہ کسی صورت میں کوئی  
شریک نفع سے محروم نہ رہے، یعنی انقطاع شرکت لازم نہ آئے، نیز وہ

اصول جو صحابہ و تابعین کے مذکورہ بالآثار میں مذکور ہے کہ ”الوضیعة علی المال و الربح علی ما اصطلحوا علیه“، وہ بھی اس صورت میں محفوظ ہے۔ (أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ أَلِيَهِ رَاجِعُونَ، گزشتہ چہ ماہ میں جب سرے سے عقد ہی نہیں تو وضیعة بکر کے مال پر کیوں کر ہوگا؟ اور ربح میں کیسے شریک ہوگا؟ احمد ممتاز) (غیرسودی بینکاری ۳۲۲ تا ۳۳۱)

آقُول: ”یومیہ پیدوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریق کار“، جس کی آسان سادھی سی مثال سے وضاحت کی گئی ہے، مجوزین حضرات کا خود ساختہ طریق کار ہے، اس پر کسی ایک فقیہ اور ماہر شریعت کا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عربی کی جتنی عبارات اس کتاب ”غیرسودی بینکاری“ میں لکھی گئی ہیں کسی ایک عبارت میں بھی اس طریق کار کا ذکر نہیں، نہ صراحتاً دلالتہ۔

چونکہ یہ ”طریق کار“ اُن اصول مسلمہ کے خلاف ہے جن کی بنیاد پر حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ”حدیث مُصْرَّة“ کے ظاہر کوترک کیا ہے، حالانکہ ”حدیث مُصْرَّة“ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو سنده کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ جب یہ اصول اتنے قوی اور قابلِ اعتماد ہیں کہ ان کی وجہ سے صحیح حدیث کا ظاہر چھوڑا گیا ہے تو ان اصول مسلمہ کے خلاف مجوزین حضرات کا خود ساختہ، بلا دلیل یومیہ پیدوار کی بنیاد پر ”تقسیم منافع کا طریق کار“ کیونکر کوئی قبول کر سکتا ہے؟ ذیل میں یہ اصول مسلمہ ملاحظہ ہوں۔

## ﴿اُصول مسلمہ﴾

(الأصل الأول): الخراج بالضمان

عن مخلد بن خفاف قال: ابعت غلاماً فاستغلته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لى بردہ و قضى على برد غلته فأتیت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان فراح إليه عروة فقضى لى أن آخذ الخراج من الذي قضى به على لہ، رواه في شرح السنة. (المشکوہ ۲۲۹)

قال الملا على القاری رحمه الله تعالى: قال الطیبی رحمه الله الباء في بالضمان متعلقة بمحدوف تقدیره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه و قيل الباء للمقابلة والمضاف محدوف أى منافع المبیع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبیع و نفقته و مؤنته و منه قوله عليه الصلة والسلام: من عليه غرمہ فعليه غنمہ، و المراد بالخراج ما يحصل من غلة العین المبتاعة عبدالکان او امة او ملکا و ذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم ي عشر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه او لم يعرفه فله رد العین المعمية وأخذ الشمن و يكون للمشتري ما استغله لأن المبیع لو تلف في يده لكان من ضمانه و لم يكن له على البائع شيء (المرقاۃ ۴/۹، ط: رشیدیہ جدید) ”مخلد بن خفاف فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، پھر میں نے اس کو مزدوری پر لگایا اور اس کی مزدوری بطور نفع رکھ لی، پھر مجھے اس کا ایک پرانا عیب معلوم ہوا تو اس کی وجہ سے میں نے اس کے سابق مالک کے

خلاف (حضرت) عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے پاس مقدمہ دائر کیا، انہوں نے فیصلہ دیا کہ میں یہ غلام اس عیب کی وجہ سے اس کے مالک کو لوٹا دوں اور مزدوری کا جو نفع میں لے چکا تھا وہ بھی اس کے مالک کو واپس کر دوں۔ پھر میں عروہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے پاس آیا اور ان کو اس تمام معاملے کی روئیداد سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ (حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس فیصلہ میں مزدوری واپس کرنے کے سلسلے میں غلطی ہوئی ہے) اور میں شام کو ان کے پاس جا کر (حضرت) عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کی روایت بیان کروں گا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح کے ایک فیصلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نفع اس کو ملتا ہے جو ضمان اور نقصان کا ذمہ دار ہے۔ (چونکہ غلام کی مزدوری کے عرصے میں اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا یا خود مر جاتا تو اس کی ذمہ داری اسی مشتری اور خریدار پر آتی، لہذا اس عرصہ کا نفع بھی اس سے ہی مانا جائے ہے) سو عروہ (رحمہ اللہ تعالیٰ) شام کو ان کے پاس تشریف لے گئے پھر (حضرت) عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے میرے لئے فیصلہ دیا کہ میں وہ نفع اس مالک سے واپس لے لوں۔“

اس اصل کا حاصل یہ ہے کہ نفع اس کو ملتا ہے جو ضمان اور نقصان کا ذمہ دار ہے۔ ”یومیہ پیداوار“ میں اس اصول کے خلاف بعد میں شریک ہونے والے کو بعض صورتوں میں گذشتہ ایام اور مہینوں کی تجارت کا نفع دیا جاتا ہے، حالانکہ شرعاً عقد نہ ہونے کی وجہ سے وہ گذشتہ تجارت کے نقصان کا ضامن اور ذمہ دار نہیں، لہذا نفع کا مستحق بھی نہ ہو گا۔

(الأصل الثاني): الغنم بالغرم

عن سعید بن المسیب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يُغْلِقُ الرَّهْنُ  
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لِهِ غَنِمَةً وَ عَلَيْهِ غَرِمَةً، رَوَاهُ الشَّافِعِي  
مرسلاً (المشکوہ ۲۵۰)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو رہن (گروی) رکھنا اُس  
مرہون شیء (کی ملکیت اور منافع) سے اُس کے مالک کو نہیں روکتا (یعنی)  
کسی چیز کو گروی رکھنے سے راہن اور مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے  
اس گروی رکھی ہوئی چیز کے نفع اور بڑھوڑی کا حقدار راہن ہی ہو گا اور  
وہی اس کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہو گا۔“

اس اصل کا حاصل یہ ہے کہ فائدہ بمقابل نقصان ہے، یعنی کسی چیز کا فائدہ اس کو حاصل  
ہو گا جس کے ذمہ اس چیز کا تداون ہے۔

”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کے طریق کا ر“ میں اس قانون کے خلاف بعد  
میں آنے والے شریک کو بعض صورتوں میں گذشتہ تجارت کے فائدے کا حقدار بنایا گیا ہے۔

(الأصل الثالث): لا يحل ربح ما لم يضمن

قال رسول الله ﷺ: لا يحل سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا  
ربح مالم يضمن و لا بيع ما ليس عندك، رواه الترمذی و أبو  
داود و النسائي (المشکوہ ۲۳۸)

”رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قرض اور بیع (ایک دوسرے سے متعلق کر کے) حلال نہیں  
ہے، اور بیع میں دو شرطیں کرنی درست نہیں، اور اس چیز سے نفع اٹھانا درست نہیں جو ابھی اپنی  
ضمانت (قبضہ) میں نہیں آئی، اور اس چیز کو بیچنا جائز نہیں جو تمہارے پاس (یعنی تمہاری ملکیت  
میں نہیں۔“

اس اصل کا حاصل یہ ہے کہ جس چیز کے نقصان کا کوئی ضامن نہیں اس کا نفع اس کے لئے حلال نہیں۔

”یومیہ پیداوار“ کی صورت میں بعض صورتوں میں گذشتہ تجارت کا حرام نفع بعد میں آنے والے شرکاء کو دیا جاتا ہے، اور یہ نفع ان کے لئے حرام ہے کیونکہ جب یہ بعد کے شرکاء شرعاً اس قانون کے مطابق گذشتہ تجارت کے نقصان کے ضامن نہیں تو اس کا نفع بھی ان کے لئے حلال نہ ہوگا۔

قارئین کرام! حضرت نے ”یومیہ پیداواراں“ کے طریق کار کے ثبوت اور جواز کی خاطر جتنی عبارات اور مثالیں ذکر فرمائی ہیں کسی ایک سے بھی حضرت کا مدعای ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان تمام مثالوں کا مدار ضمان پر ہے، ان مثالوں میں شرکاء جس طرح نفع میں شریک ہیں اسی طرح ایک دوسرے کے ضامن اور کفیل بھی ہیں۔ یعنی نقصان میں بھی شریک ہیں جبکہ غیرسودی بینکوں میں جو شخص (مثلاً) چچ مہینے کے بعد آ کر شریک ہوا ہے، اگر بینک کو پہلے چچ مہینوں میں لاکھوں کا نقصان ہوا ہو تو یہ بعد میں آنے والا شخص شرعاً اس نقصان میں شریک اور اس کا ضامن نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر بہت زیادہ نفع ہوا ہو تو یہ شخص شرعاً اس نفع کا حقدار بھی نہیں بن سکتا۔

ابتدائی شرکاء پر یہ شرط لگانا اور ان سے یہ وعدہ لینا کہ بعد میں آنے والے بھی اس نفع میں شریک ہوں گے اور ان کو بھی اس کا کچھ حصہ دیا جائے گا، اور بعد میں آنے والے پر گذشتہ مہینوں کے نقصان کے کچھ حصہ کے ضمان کی شرط لگانا اور یہ وعدہ لینا کہ گذشتہ نقصان کا کچھ حصہ تجھ پر بھی پڑے گا، کیا شرعاً درست ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں خلاف شرع اور ان پر عمل کرنا ناجائز ہے۔ خود حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ نے اس قسم کے ناجائز وعدے کو رد فرمایا ہے، فرماتے ہیں:

”اگر کسی خلاف شرع بات کا کوئی وعدہ کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا ناجائز نہیں

مثلاً ایک شریک دوسرے شریک سے یہ وعدہ کرے کہ اگر کار و بار میں کوئی نقصان ہوگا تو میں اس کی تلافی کر کے تمہیں دونگا تو یہ وعدہ بھی چونکہ سارا نقصان ایک فریق پر ڈالنے کا موجب ہے جو شرعاً جائز نہیں اس لئے یہ وعدہ بھی جائز نہیں، ”غیر سودی بیکاری ص ۱۵۸)

الحاصل یہ بیان کردہ مثالیں ذکر کردہ اصول مسلمہ یعنی ”الخارج بالضمان، الغنم بالغرم، لا يحل ربح مالم يضمن“ کے عین مطابق ہیں، اس لئے ان کے جواز سے کسی کو بھی انکار نہیں، جبکہ بینک کا ”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریق کار“، ان اصولوں کے مکسر خلاف ہے، اور ناجائز ہے اس لئے کسی ایک فقیہ علیہ الرحمۃ نے بھی اس کو جائز نہیں فرمایا۔

## ﴿رَأْسُ الْمَالِ كَامْلُومٌ هُوَنَا﴾

اسلامی شرکت کے لئے ضروری ہے کہ ہر شریک کو اپنے سرمایہ کی مقدار کے اعتبار سے نفع کی نسبت معلوم ہو، اور نفع کی اس نسبت کے لئے کل سرمائے کا معلوم ہونا ضروری ہے، جب تک کل سرمایہ معلوم نہ ہوگا نفع کی نسبت معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایک شریک کا سرمایہ ایک لاکھ روپے ہے، اب اس کو نفع کتنا ملے گا؟

اس کے لئے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ کل سرمایہ معلوم ہو جائے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ ایک لاکھ کا کل سرمایہ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ جب اس کو معلوم ہوا کہ مثلاً کل سرمایہ ایک کروڑ ہے تو اب اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کے ایک لاکھ سرمائے کی کل سرمایہ سے نسبت 1/100 ہے یعنی کل سرمایہ کا سواں حصہ ہے۔

دوسری بات یہ ضروری ہے کہ جو شرعاً عمل (کام) کرتے ہیں اگر ان کا نفع عمل کی بنیاد پر

اپنے سرمایہ سے زیادہ ہے تو اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ شرکاء کا نفع مجہول ہوگا، مثلاً چار شرکاء ہیں، ہر ایک کا رأس المال اور سرمایہ ۲۵ فیصد ہے (یعنی ہر ایک کا سرمایہ مثلاً دس لاکھ ہے اور کل رأس المال چالیس لاکھ ہے) ان میں سے دو شرکاء کام کرتے ہیں اور دو کچھ بھی کام نہیں کرتے اس لئے کام کرنے والوں کے لئے ۳۰ فیصد نفع معین کیا گیا اور کام نہ کرنے والوں کا نفع ۲۰ فیصد معین ہوا۔

دیکھئے اس مثال سے واضح ہو گیا کہ کل رأس المال کے معلوم ہونے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ شرکاء کے نفع کی نسبت بھی معلوم ہو جائے، ورنہ شریک کے لئے نفع مجہول رہے گا۔

اگر شرکاء میں سے کوئی بھی عمل نہ کرتا ہو بلکہ سب نے سرمایہ اکٹھا کر کے کسی غیر شریک کو بطور مضارب تیر قدم دے دی، تو ایسی صورت میں اگر مضارب کے نفع کی نسبت سب ارباب الاموال سے ایک ہی ہے، مثلاً وہ ہر ایک سے پچاس فیصد نفع خود لیتا ہے اور پچاس فیصد رب المال کو دیتا ہے، تو اس صورت میں صرف دو باتوں کا علم ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کل سرمایہ کتنا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ مضارب کا نفع کتنا ہے؟ ان دو باتوں سے ہر ایک کو اپنا نفع معلوم ہو جائے گا۔ جیسے مثلاً ایک کا سرمایہ ایک لاکھ ہے اور کل سرمایہ ایک کروڑ ہے اور مضارب کا نفع ۵۰ فیصد ہے، اب ایک لاکھ سرمایہ دینے والے کو معلوم ہو گیا کہ مجھے کل نفع کا ۱/۲ یعنی آدھا فیصد ملے گا۔

اور اگر مضارب نے ارباب الاموال سے نفع کا تناسب ایک نہیں رکھا بلکہ کسی سے زیادہ اور کسی سے کم رکھا ہے، مثلاً کسی کو ۵۰ فیصد نفع دیتا ہے، کسی کو ۶۰ فیصد اور کسی کو ۴۰ فیصد تو اس صورت میں ہر شریک کو یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ مضارب نے میرے ساتھ نفع کی جو نسبت طے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ورنہ نفع مجہول رہے گا۔

الحاصل اسلامی شرکت اور مضاربہ میں ہر شریک اور رب المال کے نفع کے تناسب کا معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ اسلامی شرکت اور مضاربہ نہ ہوگی۔ اور نفع کے اس تناسب کا معلوم ہونا مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق کل رأس المال کے معلوم ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہر شریک کے لئے ضروری ہے کہ اُسے یہ معلوم ہو کہ مہینہ، چھ ماہ، سال، دو سال وغیرہ مدت تک جو کاروبار ہوا ہے، یہ کتنے سرمایہ سے ہوا ہے؟ چونکہ اسلامی نامی بینکوں میں کل سرمایہ کبھی بھی کسی کلاسٹ کو معلوم نہیں ہوتا، اور نہ ہی معلوم ہونا ممکن ہے! کیوں؟ ..... اس لئے کہ بینک نے جو طریق کاروburgh کیا ہے اس کے پیش نظر یہاں ممکن ہے۔

دیکھئے! بینک میں جو شخص جس تاریخ کو شرکت اور مضاربہ کرتا ہے اس تاریخ کو کل رأس المال کی مقدار الگ ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے دن الگ، تیسرا دن الگ، غرض ہر دن کا سرمایہ الگ الگ ہوتا ہے، اور جس دن بینک نفع تقسیم کرتا ہے خواہ ایک ماہ کے بعد تقسیم کرے، یا چھ ماہ اور سال کے بعد کرے، تقسیم نفع کے دن اور تاریخ میں جو سرمایہ ہوتا ہے، بینک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی سرمایہ سے گذشتہ ایک ماہ یا چھ ماہ یا ایک سال سے کاروبار ہو رہا ہے۔ جبکہ اسلامی شرکت و مضاربہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر شریک اور رب المال کو یقین طور پر معلوم ہو کہ تقسیم نفع کی تاریخ تک جتنے سرمایہ کی بنیاد پر پورا ایک ماہ، یا چھ ماہ، یا ایک سال کاروبار ہوا ہے اس کی مقدار اتنی ہے، اسی لئے علماء کرام کی حجّ غیر نے ان بینکوں کی شرکت و مضاربہ کو غیر اسلامی اور ناجائز قرار دیا۔

اس تفصیل کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کے اس دعوی کہ ”بینکوں میں کل رأس المال مجہول نہیں ہوتا“، کا ستم، ضعف اور بطلان کسی بھی منصف پر مخفی نہیں رہ سکتا۔

نیز اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب وغیرہ

علماء کرام زید مجدد ہم نے جو رأس المال کے مجھوں ہونے کا اعتراض کیا ہے، وہ بہت وزنی اور اپنی جگہ بالکل درست ہے اور مجوزین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔  
اس تمہید کے بعد اولاً حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی اس عنوان سے متعلق پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں، اور ثانیاً اس کا بطلان۔

لکھتے ہیں:

”میں نے اپنے مقالے میں عرض کیا ہے کہ اس طریقے پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں رأس المال کی مقدار مدت شرکت شروع ہونے کے وقت معلوم نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عقد شرکت کے وقت پورے رأس المال کا معلوم ہونا شرط نہیں ہے۔ بدائع میں ہے:

”وَ أَمَّا الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَ قَوْتِ الْعَدْلِ فَلِيَسْ بِشَرْطٍ لِجُوازِ الشُّرْكَةِ بِالْأَمْوَالِ عِنْدَنَا.“ (ج ۲ ص ۲۳)

اس پر حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ نے یہ اشکال کیا ہے کہ صاحب بدائع نے ہی آگے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی چیز شرکت کے لئے خریدی جائے گی، اس وقت دراہم و دنایر و زن کر کے دیئے جائیں گے تو رأس المال معلوم ہو جائے گا۔ (جدید معاشر مسائل ص ۱۲۲)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرکت میں اکثر سارے رأس المال سے ایک دم چیزیں نہیں خریدی جاتیں، بلکہ وقفے و قفے سے خریدی جاتی ہیں۔ لہذا صاحب بدائع کا مطلب یہ ہے کہ پہلی خریداری کے وقت اتنا رأس المال معلوم ہو گیا جس سے خریداری کی گئی، مزید رأس المال اگلی خریداری پر معلوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب نفع کی تقسیم کے وقت آئے گا تو اس

وقت پورا رأس المال معلوم ہو چکا ہوگا، اور رأس المال کا معلوم ہونا اسی لئے ضروری ہے کہ نفع کی تقسیم اس پر موقوف ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت یہ ہے:

وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الْعَقْدِ لِعِينِهَا بَلْ لِإِفْضَائِهَا إِلَى  
الْمُنَازَعَةِ وَجَهَالَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَقَتِ الْقَدْدِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ  
؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَارِيَّاتُ تُؤْزَانُ  
وَقَتِ الشَّرَاءِ فَيَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَلَا يُؤَذَّى إِلَى جَهَالَةِ مِقْدَارِ الرِّبَيعِ  
وَقَتِ الْقِسْمَةِ۔ (بدائع الصنائع، کتاب الشرکة ج ۶ ص ۲۳)

خط کشیدہ جملے سے صاف واضح ہے کہ پورے رأس المال کا معلوم ہونا نفع کی تقسیم کے وقت ضروری ہے، تاکہ اس کے مطابق طے شدہ شرح سے نفع تقسیم کیا جاسکے، اور جوں جوں کاروبار میں روپیہ لگتا رہے گا، رأس المال معلوم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تقسیم کے وقت سب کچھ واضح ہو چکا ہوگا، (غیر سودی بینکاری ۳۲۵، ۳۲۲)

**آقوٰل:** ہم نے مان لیا کہ بدائع الصنائع کی عبارت کا وہی مطلب ہے جو حضرت مفتی

صاحب مدظلہ نے بیان فرمایا ہے کہ

”پورے رأس المال کا معلوم ہونا نفع کی تقسیم کے وقت ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق طے شدہ شرح سے نفع تقسیم کیا جاسکے اور جوں جوں کاروبار میں روپیہ لگتا رہے گا، رأس المال معلوم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تقسیم کے وقت سب کچھ واضح ہو چکا ہوگا۔“

بطور تمہید ہم نے جو تفصیل پیش کی ہے اس کے پیش نظر ہر ایک خود غور و تدبر کر کے

بتلائے کہ یہ دعویٰ کہ ”تقسیم کے وقت سب کچھ واضح ہو چکا ہوگا“، کیا حقیقت کے خلاف اور باطل نہیں؟ عقد شرکت و مضاربہ کے بعد تقسیم منافع تک مسلسل کاروبار میں سرمایہ لگانے سے سب کچھ اس وقت واضح ہو سکتا ہے جب رأس المال کی مقدار وقت عقد سے تقسیم منافع تک یکساں ہو، اگر ہر دن کا رأس المال جدا ہو تو تقسیم کے وقت کیسے واضح ہو سکتا ہے کہ شرکت و مضاربہ کے پورے زمانے میں یعنی تاریخ عقد سے تاریخ تقسیم نفع تک پورا رأس المال انداز ہا؟ اس دعویٰ کے بطلان اور سقیم میں کس کوشک اور تردید ہو سکتا ہے؟

### ﴿ ایک نیا دعویٰ اور رأس کا بطلان ﴾

تحریر فرماتے ہیں:

”ورنہ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ نفع کی تقسیم تک جتنا سرمایہ لگنا ہے، وہ سارے کاسارا پہلے دن ہی معلوم ہونا چاہئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ سرمایہ لگانے کے بعد نفع کی تقسیم تک کسی بھی فریق کو مزید سرمایہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بات بدیکی طور پر غلط ہے، لہذا جیسا کہ علامہ کاسانیؒ نے فرمایا کہ پورے سرمائے کا علم میں آنا درحقیقت تقسیم نفع کے لئے ضروری ہے۔ اور یومیہ پیداوار کے زیر بحث طریقے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع میں رأس المال کی ایک مقدار معلوم ہوتی ہے، پھر جوں جوں لوگ اس میں رقمیں ڈالتے جاتے ہیں، وہ رقمیں معلوم ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک نفع کے حساب کے وقت پوری صورت حال اس طرح واضح ہو چکی ہوتی ہے کہ کسی نزاع کا انتہا نہیں رہتا۔

پھر اکاؤنٹ ہولڈروں کا بینک کے ساتھ مضاربہ کا تعلق ہوتا ہے، اور

مضاربت میں بھی معاملہ یہ ہے کہ اُس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ مضارب کو مال دینے کے بعد کوئی اور مال نہ دیا جائے، بلکہ مضاربت کے شروع میں جو مال دیا گیا، وہ کاروبار میں لگنے کے بعد وہ سر امال بھی اس طرح دیا جاسکتا ہے، اور وہ خود اپنا مال بھی اس حوض میں شامل کر سکتا ہے،

چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے:

قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ : و من دفع الى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف ، ثم دفع اليه ألف درهم آخر مضاربة بالنصف أيضا ، فخلط المضارب الألف الأولى بالثانية ، فالأصل في جنس هذه المسائل : أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال لا يضمن ..... فان قال له رب المال في المضاربين جميعا : اعمل فيه برأيك ، فخلط أحدهما بالآخر ، فانه لا يضمن واحدا من المالين سواء خلطهما قبل أن يربح في المالين ، أو بعد ما ربح في المالين أو بعد ما ربح في أحدهما دون الآخر ، لأنه في بعض هذه الفصول خلط مال رب المال بمال رب المال ، و انه لا يوجد ضمانا على المضارب ، و ان لم يقل له : اعمل فيه برأيك ، فاذا قال له ذلك فيهما أولى ان لا يضمن . وفي بعض هذه الفصول خلط مال رب المال بمال نفسه وهو حصته من الربح ، الا أنه أذن له رب المال بهذا الخلط لما قال له : ”اعمل برأيك“ لا ترى أنه لو خلطهما بمال آخر خاص للمضارب لم يضمن ، فلأن لا يضمن وقد خلطهما بمال مشترک بينه وبين رب المال ، وهو حصته من

الربح، أولى.“ (المحيط البرهانى، كتاب المضاربة، الفصل

الثامن عشر ج ۱۸ ص ۲۱۵)

لہذا یہاں بھی یہی صورت ہے کہ جتنا جتنا مال مضاربہ کے حوض میں آتا رہے گا، وہ معلوم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب حساب کا وقت آئے گا تو مکمل رأس المال معلوم ہو چکا ہو گا، اور اگر رأس المال پر کوئی اضافہ ہوا ہے تو وہ نفع کی شکل میں مضارب اور رابط الاموال کے درمیان طے شدہ شرح سے تقسیم ہو گا۔ چونکہ بعد میں آنے والے مال کے پہلے سے معلوم نہ ہونے کی بنا پر ایسی جہالت پیدا نہیں ہوتی جو نفع کو مجہول بنادے، اور مفضی الی الزراع ہو، اس لئے صاحب بدائع کے مذکورہ بالا ارشاد کے مطابق یہ جہالت عقد کو فاسد نہیں کرتی، (غیرسودی بینکاری ۳۲۵ تا ۳۲۷)

آقوٰل:

”تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ایک مرتبہ سرمایہ لگانے کے بعد نفع کی تقسیم تک کسی بھی فریق کو مزید سرمایہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے،“ (غیرسودی بینکاری ۳۲۵)

اس عبارت میں ایک نیاد عومنی ہے کہ عقد شرکت طے ہونے کے بعد تقسیم منافع سے قبل عقد کی کچھ مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی فریق یعنی جو پہلے سے شرکت کے شرکاء ہیں، ان میں سے کوئی ایک شریک رأس المال کو اگر بڑھانا چاہے، مثلاً پہلے ایک لاکھ تھا اب چار ماہ کے بعد ایک لاکھ مزید جمع کر کے اپنے سرمائے کو دو لاکھ بناتا ہے یا کوئی نیا شخص چار ماہ چلے ہوئے کاروبار میں اب چار ماہ بعد شریک ہونا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کو ناجائز کہنا بدیہی طور پر غلط ہے۔

چونکہ موجودہ اسلامی نامی بینکوں میں روزانہ اس قسم کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ پہلے شرکاء میں سے بعض مزید رقم سیوگ اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے پہلے بار آنے والے نئے سیوگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، ان کی شرکت اور رأس المال کے اضافے کو اس نئے دعویٰ میں مطلقاً جائز کہا گیا ہے، اور ناجائز کہنے کو بدیہی طور پر باطل بتایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی شریک کا عقدِ شرکت کے کچھ مدت بعد سرمایہ میں اضافہ کرنا اور نئے آنے والے کو شریک کرنا شرعاً کچھ ایسی شرطوں سے مشروط ہے جن کو پورا کئے بغیر یہ اضافہ اور شرکت جائز نہیں، جبکہ بینکوں میں ان شرائط کا لحاظ نہیں ہوتا، لہذا ان بینکوں کے اندر سرمایہ میں اضافہ اور ہر آنے والے کو شریک کرنے کی مطلقاً اجازت دینا بدیہی طور پر غلط ہے اور اس کو ناجائز کہنا بدیہی طور پر صحیح ہے!..... کیوں؟..... !!!

اس ”کیوں“ کا اجمالی اور مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جواز جن شرائط پر موقوف ہے ان میں سے بعض شرائط کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے قدیم عقد حکماً ختم ہو جاتا ہے، اور سرمایہ میں اضافہ اور جدید شریک کے آنے کے وقت سے نیا عقد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے آئندہ نفع کی تقسیم اس جدید عقد کی بنیاد اور مدت کے لحاظ سے ہوگی۔

چونکہ بینک کے لئے ان شرائط کے نتیجہ اور اثر پر عمل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ بینک میں اس قسم کے اضافے اور شرکتیں روزانہ، بلکہ دن میں کئی بار ہوتی ہیں اور ہر بار قدیم شرکت کو جدید میں تبدیل کرنا بینک کے بس میں نہیں۔ اس لئے بینک نے شرعی حکم، اصول اور شرائط کی مخالفت کر کے بدوس لحاظ شرائط مطلق اجازت دی ہے۔

ایسی صورت میں اگر علمائے حق کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اس خلافِ شرع معاملہ کو رد کر کے اس کو ناجائز کہا ہے، تو اس میں ان علماء کرام کا کیا قصور ہے؟ ”کیوں“ کا تفصیلی جواب: اولاً: چلتے ہوئے کار و بار میں کسی شریک کا سرمایہ میں

اضافہ اور غیر شریک کو شریک کرنے کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ ملاحظہ ہوں۔  
ثانیاً: پھر ہر ایک خود فیصلہ کرے کہ بینک کی شرکت اور اضافہ ان شرائط کا پابند ہے یا آزاد  
اور خلاف شرع ہے؟

### شرائط:

(۱) سب شرکاء کی اجازت ہو۔

قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ : لا یملک الشریک  
الشراکة الا باذن شریکہ

وقال العلامۃ الشامی رحمہ اللہ تعالیٰ : (قوله : لا یملک  
الشراکیک ) ای شریک العنان (الشامیہ ۲ / ۳۸۷ ، ط رشیدیہ )

(۲) احد الامرین ہو

تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر گذشتہ مدت میں نفع ہوا ہے تو اس نئے آنے والے شریک کی  
شرکت اور پرانے شرکاء میں سے کسی کا اپنے سرمایہ میں مزید اضافے کی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت : کاروبار کا ایک حصہ نئے شریک پر تقسیم کر اس کو شریک کیا جائے، اور اس  
حصے کا ثمن اور قیمت قدیم شرکاء آپس میں حصول کے تناوب سے تقسیم کر لیں، یا قدیم شرکاء  
میں سے کوئی ایک شریک دوسرے شرکاء کا کچھ حصہ خرید کر اپنا سرمایہ بڑھا کر ان کو پیسے دے  
اور دوسرے شرکاء ان پیسوں کو آپس میں حصول کے تناوب سے تقسیم کر لیں۔

اس صورت میں سرمایہ میں نئے شریک کی شرکت اور قدیم شریک کے اضافے کی جگہ  
سے مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک شریک بڑھ جائے گا..... یا..... قدیم شرکاء میں سے ایک  
کا سرمایہ بڑھ جائے گا۔

اس صورت میں احد الامرین یہ ہے کہ یا تو پرانے شرکاء سابقہ مدت میں حاصل شدہ نفع

آپس میں بانٹ لیں اور پھر نئے شریک کو اصل سرمایہ جو کہ ابتدائے عقد کے وقت تھا، میں شریک کر لیں، مثلاً بوقت عقد سرمایہ ۱۸ لاکھ روپے تھا، چھ ماہ بعد اس پر دو لاکھ نفع ہوا، اب نئے شریک نے آکر شرکت کی خواہش ظاہر کی تو قدیم شرکاء نے دو لاکھ آپس میں تقسیم کر کے اصل سرمایہ ۱۸ لاکھ کے کاروبار کا ایک حصہ اس پر پیش کر اس کو شریک کر لیا اور اس حصے کی رقم کو بھی شرکاء نے آپس میں تقسیم کر لیا۔

اس صورت میں کل سرمایہ وہی ۱۸ لاکھ روپے رہے گا، البتہ ایک شریک بڑھ جائے گا..... یا..... قدیم شرکاء یوں کریں کہ گذشتہ مدت کا نفع آپس میں تقسیم نہ کریں بلکہ اس کو اصل سرمایہ میں خصم کر کے سرمایہ بڑھا لیں پھر نئے آنے والے شریک کو اس اضافہ شدہ سرمایہ کے حصے کر کے شریک کر لیں، مثلاً مندرجہ بالا صورت میں جبکہ اصل سرمایہ بوقت عقد ۱۸ لاکھ تھا، چھ ماہ بعد ۲ لاکھ نفع ہوا، اور چھ ماہ بعد ایک شخص آکر شریک ہونا چاہے تو پرانے شرکاء نئے کے ۲ لاکھ اصل سرمایہ کے ساتھ ملا کر اپنے کل سرمایہ ۲۰ لاکھ، پھر اس کے ایک حصے کو اس نئے آنے والے شریک کے ہاتھ فروخت کر دیں۔

اس صورت میں کل سرمایہ ۱۸ لاکھ سے بڑھ کر ۲۰ لاکھ روپے ہو جائے گا۔

غرض مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک پوری کر کے نئے آنے والے کو چلتے کاروبار میں شریک کیا جاسکتا ہے (گویا اس تاریخ سے جدید عقد شرکت شروع ہو گیا) دوسری صورت : شرکاء اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا چاہتے ہیں۔

اس کے جواز کے لئے احد الامرین یہ ہے کہ اب تک کا جو نفع ہوا ہے، وہ یہ شرکاء نکال کر آپس میں تقسیم کر لیں، اور نئے آنے والے کو عقد کے وقت جو سرمایہ تھا اس کے تناسب سے اس سے رقم لے کر اس کو شریک کر لیں یا..... گذشتہ مدت کے نفع کو اپنے سرمایہ کا حصہ بنا

کراس میں جمع کر لیں اور اس مجموعے کے تناوب سے آنے والے کو شریک کر لیں (گویا اس تاریخ سے جدا یہ عقد شرکت شروع ہو گیا)

الخطاب البرهانی، کتاب المضاربة، الفصل الثامن عشر ج ۱۸ ص ۲۱۵، میں کئی جگہ اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ ربح آنے کے بعد رب المال متعین شرح کے مطابق اپنے حصے کا مالک بن جاتا ہے اور مضارب اپنے حصے کا۔ اگر مضارب نے ناجائز طور پر مال کو کسی غیر کے مال سے خلط کیا تو رب المال کے اصل سرمایہ کے ساتھ ساتھ اس کے ربح کے حصے کا بھی ضامن ہو گا۔

ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ کاروبار میں ربح اور نفع آنے کے بعد کسی اجنبی کو شریک کرنے کی صرف وہی صورتیں ہو سکتی ہیں جو اپر ہم نے ذکر کر دی ہیں، نئے شریک کی شرکت کے وقت نفع اور ربح کو کا لمعہ و متصور کر کے یا ”یومیہ پیداوار کی بنیاد پر تقسیم نفع کے طریق کار“، جس کا ناجائز ہونا تفصیل سے گزر چکا ہے، کی بنیاد پر اس کو شریک کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ خلط کے ذریعے یہ ایک کامال دوسرے کو ناحق طور پر کھلانے کی وجہ سے اکل بالباطل میں داخل اور حرام ہے۔

اسلامی نامی بینکوں میں اس شرط پر عمل ناممکن ہے، کیونکہ تعین نفع کے لئے ضروری ہے کہ تمام نقدیات کا حساب کیا جائے اور، سماں تجارت اور منجد اثاثوں جیسے دفاتر، فرنچس، استعمال کی گاڑیاں وغیرہ کی قیمت لگادی جائے، اور ہر نئے آنے والے کی شرکت کے وقت اور قدیم شرکاء کا سرمائے میں اضافے کے وقت ان تمام چیزوں کا حساب لگانا بینک کے لئے عملاً ناممکن ہے۔

ذیل میں ”محیط بر ہانی“، کی تفصیلی عبارت نقل کی جاتی ہے:

قال العلامہ برهان الدین البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ : قال محمد

رحمه الله تعالى : و من دفع الى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف ، ثم دفع اليه ألف درهم آخر مضاربة بالنصف أيضاً ، فخلط المضارب الألوف الأولى بالثانية ، فالاصل في جنس هذه المسائل : أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال لا يضمن ، و متى خلط مال المضاربة بمال نفسه ، أو بمال غيره ضمن .

و هذه المسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه : اما أن قال رب المال في كل واحد من المضاربتين : اعمل فيه برأيك ، أو لم يقل : ذلك فيهما ، أو قال له ذلك في احدهما دون أخرى ، فاما ان خلط المضارب مال المضاربة الأولى بالثانية قبل أن يربح في المالين ، أو بعد ما ربح فيهما ، أو بعد ما ربح في أحدهما دون الآخر ، فان قال له رب المال في المضاربتين جمیعاً : اعمل فيه برأيك ، فخلط أحدهما بالآخر ، فإنه لا يضمن واحداً من المالين سواء خلطهما قبل أن يربح في المالين ، أو بعد ما ربح في أحدهما دون الآخر ، لأنه في بعض هذه الفصول خلط مال رب المال بمال رب المال ، و انه لا يوجب ضماناً على المضارب ، و ان لم يقل له : اعمل فيه برأيك ، فادا قال له ذلك فيهما أولى أن لا يضمن ، و في بعض هذه الفصول خلط مال رب المال بمال نفسه ، و هو حصته من الربح الا أنه أذن له رب المال بهذا الخلط لما قال له : اعمل فيه برأيك .

الاترى أنه لو خلطهما بمال آخر خاص للمضارب لم يضمن ،  
فلان لا يضمن وقد خلطهما بمال مشترك بينه وبين رب  
المال ، وهو حصته من الربح أولى .

و ان لم يقل له فى المضاربتين جميعاً : اعمل فيهما برأيك ، فان  
خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح فى واحد منهمما ، فإنه لا  
ضمان عليه لأنه خلط مال رب المال بمال رب المال ، ولم  
يخلط بمال نفسه ، ولا بمال غيره ، فلا يضمن ، الاترى أن  
المودع لو خلط احدى الو ديعتين بالأخرى ، و كانتا لرجل فإنه  
لا يضمن ، فالمضارب أولى ، و انه أعلى حالاً من المودع ، و ان  
خلطهما بعد ما ربح في المالين ، فإنه يضمن المالين جميعاً ، و  
حصة رب المال من ربح المالين قبل الخلط ، لأنه خلط كل  
واحد من المالين بمال مشترك بينه وبين رب المال ، فيضمن  
المالين جميعاً ، و حصة رب المال من ربح المالين ، و اعتبر بما  
لو خلطهما المضارب بمال خاص لنفسه ، و هناك يضمن  
المالين جميعاً ، و يضمن حصة رب المال من ربح المالين ، فكذا  
اذا خلطهما بمال مشترك بينه وبين رب المال .

و أما اذا ربح في أحد المالين دون الآخر ، فإنه يضمن المال  
الذى لا ربح فيه ، و لا يضمن المال الذى فيه ربح ، أما يضمن  
المال الذى لا ربح فيه ، لأنه خالص مال رب المال لا شريك  
للمضارب فيه ، وقد خلط بمال مشترك بينه وبين رب المال ،  
و هو حصته من الربح الآخر ، فيضمن كما لو خلطه بمال خاص

لنفسه، ولا يضمن المال الذى ربح فيه، لأنه لو ضمنه فانما يضمن، لأنه خلط المال الذى فيه ربح بعض ماله، فهو حصته من الربح، أو يضمن؛ لأنه خلط بالمال الذى لا ربح فيه، و لا يجوز أن يضمن لأنه خلط المال الذى فيه ربح بحصته من الربح، لأن هذا خلط تضمن عقد المضاربة، لأنه انما دفع المال اليه مضاربة ليربح، و متى ربح اختلط ربحه برأس المال لا محالة، و لا يجوز أن يضمن المال الذى فيه ربح، لأنه خلط بالمال الذى لا يربح فيه، لأن ثلاثة أرباع المال الذى فيه ربح مال رب المال، وقد خلط بمال رب المال، وقد ذكرنا أن المضارب متى خلط مال رب المال ببعضه بعض، فإنه لا يضمن ثلاثة أرباع المال الذى فيه ربح يخلطه بالمال الذى لا ربح فيه، و الرابع من ذلك حصة المضارب من الربح، فيكون ملكاً له، ولا يضمن الا نسان مال نفسه لنفسه، فلهذا قالوا: بأنه يضمن المال الذى لا ربح فيه، ولا يضمن المال الذى فيه ربح.

هذا اذا لم يقل له فيهما : اعمل فيه برأيك، فأما اذا قال له في احدى المضاربتين : اعمل فيه برأيك، ولم يقل له ذلك في الأخرى، فان قال له في المضاربة الأولى : اعمل فيه برأيك، ولم يقل له ذلك في المضاربة الثانية، فخلط مال المضاربة الأولى بالثانية.

فالمسألة لا تخلو من أربعة أوجه : اما ان خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح فى أحد المالين، أو بعد ما ربح فى أحد

المالين، أو بعد ما ربح في مال الأولى، ولم يربح في مال الثانية، أو بعد ما ربح في مال الثانية، ولم يربح في الأولى، وفي الوجهين منهما يضمن مال الثانية الذي لم يقل له رب المال : اعمل فيه برأيك، ولا يضمن مال الأولى أحدهما اذا خلط أحد المالين بالآخر بعد ما ربح في المالين جميعاً.

أما لا يضمن مال الأولى في هذا الوجه، وان خلط بمال مشترك بينه وبين رب المال، وهو حصته من الربح من مال الثانية، لأنه مأمور بالخلط في الأولى، الا ترى أنه لو خلط مال الأولى بمال خاص لنفسه، لم يضمن، فكذا اذا خلط بمال مشترك بينه وبين رب المال، ويضمن مال الثانية، لأنه خلط بحصته من الربح من مال الأولى، ولم يؤذن له بالخلط في مال الثانية، فانه لم يقل له فيها : اعمل فيه برأيك، فيضمن، كما لو خلط بمال نفسه.

والوجه الثاني : اذا خلط أحدهما بالآخر، وقد ربح في مال الأولى الذي قال له فيها : اعمل فيه برأيك، وفيه لا يضمن مال الأولى، لما ذكرنا، ويضمن مال الثانية، لأنه خلطه بمال مشترك بينه وبين رب المال، وهو حصته من ربح مال الأولى، ولم يؤذن له بالخلط في الثانية، فيضمن كما لو خلط بمال خاص لنفسه، وفي وجهين منهما لا يضمن، لا المال الأول ولا الثاني، أحد هما اذا خلط أحد المالين بالمالين قبل أن يربح في واحد من المالين لأنه لم يقل له فيهما : اعمل فيه

برأيك، لم يضمن اذا خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح في واحد من المالين، فلان لا يضمن، قال في المضاربة الأولى : اعمل فيه برأيك أولى وأخرى، و كذلك ان ربح في حال الثانية الذي لم يقل له فيها : اعمل فيه برأيك، ولم يربح في مال الأولى الذي قال له فيها : اعمل فيه برأيك، وهو الوجه الثاني لا يضمن واحداً من المالين.

أما المال الأول : فلما ذكرنا أن رب المال أذن له بالخلط في المال الثاني، لكنه خلط المال الثاني بمال رب المال، و انه لا يربح في المال الأول، و كان خالطاً المال الثاني بمال خاص لرب المال، و انه لا يوجد الضمان.

هذا اذا قال له في المضاربة الأولى : اعمل فيه برأيك، ولم يقل ذلك في الأولى، فالمسألة لا تخلو عن أربعة أوجه أيضاً على ما بينا، وفي وجهين منها، و هما اذا خلط أحد المالين بالآخر بعد ما ربح في المالين جميعاً، أو بعد ما ربح في مال الثانية الذي قال له : اعمل فيه برأيك، ولم يربح في مال الأولى الذي لم يقل له : اعمل فيه برأيك، يضمن مال الأولى، ولا يضمن مال الثانية، لما قلنا في المسألة الأولى.

وفي وجهين منها، و هما اذا خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح في المالين، أو ربح في مال الأولى، ولم يربح في مال الثانية، فإنه لا يضمن شيئاً لا مال الأولى، و لا مال الثانية.

آگے لکھتے ہیں:

”پھر اکاونٹ ہولڈروں کا بینک کے ساتھ مضاربہ کا تعلق ہوتا ہے اور مضاربہ میں بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ مضارب کو مال دینے کے بعد کوئی اور مال نہ دیا جائے، بلکہ مضاربہ کے شروع میں جو مال دیا گیا، وہ کاروبار میں لگنے کے بعد دوسرا مال بھی اس طرح دیا جاسکتا ہے اور وہ خود اپنا مال بھی اس حوض میں شامل کر سکتا ہے۔“

(غیر سودی بینکاری) (۳۲۶)

**آقوٰل: اولاً:** امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے جس قول سے استدلال کیا گیا ہے وہ مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے، اور کئی صورتوں پر منقسم ہے۔

فانياً: اس میں تصریح ہے کہ رنج اور نفع آنے کے بعد رب المال رأس المال کے ساتھ طے شدہ شرح کے مطابق رنج کے ایک حصے کا بھی مالک ہو جاتا ہے اور مضارب بھی ایک حصے کا مالک ہو جاتا ہے، لہذا رنج آنے کے بعد رب المال کا سرمایہ میں اضافہ کرنا اور مضارب کا یا کوئی مال حوض میں شامل کرنا مطلقاً کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

الخطیط البرہانی کی جس عبارت سے استدلال کیا گیا ہے وہ عبارت بتا مہما اوپر ہم نقل کرچکے ہیں، اب لعلم حضرات و تفصیلی عبارت مطالعہ فرم کر خود فیصلہ کر جئے کہ اس عبارت میں صرف ایک صورت کا بیان ہے یا متعدد صورتوں کا؟ اور جواز مطلق ہے یا مشروط؟ اور نفع آنے کے بعد مضارب اور رب المال طے شدہ شرح کے مطابق رنج اور نفع کے مالک ہیں یا نہیں؟ پھر بینک پر غور فرمائیں کہ بینک نے حوض میں جدید سرمایہ آنے کے وقت اس نفع اور رنج کا حساب کر کے قدر یہ شرکاء اور ارباب الاموال کو اپنا نفع دیا؟ ..... یا..... حوض میں

چھوڑ کر ان کے سرمائے میں اضافہ کیا؟..... یا..... دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا؟  
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ الحجیط البرہانی کی عبارت کا کچھ حصہ نقل  
کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”اہنذا یہاں بھی یہی صورت ہے کہ جتنا جتنا مال مضاربہ کے حوض میں  
آتا رہے گا وہ معلوم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب حساب کا وقت آئے  
گا تو مکمل رأس المال معلوم ہو چکا ہو گا، اور اگر رأس المال پر کوئی اضافہ ہوا  
ہے تو وہ نفع کی شکل میں مضاربہ اور ارباب الاموال کے درمیان طے شدہ  
شرح سے تقسیم ہو گا۔ چونکہ بعد میں آنے والے مال کے پہلے سے معلوم نہ  
ہونے کی بناء پر ایسی جہالت پیدا نہیں ہوتی جو نفع کو مجہول بنادے اور مفہوم  
الی انتزاع ہو، اس لئے صاحب بدائع کے مذکورہ بالا ارشاد کے مطابق یہ  
جہالت عقد کو فاسد نہیں کرتی (غیر سودی بیکاری ۳۲۷)

**آقوٰل:** یہ تفصیل اور استنباط صاحب بدائع کے سر تھوپنا کسی طرح بھی درست نہیں۔  
کیونکہ صاحب بدائع کل مدت شرکت میں سرمایہ کے معلوم ہونے کی شرط لگا رہے ہیں، کہ  
ابتدائے عقد سے تقسیم منافع تک جو رأس المال رہا ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے، اگرچہ  
بقول حضرت مفتی صاحب کے اس کا بوقت تقسیم منافع معلوم ہونا بھی صحت عقد کے لئے کافی  
ہے۔ جبکہ بینک میں بوقت تقسیم منافع جو رأس المال معلوم ہوتا ہے وہ اسی دن کا رأس المال  
ہوتا ہے، پوری مدت شرکت کا رأس المال نہیں ہوتا۔ اہنذا اس کی نسبت صاحب بدائع کی  
طرف کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟

حضرات مجازین پر لازم ہے کہ بدائع سے یا کسی بھی فرقہ کی کتاب سے ایسی عبارت تلاش  
کر کے دکھائیں جس میں صرف آخری دن (یعنی بوقت تقسیم منافع) کے رأس المال کو

(باوجود اس یقین کے کہ ابتدائے عقد کے وقت رأس المال یعنی تھا اور درمیان میں بھی یہ نہ تھا) کل مدت عقد کا رأس المال کہا گیا ہو۔

اگر ایسی عبارت مل گئی تو پھر حضرات فقهاء کرام حجہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا درست اور بجا ہے، لیکن یقین ہے کہ مضبوط عبارت تو درکار کوئی ضعیف عبارت بھی نہ ملے گی، کیونکہ اس کا غلط ہونا بدیہی اور ظاہر ہے۔ اور حضرات فقهاء کرام حجہم اللہ تعالیٰ بدیہیات کے خلاف نہیں لکھتے۔

### ﴿شرکت و مضارب شروع ہونے کے بعد بعض شرکاء کا بعض یا کل رقم نکلوانا﴾

حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں:

”اب اس طریق کار کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی مختلف شرکاء کا شرکت و مضارب شروع ہونے کے بعد قبیل نکلوانا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی رقم اس مشترک حوض سے نکلوانا چاہتا ہے وہ درحقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے اور اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مدنظر رکھی جاتی ہے..... (آگے لکھتے ہیں) ..... اب بات اس قیمت کی رہ جاتی ہے جس پر شرکاء وہ حصہ خریدیں، اس کا منصفانہ فارمولہ بھی ہو سلتا ہے کہ اگر اس وقت انہوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا اور اس وقت نکلنے والے شریک کا رأس المال میں اور اگر اس وقت تک نفع ہوا ہو تو نفع میں جتنا حصہ بتا اس کے حصے کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا، جو شرکت کے وقت طے ہوا تھا جس کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اس میں مختلف حالات کی صورت میں مختلف ناساب مقرر کئے جاسکتے ہیں،

کیونکہ وہ ”الربح على ما اصطلاحاً عليه“ کے عالم قاعدے میں داخل ہے (غیر سودی بینکاری ۳۲۷، ۳۳۳)

آقول: بینک کے اس طریق کار میں درج ذیل مفاسد ہیں:

(۱) یہ صرف زبان اور تحریر کی حد تک ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اس پر بینک کے لئے عمل کرنا مشکل، بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ روزانہ سیوگ اکاؤنٹ ہولڈروں کا اپنے اکاؤنٹ سے کل یا بعض رقمیں نکلوانا مسلم ہے، الہزار روزانہ ان کے حصہ کی قیمت معلوم کرنے کے لئے بینک کے پورے کاروبار کی قیمت معلوم کرنا، ضروری ہے۔ اور یہ بینک کے بس میں نہیں کہ وہ روزانہ ادھار اور کاریہ پر دی ہوئی تمام اشیاء، نقدیات اور مبند اٹاٹے سب کو جمع کر کے کل قیمت بتائے اور پھر رقم نکلوانے والوں کے حصے کی قیمت بتا کر طے شدہ شرح کے مطابق اصل سرمایہ کے ساتھ ساتھ نفع بھی دے۔

جس صورت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو ایسی صورت کا مشورہ دینا کیونکر مفید ہو سکتا ہے؟

(۲) چونکہ یہ طریق کار ”بیع“ ہے، اور بیع میں تراضی جانبین شرط ہے، اور تراضی کے تحقیق و عدم تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ بیع کی قیمت جانبین کو معلوم ہو۔

جبکہ بہاں !!! اولاً: تو کتنے سیوگ اکاؤنٹ ہولڈر ایسے ہیں جن کو اس بات کا ہی علم نہیں کہ یہ رقم نکلوانا اپنا حصہ شرکت فروخت کرنا ہے، اور ایسے بے خبر اکاؤنٹ ہولڈر زکے رقم نکلوانے کو بیع قرار دینے کے لئے فقہی عبارت ضروری ہے۔

ثانیاً: کسی اکاؤنٹ ہولڈر کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے حصہ شرکت کی اس وقت قیمت اتنی ہے! آپ اس قیمت پر دینے کے لئے راضی ہیں یا نہیں؟ جب اس کو قیمت ہی کا علم نہیں تو تراضی کی شرط کیسے پوری ہوگی؟ جبکہ درج ذیل عبارت میں اس کی تصریح ہے کہ بیع کے مکمل ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مجلس عقد میں مشتری اور خریدار کو بیع کا ثمن معلوم ہو

جائے۔

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تحت قوله : قوله : ( ان قبل القبض لم يصح ) : قلت : و مثله قوله في الذخیرۃ : ”اشترى شيئاً ثم اشرك آخر فيه“ فهذا بيع الصف بنصف الشمن الذى اشتراه به اهـ و مقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه وأنه لا بد من علم المشترى بالشمن في المجلس ( الشامية ۵۰۲ / ط رشیدیة )

**ثالثاً:** اکاؤنٹ ہو لڈ رائپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے کہ بینک کی لگائی ہوئی قیمت پر ہر صورت میں مجھے بینک ہی کو بیچنا ہے، کیونکہ (بینک نے صرف اکاؤنٹ ہو لڈ کو نقصان دینے کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنا حصہ صرف بینک ہی کو فروخت کر سکتا ہے، بینک کے علاوہ نہ تو وہ قدیم شرکاء میں سے کسی خاص شریک کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی نئے آنے والے اکاؤنٹ ہو لڈ کو بیچ سکتا ہے )

جب اس صورت میں بھی رضائے تام کا یقین نہیں تو یہ بیع اور اس سے حاصل شدہ منافع کیسے جائز اور حلال ہو سکتے ہیں؟ جبکہ حلّتِ اکلی مال غیر کے لئے رضائے تام شرط ہے۔ جیسا کہ ذیل میں مذکور حدیث شریف اور مبسوط کی عبارت میں اس کی تصریح ہے۔

عن أبي حرة الرقاشى عن عممه قال : قال رسول الله ﷺ : الا لا

تظلموا الا لا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه ، رواه البیهقی

فی شعب الإيمان والدارقطنی فی المجتبی (مشکوہ : ۲۵۵)

”آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”خبردار! کسی پر ظلم مت کیا کرو خبردار! کسی آدمی کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر ہڑپ کرنا حلال نہیں۔“

قال الامام السرخسی رحمه اللہ تعالیٰ: و لو أکرہ بوعید قتل أو حبس حتی تزوج امرأة على عشرة آلاف درهم و مهر مثلها ألف درهم جاز النكاح لما بينا أن الجد و الهزل في النكاح و الطلاق و العتقاق سواء فكذلك الإكراه و الطوعية و للمرأة مقدار مهر مثلها، لأن التزام المال يعتمد تمام الرضا و يختلف بالجed و الهزل فيختلف أيضا بالإكراه و الطوع فلا يصح من الزوج التزام المال مكرها إلا أن مقدار مهر المثل يجب لصحة النكاح لامحالة. (المبسوط للسرخسی ۷۵ / ۲۲، و نحوه في البدائع) امام سرسی رحمه اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اگر اس کو قتل یا قید کی دھمکی دے کر اس پر جبر کیا گیا یہاں تک کہ اس نے عورت سے دس ہزار مہر پر شادی کی حالانکہ عورت کی مہر مثل صرف ایک ہزار ہے تو یہ نکاح جائز اور منعقد ہو گا کیونکہ ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں کہ نکاح، طلاق اور عتقاق کے باب میں سنجیدگی اور ہزل کا ایک ہی حکم ہے لہذا خوشی اور جبر میں بھی ایک ہی حکم ہو گا، لیکن عورت صرف مہر مثل (یعنی ایک ہزار) کی حقدار ہے (پورے دس ہزار کی نہیں) کیونکہ کسی کے لئے مال کا التزام کامل رضا چاہتا ہے اور رضا، خوشی اور جبر کی صورت میں مختلف ہوتی ہے جیسا کہ سنجیدگی اور ہزل میں مختلف ہوتی ہے لہذا جبر کے ہوتے ہوئے شوہر کی طرف سے مال کا التزام درست نہیں۔ ہاں! نکاح کی صحت کے لئے مہر مثل کے بعد رشوہر کے ذمہ واجب ہو گا۔

(۳) اس طریق کا رسم معلوم ہوا کہ بینک یا حصہ تمام شرکاء اور ارباب اموال کے لئے

خریدتا ہے، لہذا اس خریداری کا نفع بھی تمام شرکاء اور ارباب اموال کو ملتا چاہئے، جبکہ اس کا آج تک کوئی یقینی ثبوت پیش نہیں کر سکا، کہ تفہیم منافع کی تاریخ سے چند دن قبل ہم نے بعض شرکاء کے حصے خریدے تھے جن کی وجہ سے اتنا نفع حاصل ہوا اور اکاؤنٹ ہولڈر کا اس میں سے اتنا حصہ بنا اور اصل سرمائے کے نفع سے اس حصہ کو ملا کر کل اتنا نفع اس کو دیا گیا، بلکہ یہ سارا نفع بینک خود ہضم کرتا ہے۔ البتہ بعض بینکاروں نے یہ بات ضرور ہم سے ایک مجلس میں کہی تھی کہ اس پر غور ہو رہا ہے کہ اس نفع سے اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی حصہ دینا چاہئے۔

(۲) اس طریق کار میں ایک خرابی ”تملیک الدین من غیر من علیه الدین“ کی بھی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ رقم نکلوانے والوں کا حصہ شرکت عام طور پر چار اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، (الف) نقد (ب) ادھار (ج) مال تجارت (د) مخدماً ثاثے (الف) ان اجزاء میں سے نقد کی بیع ”بیع صرف ہے“ جس میں یاد ہے (یعنی ہاتھ کے ہاتھ) وغیرہ شرائط کا لحاظ ضروری ہے ورنہ سود لازم آئے گا، یعنی جس مجلس میں بیع ہو جائے اسی مجلس میں بقدر نقد حصہ کی رقم دینا لازم ہے، نسیمه اور تاخیر سے دینا سود اور حرام ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ : (هو) لغة الزيادة و

شرعًا (بيع الشمن بالشمن) أى ما خلق للشمنية و منه المصور

(جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (و يشترط) عدم

التأجيل والخيار و (التماثل) أى التساوى وزنا (و التقابض)

بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق)

وقال العلامة ابن عابدين رحمہ اللہ تعالیٰ : قوله : (لا بالتخلية)

أشار الى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية و اشتراط

القبض بالفعل لا خصوص البراجم حتى لو وضعه له في كفه أو

فی جیبہ صار قابضا . قوله : (قبل الافتراق) ای افتراق المتعاقدين بأخذانهما و التقييد بالعاقدين یعم المالکین و النائبین و تقييد الفرقة بالأبدان یفید عموم اعتبار المجلس .

(الشامیہ ۷ / ۵۵۲ ، ۵۵۳ ، ط رشیدیہ)

(ب) ادھار حصے کی بیع کے لئے یہ شرط ہے کہ مدیون کے سوا دوسرے پر نہ بیچا جائے۔

قال الامام المرغینانی رحمہم اللہ تعالیٰ : فإذا تعینت كان هذا تملیک الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه و ذلك لا یجوز كما اذا اشتري بدین على غير المشترى .

وقال العلامة الأفندي رحمہم اللہ تعالیٰ : وأجیب عن الاعتراض المذکور فی بعض الشروح بوجه آخر أيضا و هو أن البائع لو صار وكیلا فانما یصیر وكیلا فی ضمن المبایعه و لابد من أن یثبت المتضمن لیثبت المتضمن و المبایعه لم تثبت لما فيه من تملیک الدين من غير من عليه الدين فلا یثبت المتضمن بخلاف ما نحن فيه لأن التوكیل بالقبض یثبت فيه بأمر الآمر و أنه یسبق الشراء (تکملة فتح القدير ۷ / ۵۷، ۵۸ ط رشیدیہ)

مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ عنوان ”دین کم قیمت پر غیر مدیون کے ہاتھ بیچنا“ کے تحت جواب میں فرماتے ہیں:

”یہ معاملہ دو وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ ایک یہ کہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے، جو ناجائز ہے..... (حسن الفتاوی ۷ / ۱۷۶)

جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ بینک میں خریدار مدیون کا غیر ہوتا ہے۔

(ج-د) مال تجارت اور مخدراٹوں کی قیمت کے سلسلے میں بقول حضرت مفتی تقی عثمانی

صاحب مدظلہ کے منصفانہ فارمولایہ ہے کہ اس وقت ان کی جو بازاری قیمت فروخت ہو وہ لگائی جائے۔ فرماتے ہیں:

”اس کا منصفانہ فارمولایہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت اثاثوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا اور اس وقت نکلنے والے شریک کا رأس المال میں اور اگر اس وقت تک نفع ہوا ہو تو نفع میں جتنا حصہ بنتا، اس کے حصے کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا، جو شرکت کے وقت طے ہوا تھا، جس کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اس میں مختلف حالات کی صورت میں مختلف تناسب مقرر کئے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ ”الربح على ما اصطلاحا عليه“ کے عام قاعدے میں داخل ہے۔

(غیر سودی بینکاری) (۳۳۳)

(۵) جو منصفانہ فارمولہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے خود تحریر فرمایا ہے اس پر عمل کرنا کیا ممکن ہے؟ اور بینک اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہے؟..... ہرگز ہرگز نہیں! الحال صل قم نکلوانا بھی مندرجہ بالا مفاسد کی وجہ سے ناجائز اور خلاف شرع ہے۔

(۶) وزن (Weightage) پر اہم سوال جس کا جواب نہیں دیا گیا

فرماتے ہیں:

”لیکن جہاں تک نفع کی تقسیم کا سوال ہے، تو جب تک تمام شرکاء کو نفع مل رہا ہو، اور کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس میں ایک شریک کو نفع ملے، دوسرے کو نہ ملے (جسے فقہاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ نے انقطاع الشرکة سے تعبیر کیا ہے) تو تقسیم کی کوئی بھی شرح باہمی رضامندی سے تجویز کی جاسکتی ہے۔“ (غیر سودی بینکاری) (۳۱۱)

**آقو!** سوال یہ ہے کہ مثلاً زید نے چھ لاکھ روپے ایک سال کے لئے بینک میں جمع کئے جس کا ویٹچ 1.10 روپے مقرر ہوا اور چھ ماہ تک اسی ویٹچ اور شرح نفع کے اعتبار سے منافع لیتا رہا، اچا بینک اس کو رقم سال پورا ہونے سے چار پانچ ماہ پہلے نکلوانی پڑی، ایسی صورت میں ہماری معلومات کے مطابق بینک کا قانون یہ ہے کہ چھ مہینے کی ویٹچ مثلاً 1.05 روپے کے حساب سے اس کے نفع کا حساب کیا جاتا ہے اور چھ مہینے جو 1.10 روپے کے حساب سے زیادہ نفع لے چکا ہے اس کو واپس کاٹ لیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں جو شرح نفع مقرر کی گئی تھی وہ حقیقی نہیں بلکہ تشکیلی اور تردیدی ہے، جبکہ اس کا حقیقی طور پر معلوم ہونا ضروری ہے۔

قال في الهندية: و شرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقدا لشركة قابلا للوكالة كذا في المحيط، وأن يكون الربح معلوم القدر فان كان مجھولا تفسد الشركة وأن يكون جزء اشائعا في الجملة لا معينا فان عين عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع (الهندية ٢/٣٠٢)  
اگر یہ کہا جائے کہ پیسے نکالتے وقت ویٹچ میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کمی اس کے حصے کے شمن میں شمارکی جاتی ہے، تو اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ شخص اپنا حصہ اس ویٹچ کے ساتھ کسی اور کو فروخت کرنا چاہے تو اس کو کم قیمت پر بینک ہی کو بینچنے پر مجبور کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ جبکہ بیوں میں تراضی شرط ہے۔

نیز امداد الاحکام کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ تراضی شرکاء سے اصل سرمایہ مع نفع واپس کیا جاسکتا ہے، یہاں اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟

**تنبیہ:** میزان بینک کے ایک برائیج میجر نے بتایا کہ زیادہ مدت کے لئے رقم جمع

کرنے والے کو جو ویٹ دیا جاتا ہے، اگر وہ اُس مدت سے پہلے قم نکالتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کم مدت کا ویٹ یہ ہے، لہذا آپ نے جوز یادہ نفع لیا ہے وہ آپ سے کاٹا جاتا ہے۔

میجر صاحب کو چونکہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس کا حصہ کم قیمت پر خریدا جاتا ہے، اس لئے وہ کلائنٹ سے بیع و شراء کی بات کرتے ہی نہیں کیا ایسی صورت میں گاہک کے اس معاملے کے ختم کرنے کو بیع و شراء کہیں گے؟ اور اس پر بیع و شراء کے سارے احکام جاری ہوں گے؟ یا اس کو مضاربت ختم کرنا کہیں گے؟ اور اس پر اختتامِ مضاربت کے سارے احکام جاری ہوں گے؟

### (۳) ﴿محدود ذمہ داری﴾

اس عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں:

”اگر عقد میں کوئی شرط کسی تیسرے اجنبی شخص کے ذمہ لگائی جائے تو عقد فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی (رحمہ اللہ تعالیٰ) لکھتے ہیں:

المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر فلو على  
أجنبي لا يفسد الشرط لما في الفتح والولوالجية:  
بعثك الدار بآلف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دارهم  
فقبل المشترى لا يفسد البيع لأنه لا يلزم الأجنبي ولا خيار  
للبائع أهـ ملخصاً (رد المحتار ۸۵/۵، باب البيع الفاسد)  
اور الحبر الرائق میں علامہ ابن حکیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

و في المتنقى قال محمد: كل شيء يشترطه المشترى على

البائع یفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبى فهو باطل كما اذا اشتري دابة على أن يهبه فلان الأجنبى كذا فهو باطل كما اذا سرت على البائع أن يهبه،

اس کے حاشیہ پر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قوله: فهو باطل أى فالشرط باطل كما في البزازية (البحر ۱۲۱ / ۲) یہاں محدود ذمہ داری کا شرکاء کے باہمی حقوق و فرائض سے تعلق نہیں یعنی یہ شرط ایک شرکی دوسرے شرکی پر یا (اگر مفتی عبدالواحد صاحب کے بقول اجراء ہے تو) مستأجراً جریئر پر نہیں لگا رہا بلکہ یہ تمام حصہ داروں کی طرف سے اپنے دائیں کے لئے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اگر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں آپ کے دیوں کمپنی کے اثاثوں سے زیادہ ہوئے تو آپ صرف اثاثوں کی حد تک ہی اپنے دیوں وصول کر سکیں گے۔ اس اعلان کے مخاطب شرکاء نہیں بلکہ شرکاء کے دائیں ہیں لہذا یہ شرط متعاقدين ایک دوسرے پر نہیں لگا رہے بلکہ اجنبی پر لگا رہے ہیں اور ایسی شرط مذکورہ عبارات فقهیہ کی روشنی میں خود تو باطل ہو جاتی ہے لیکن اس سے عقد فاسد نہیں ہو جاتا۔

محدود ذمہ داری کے ناجائز ہونے کی صورت میں یہ اعلان اور اجنبیوں پر یہ شرط عائد کرنا ناجائز ہو گا اور شرط بھی فاسد ہو گی لیکن اس کی وجہ سے عقد کو فاسد نہیں کہا جا سکتا، (غیرسودی بینکاری ۳۲۶، ۳۲۵)

**آقو!** ان عبارات فقهیہ سے جوبات نکالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرکاء کے درمیان محدود ذمہ داری کی شرط سے یہ عقد شرکت یا عقد مشاربت فاسد نہ ہو گا یہاں تک تو یہ بات درست

معلوم ہوتی ہے لیکن یہاں دو عقد ہیں، ایک عقد شرکت (جو شرکاء کے درمیان ہے) یا عقد مشارکت ہے (جو شرکاء اور بینک کے درمیان ہے) اور دوسرا وہ عقد ہے جو دائنین اور بینک یا ماکان بینک یا حصہ دار ان کے درمیان ہے۔ اس دوسرے عقد کے عدم فساد کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہاں یہ شرط فاسد صلب عقد میں ہے، اور یہ شرط فاسد کسی اجنبی پر بھی نہیں، اس لئے کہ یہ دائنین جو کہ فروخت کنندگان ہیں، کے لئے ہے اور وہ بھی اس عقد میں ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عبارات فقهیہ مذکورہ سے تو اس عقد کا عدم فساد معلوم نہیں ہوتا لہذا محدود ذمہ داری کی شرط کی وجہ سے یہ دوسرा عقد یعنی عقد بیع عقد بیع فاسد ہو گا، اور جب یہ عقد فاسد ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بینک کی پوری کمائی عقود فاسدہ کی مرہون منت ہے اور عقود فاسدہ بتصريح فقهاء کرام حبہم اللہ تعالیٰ بحکم سود ہیں اور بینک کے ماکان اپنے شرکاء کو جو نفع دیتے ہیں ان عقود فاسدہ سے حاصل کر کے دیتا ہے۔ گویا کہ بینک محدود ذمہ داری کے تصور کی بنیاد پر خود بھی عقود فاسدہ کی حرام آمدی کھا کر سود کے گناہ میں ملوث اور ان کے تمام شرکاء بھی بحکم سود عقود فاسدہ کے منافع کھا کر سود کے گناہ میں ملوث ہیں۔

حضرات فقهاء کرام حبہم اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جو بیع عقد فاسد کے سبب ملک میں آئی ہواں کے منافع ارباح فاسدہ اور حرام ہیں۔

قال الامام المرغینانی رحمه الله تعالى : قال : ((ومن اشترى جارية

بيع فاسدا وتقا بضها ، فباعها وربح فيها تصدق بالربح ، ويطيب

للبايع ماربح في الشمن)) و الفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق

العقد بها ، فيتمكن الخيت في الربح ، والدرارهم والدنانير لا

تعينان في العقود ، فلم يتعلّق العقد الثاني بعينها ، فلم يتمكّن

الخبث فلا يجتب التصدق ، وهذا في الخبر الذي سببه فساد

الملك الخ.(الهدایۃ / ۲۷ ، ۲۸)

اس عبارت کے پیش نظر بینک جو سامان گاڑیاں وغیرہ عقود فاسدہ کے ذریعے سے حاصل کر کے آگے نفع پر بیچتا ہے، یہ سارے منافع حرام اور واجب التصدق ہیں، بینک کے مالکوں اور ان کے دوسراے شرکاء کے لئے ان کا استعمال حرام ہے، لہذا ایسے بینکوں میں شرکت اور مضاربت کی بنیاد پر پیسے لگانا کیونکر جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟

## (۲) ﴿بینک کے ملازم کی حیثیت کیا ہے؟﴾

بینک کے وظائف دار ملازم جن کا اپنا بیسیہ ہی بینک کے سیوٹگ اور کاروباری اکاؤنٹ میں جمع ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی دو حیثیتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یہ رب المال ہوں اور بینک کے مالکان یا شخص قانونی مضارب ہوں، دوسرا یہ کہ یہ مالکان بینک کے ساتھ شریک ہوں۔ اور یہ دونوں صورتیں ناجائز اور خلاف شرع ہیں۔ لہذا رقم لگانے والے وظائف دار ڈائرکٹر سے لے کر ادنی درجہ کے ملازم تک سب کی ملازمت ناجائز اور فاسد ہوگی۔  
یہ یاد رہے کہ بعض ڈائریکٹر وظائف بھی لیتے ہیں۔

خود حضرت مدظلہ فرماتے ہیں:

”البته اگر کوئی ڈائریکٹر کمپنی کا کوئی کام ہمہ وقت طور پر سنبھال لے تو اس کو تختواہ دی جاتی ہے،“ (غیر سودی بینکاری ص ۳۷۷)

اسی صفحہ پر یہ بھی فرمایا ہے:

”بلکہ مینگ میں شرکت کی فیس دی جاتی ہے،“ (حوالہ بالا)

فیس اُجرت اور تختواہ ہے یا نہیں؟.....

**تعمیبیہ:** حضرت مذکون نے واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ ارباب الاموال آپس میں شرکاء ہیں اور بینک ان سب کا مضارب ہے، فرماتے ہیں:

”جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں جس میں اکاؤنٹ ہو لڈ را باب الاموال ہیں، اور بینک مضارب ہے،“ (غیر سودی بینکاری ۳۱۲)

پوچھنا یہ ہے کہ آخر بینک سے کیا مراد ہے؟ شخص قانونی یا بینک کے مالکان؟ نیز مالکان سے کیا مراد ہے؟ جن کا رأس المال زیادہ ہے، وہ مراد ہیں یا کوئی اور؟

### ﴿مضاربہ اور فساد ملازمت رب المال کی وجہ﴾

مضاربت کی صحت کے لئے یہ شرط ہے کہ رب المال کام نہ کرے ورنہ مضاربت فاسد ہو جائے گی البتہ بدول شرط تبرعاً کام کرے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، چونکہ بینک میں رب المال اجرت پر کام کرتا ہے نہ کہ تبرعاً لہذا اس سے مضاربہ فاسد ہو جائے گا اور معاملات فاسدہ کا بچکم سود ہونا ظاہر ہے۔ اعاز نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ

قال العلامۃ الحصکفی رحمة الله تعالى: (فصل) ولو حکما

فدخل ربا النسیة و البيوع الفاسدة فكلها من الربا

(رد المحتار ۷ / ۷۱، ط : رسیدیہ)

حضرت مفتی عظیم مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ مضاربت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”یہ عقد مضاربہ ہے مگر صحت مضاربہ کی شرائط میں سے درج ذیل شرائط

یہاں مفقود ہیں (۱) ..... (۲) وہ کاروبار صرف مضارب ہی چلائے اگر رب المال نے شرط لگائی کہ وہ بھی کاروبار چلانے میں شریک رہے گا تو مضارب صحیح نہیں۔

قال فی التنویر: و کونه مسلما الى المضارب و قال ابن عابدین رحمه اللہ تعالیٰ: (قوله: مسلما) فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة (رد المحتار ۵۲۰ / ۳)

(آگے فرماتے ہیں) ان شرائط کے مفقود ہونے کی وجہ سے مضاربہ فاسدہ ہوئی اور مضاربہ فاسدہ مآل کے لحاظ سے اجراء فاسدہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ مضارب کو اجرت مثل (یعنی بصورت ملائم کام کرنے کی صورت میں جو تجواہ مل سکتی تھی) اور منافع مقررہ میں سے جو کم ہو وہ دیا جائے گا۔

قال فی شرح التنویر: و اجراء فاسدة ان فسدة فلا ربح للمضارب حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقاً ربح أو لا بلا زيادة على المنشروط (رد المحتار ۵۳۹ / ۳، بحوالہ احسن الفتاوى ۲۲۰ / ۷)

”مضاربہ میں نفع کی تعین جائز نہیں“ کے عنوان کے تحت ایک سوال کے جواب میں حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”مضاربہ میں کسی ایک فریق کے لئے تعین نفع کی شرط جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے، رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔“

قال فی التنویر: و کون الربح بينهما شائعا (رد المحتار

(۲۳۵/۴/۳، بحوالہ احسن الفتاوی)

یہاں بھی ملازم جورب المال ہے، کو قسم نفع سے پہلے معین تجوہ ملتی ہے اور یہ بھی نفع کا کچھ حصہ معین کر کے دیتا ہے۔

آگے ”رب المال پر کام کی شرط مفسد عقد ہے“ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:  
 ”مضاربہ میں رب المال پر کام کی شرط لگانا جائز نہیں۔ یہ مضاربہ فاسدہ ہے۔“

قال فی التنویر: و اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد

(رد المحتار ۲/۵۲۳، احسن الفتاوی ۷)

### ﴿شرکت اور فساد ملازمت شریک کی وجہ﴾

شریک کو ملازم رکھ کر اس کو معین تجوہ دینا چونکہ شرکت کے بنیادی اصول کے خلاف ہے لہذا مفسدہ شرکت ہے۔ شرکت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے جس سے نفع میں شرکت منقطع ہو جائے جبکہ ملازمت کی صورت میں یہ شرکت منقطع ہو سکتی ہے کیونکہ مثلاً اگر اس (ملازم شریک) کی اجرت اور تجوہ اس ہزار روپیہ ہے اور کل نفع بھی اس ہزار یا اس سے کم ہوا ہے تو کل نفع اس ایک شریک کو مل جائے گا اور دوسرے سارے شرکاء محروم ہونگے۔

بحمد اللہ تعالیٰ کتاب ”غیر سودی بینکاری“ میں تین جگہوں پر یہ بات انتہائی قوت اور شدت سے تحریر فرمائی گئی ہے۔ لیکن تجھ کی بات ہے کہ پھر بھی بینکوں کے ملازمین پر کاروباری اکاؤنٹ کھولنے کی پابندی نہیں..... میزان بینک کے کتنے سارے ملازمین کے کاروباری اکاؤنٹ بھی میزان بینک ہی میں ہیں۔

پہلی جگہ: ”غیر سودی بینکاری“ نامی کتاب میں ”یومیہ پیداوار“ کی بنیاد پر نفع کی تقسیم،

کے عنوان کے تحت اس کو ثابت اور جائز قرار دینے کے لئے درجنوں صفحات تحریر کئے گئے ہیں لیکن مدعایاً ثابت ہوا یا نہیں؟ یہ فیصلہ ہر ذی علم خود کر سکتا ہے۔ (تفصیل پہلے گز رچکی ہے) بہر حال حضرت کی اس تفصیلی تحریر سے اگرچہ مدعایاً ثابت نہ ہو سکا لیکن ایک حق بات اور امر واقعی کو خود تحریر فرمادیا جس سے واضح ہو گیا..... کہ شریک کو ملازم رکھنا خلاف شرع اور ناجائز ہے۔

لکھتے ہیں:

”یومیہ پیداوار“ کے طریقہ میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے شرکت کے ”کسی بنیادی اصول“ کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی جبکہ نفع کا تناسب اسی نسبت سے کم بھی ہو رہا ہے جس نسبت سے کاروبار میں اس کا حصہ شامل نہیں تھا، شرکت کا وہ ”بنیادی اصول“ کہ کسی صورت میں کوئی شریک نفع سے محروم نہ رہے یعنی انقطع شرکت لازم نہ آئے۔

(غیر سودی بیدکاری) (۳۲۲)

**آقو!** جب شریک ملازم کی تنخواہ مثلاً دس ہزار ہو اور کل نفع بھی دس ہزار یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں دوسرے شرکاء نفع سے محروم ہوں گے یا نہیں؟ اور شرکت کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہو گی یا نہیں؟ ..... یقیناً یہ دونوں باتیں لازماً ہوں گی ..... اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے کسی شریک کے لئے نفع میں سے کچھ رقم کی تخصیص و تعین کو ناجائز اور مفسد شرکت فرمایا ہے۔

قال العلائی رحمة الله تعالى: (و شرطها) أى شركة العقد .....

(و عدم ما يقطعها كشرط دراهم مسممة من الربح لأحدهما)

لأنه قد لا يربح غير المسمى (رد المحتار ۷/۳۶۸، رشیدیہ)

**دوسری جگہ:** اسی کتاب میں ”محدود ذمہ داری“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”اس سلسلہ میں اول تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کو (متعاقدین کے درمیان) شرط فاسد بھی قرار دیا جائے تو شرکت ان عقوبات میں سے ہے جو شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتی (الایہ کہ اس شرط باطل کے نتیجہ میں شرکت ہی باقی نہ رہتی ہو مثلاً کسی ایک شریک کے لئے کسی معین رقم کی شرط، (غیر سودی بینکاری ۳۲۲)

**تیسرا جگہ:** فرماتے ہیں:

”لیکن جہاں تک نفع کی تقسیم کا سوال ہے، تو جب تک تمام شرکاء کو نفع مل رہا ہو، اور کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس میں ایک شریک کو نفع ملے، دوسرے کو نہ ملے (جسے فقهاء کرام حرمهم اللہ تعالیٰ نے انقطاع الشرکة سے تعبیر کیا ہے)،“ (غیرسودی بینکاری ۳۱۱)

**آقول!** ! شریک ملازم کی تجوہ معین رقم ہوتی ہے یا نہیں؟ اور یہ ملازم شریک بھی ہے..... اور خود فرمارہے ہیں کہ کسی ایک شریک کے لئے معین رقم کی شرط یہ مفسد ہے (غیرسودی بینکاری ۳۲۲) یہاں ملازم شریک بھی ہے اور معین رقم کی شرط بھی ہے۔ لہذا یہ شرکت فاسد ہی ہوگی۔

**لیکن باوجود اس کے کہ.....**

مندرجہ بالا عبارت میں خود یہ تسلیم فرمایا ہے کہ ایسی شرط جس سے شرکت کی بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہو وہ ناجائز ہے اور مفسد عقد ہے، پھر خود مثال دے کر بتالیا کہ مثلاً کسی ایک شریک کے لئے معین رقم کی شرط۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شریک کو ملازم رکھنا

جائز نہیں۔ پھر بھی اس کے خلاف بینکوں میں شریک کی ملازمت کو منع نہیں فرماتے۔

بلکہ ان تصریحات کے باوجود، غیر سودی بینکاری نامی کتاب کے صفحہ ۳۲۸ کے حاشیہ پر اپنے خلاف اور صحیح مسئلہ اور حقیقت کے بر عکس احسن الفتاویٰ کے حوالہ سے بتایا کہ شریک کو ملازم رکھنا جائز ہے۔ حالانکہ خوب جانتے ہیں کہ احسن الفتاویٰ کے اس مسئلہ میں تسامح ہوا ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شریک کو ملازم رکھنا جائز نہیں۔ اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی تو اصل کتاب میں اس کے خلاف نہ لکھتے؟ معلوم ہوا کہ آپ مدظلہ نے احسن الفتاویٰ کے دلائل کو مثبت دعویٰ نہیں سمجھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ دلائل مثبت دعویٰ نہیں!..... کیوں؟..... اس لئے کہ احسن الفتاویٰ میں دو باتیں ہیں، ایک عباراتِ فقہیہ اور دوسرا تعالیٰ تعامل۔

**پہلی بات (یعنی عباراتِ فقہیہ)** کا جواب: جتنی عباراتِ فقہیہ پیش کی گئی ہیں سب شرکت ملک سے متعلق ہیں اور شرکت ملک میں اگرچہ متون اور ظاہر الروایہ کا مسئلہ عدم جواز کا ہے لیکن اس کے خلاف بھی کئی فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے شرکت ملک میں شریک کے ملازم رکھنے کو جائز فرمایا ہے۔

ان عبارات میں سے ایک عبارت بھی شرکت عقد سے متعلق نہیں اور ہمارا اختلاف شرکت عقد میں شریک کو ملازم رکھنے سے متعلق ہے اور شرکت عقد میں شریک کو ملازم رکھنے کے جواز پر فقہ کی کسی کتاب سے کوئی ایک عبارت بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ ہم نے جہاں تک تیسیج اور تلاش کیا ہے ہمیں تو کوئی ضعیف قول بھی اس کے جواز کا نہیں ملا۔ محقق ابن الہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو علامہ ابن المنذر کے حوالے سے اس کے عدم جواز پر اجماع نقل فرمایا ہے۔ بلکہ اس میں تو اس بات کی تصریح ہے کہ یہ شرط لگانا اس معاملہ کو عقد شرکت سے نکال کر قرض اور بضاعت (یعنی بلا عوض خدمت) میں داخل کر دیتا ہے۔

قال العلامہ المحقق ابن الہمام رحمہ اللہ تعالیٰ : (قوله) ولا

تجوز الشرکة اذا شرط لأحدهما دراهم مسممة من الربح) قال ابن المنذر : لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم ، و وجهه ما ذكره المصنف بقوله : لأن شرط يوجب انقطاع الشرکة فعساه لا يخرج الا قدر المسمى فيكون اشتراط جميع الربح لأحدهما على ذلك التقدير ، و اشتراطه لأحدهما يخرج العقد عن الشرکة الى قرض أو بضاعة على ما تقدم .

(فتح القدير ۲ / ۷۰ اطرشیدیہ قدیم)

دوسری بات (یعنی تعامل) کا جواب: اولاً: تو تعامل مسلم نہیں، کتنی نجی فیکٹریاں ہیں جن میں شریک کی کوئی تنخوا نہیں ہوتی، نیز خود حضرت مدظلہ نے لکھا ہے کہ اکثر ڈائریکٹروں کی بھی کوئی تنخوا نہیں ہوتی۔

فرماتے ہیں:

” تمام کمپنیوں میں عمل اس پر ہے کہ ڈائریکٹر کو صرف ڈائریکٹر ہونے کی بنا پر کوئی تنخوا نہیں دی جاتی ..... بلکہ ڈائریکٹر دوسرے حصہ داروں کی طرح صرف نفع میں شریک ہوتا ہے“، (غیرسودی بینکاری ۳۷۷)

ثانیاً: خود مجوزین حضرات بتلائیں کہ کیا تعامل سے کسی معاملہ کی حقیقت کو مسخ کرنا اور اس کے بنیادی اصول کو مٹانا جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے جواز کا قول تمام معاملات شرعیہ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔

خود حضرت مفتی صاحب ہی نے فتاویٰ محمودیہ کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ:

”دوسرے یہ کہ ابتلاء عام حرام کو حلال کرنے میں موثر نہیں“،

(غیرسودی بینکاری صہ ۲۰۸، ۲۵۵)

بہر حال قصور علم و تقویٰ اور دیانت کے اقرار کے باوجود میں اس موقع پر اس شکایت پر خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اپنی صحیح اور مدل تحقیق کے خلاف احسن الفتاویٰ کا تسامع نقل کرنا کیا؟ .....

### (۵) ﴿سیکوریٹی ڈیپاٹ کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم﴾

(خلاف شرع امور میں سے اجارہ میں) سیکوریٹی ڈیپاٹ کے نام سے رقم جمع کرنا بھی ہے۔ کیونکہ یہ یا تو رہن ہو گی یا قرض یا امانت اور یہ تینوں ناجائز ہیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ رہن دو وہیوں سے ناجائز ہے ایک یہ ہے کہ یہ (سیکوریٹی ڈیپاٹ) شیء موجر جو کہ امانت ہے، کے عوض رہن ہے اور امانت کے عوض رہن رکھنے کو حضرات فتحاء کرام حبهم اللہ تعالیٰ نے ناجائز فرمایا ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال: (و) لا (بالأمانات) كوديعة وأمانة .....

وقال العلامة ابن عابدين رحمہ اللہ تعالیٰ: (قوله: و لا بالأمانات) أى لا يصح أخذ الرهن به لأن الضمان عبارة عن رد مثيل الهالك ان كان مثلياً أو قيمته ان كان قيمياً فالأمانة ان هلكت فلا شيء في مقابلتها و ان استهلكت لا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة، حموى (قوله: كوديعة و امانة) الأصوب ” و عارية“ و كذا مال مضاربة و شركة كما في الهدایة.

(الشامية ۱۰۲ / ۱۰۱، رشیدیہ)

دوسری وجہ بفرض تسلیم صحت رہن یہ ہے کہ شیء عمر ہوں سے استفادہ حرام ہے جبکہ یہاں

اس رقم کو بیک تجارت میں استعمال کر کے نفع اٹھاتا ہے۔

(کمانی جدید معاشر نظام میں اسلامی قانون اجارہ صہ ۳۶۸)

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : قال ط: قلت: و الغالب من  
أحوال الناس أنهم إنما ي يريدون عند الدفع الانتفاع ولو لاه لما  
أعطاه الدرهم وهذا بمنزلة الشرط لأن المعروف كالمشروع و  
هو مما يعين الممنع والله تعالى أعلم (الشامية ۱۰/۸۷)

اور قرض بھی تین وجہ سے ناجائز ہے۔ (۱) قرض میں تاجیل کی شرط جائز نہیں جبکہ یہاں  
یہ شرط ہے (اس کے جواز کے لئے خروج عن المذہب لا حاصل ہے۔ کیونکہ اس احتمال پر  
اس کے علاوہ اور کئی اشکالات ہیں جن کا صحیح حل ممکن نہیں۔ وہ اشکالات ذیل میں نمبر ۲ اور ۳  
میں ملاحظہ فرمائیں۔)

قال الامام المرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ : (و كل دين حال اذا  
أجله صاحبه صار مؤجلا) لما ذكرنا (الا القرض) فان تأجيله لا  
يصح لأنها اعارة و صلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الاعارة ولا  
يملكه من لا يملك التبرع كالوصى والصبي و معاوضة في  
الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم تأجيل فيه كما في الاعارة اذ  
لا جبر في التبرع و على اعتبار الانتهاء لا يصح لأنها يصير بيع  
الدرارهم بالدرارهم نسيئة و هو ربا (الهدایة ۲/۷۳)

(۲) یہ عقد اجارہ کے لئے شرط ہے اور اس میں موجر کا فائدہ ہے لہذا یہ عقد اس شرط  
فاسد سے فاسد ہو گا۔

قال في الهنديه ولو استاجر دارا بأجرة معلومة و شرط  
الأجر تطبيين الدار و تعليق باب عليها أو ادخال جذع في سقفها

علی المستأجر فالاجارة فاسدة و کذا اذا آجر ارض او شرط  
کرى نهرها أو حفر بئرها أو ضرب مسننة عليها کذا فى البدائع.

(الهنديه) (٣/٢٢٣)

(۳) بفرض تلیم عدم شرطیہ قرض ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ میں داخل ہے  
کیونکہ اس کی وجہ سے عام طور پر مقرض دفعیں حاصل کرتا ہے۔ (ایک) استیجار کا اور یہ سود ہے۔  
حضرت مفتی عظیم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بلٹی کے مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں:  
”اگر قرض لئے بغیر ڈرک کا ڈرائیور کسی کو وکیل نہیں بناتا تو یہ اس لئے ناجائز  
ہے کہ وکیل قرض سے استیجار کا نفع حاصل کر رہا ہے جو سود ہے۔“

(حسن الفتاوى ۱۷-۲۱/۷)

(دوسرा) نفع بسا اوقات ایڈوانس قرض کی وجہ سے ماہانہ کرایہ میں کمی کی صورت میں  
حاصل کرتا ہے۔ اور اس کو خود حضرت نے بھی ناجائز فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:  
”ان میں سے بعض طریقوں پر فقہی اعتبار سے اشکال بھی ہے مثلاً اس  
سیکیورٹی ڈپاٹ کی وجہ سے، جو خلط کی وجہ سے انتہاءً قرض بن چکا ہے  
کرانے میں اجرت مثل سے کمی کرنا ناجائز نہیں،“ (غیر سودی بیدکاری ۲۷۲)  
احتمال قرض پر مندرجہ بالا اشکالات کا کوئی صحیح حل ممکن نہیں۔ لہذا یہ ایڈوانس رقم رکھوانا  
ناجائز ہے۔

اور امانت دووجہوں سے درست نہیں ہے۔

(۱) اس پر امانت کی تعریف صادق نہیں آتی کیونکہ امانت کو سیکورٹی ڈپاٹ نہیں کہا جاتا۔

تسلیط الغیر علی حفظ مالہ صریحاً أو دلالة، (الشامية ۸/۵۲۶)

(۲) امانت رکھنے والا جب چاہے واپس لے سکتا ہے، امین اس کو روک نہیں سکتا۔ جبکہ

بیہاں روکا جاتا ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: (و ہی امانة) و هذا حکمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب

قبولها (الشامية ۵۲۸/۸)

### ﴿حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ کے کلام پر تبصرہ﴾

(۱) حضرت نے اسے انتہاءً قرض تسليم کر کے اجرت مثل سے کمی کونا جائز فرمایا ہے۔ آئیے اس ناجائز ہونے کی فقہی وجہ پر غور کرتے ہیں، جہاں تک ہم نے غور کیا ہے تو ہماری سمجھ میں عدم جواز کی وجہ ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ ہے یعنی یہ سود ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ آپ مدظلہ نے ”ناجائز تو لکھ دیا“، لیکن ”سود“ نہیں فرمایا، کیوں؟ اگر ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ کی وجہ سے اجرت مثل میں کمی کرنے کا نفع حاصل کرنا، ناجائز ہے تو اس کی وجہ سے استیجار کا نفع حاصل کرنا کیوں ناجائز نہیں؟ جبکہ یہ معلوم ہے کہ سیکوریٹی ڈیپاٹ کے بغیر استیجار کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد قدس سرہ نے تو بڑی کے مسئلہ میں استیجار کو بھی ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ میں داخل کر کے اس کو سودا و ناجائز فرمایا ہے۔

(حسن الفتاوى ۱۷/۶۱۷)

حدیث شریف میں تو مقروض سے ہدیہ قبول کرنے اور عاریۃ اس کے جانور کو سواری کے لئے لینے کو بھی سود فرمائی گیا ہے۔

عن أبي بردۃ بن أبي موسیٰ فقال قدّمت المدینة فلقيت عبد الله

ابن سلام فقال : انك بأرض فيها الربوا فاذَا كان لك

على رجل حق فأهدى اليك حمل تبن أو حمل شعير أو حجل

قت فلا تأخذه فانه ربوا ، رواه البخاري (المشکوہ ۲۵۲)

”حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں آیا اور حضرت عبد اللہ بن سلام ﷺ سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایک ایسی سرز میں میں رہتے ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے، لہذا اگر کسی پر تمہارا حق ہو یعنی کوئی تمہارا قرض دار ہو اور وہ تمہیں بھو سے کا ایک گھررا، یا جو کسی ایک گھررا، یا گھاس کا ایک گٹھا بھی تخفہ کے طور پر دے تو تم اسے قبول نہ کرنا کیونکہ وہ سود کا حکم رکھتا ہے۔“

و عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ : اذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ

هدیة ، رواه البخاری فی تاریخہ (المشکوہ ۲۵۲)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کو قرض دے تو وہ اپنے قرض دار سے بطور تخفہ بھی کوئی چیز قبول نہ کرے۔“

و عن أنس ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : اذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي اليه أو حمله على الدابة فلا يركبه و لا يقبلها الا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ، رواه ابن ماجه و البيهقي في

شعب الایمان (المشکوہ ۲۵۲)

”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس قرض دینے والے کے پاس کوئی تخفہ بھیجی یا سواری کے لئے کوئی جانور دے تو وہ قرض دینے والا نہ اس جانور پر سوار ہو اور نہ اس کا تخفہ قبول کرے، ہاں اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کے درمیان پہلے سے تخفہ یا سواری کے جانور کا لینا دینا جاری ہو تو

پھر اس کو قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“

حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مقرض کی دیوار کے سایہ سے نفع حاصل کرنے سے بھی احتراز فرماتے تھے۔

مرقات میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے:

و لقد بالغ امام المستور عین فی زمیه أبو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حیث  
جاء الی دار مدینہ لیتقادضاہ دینہ، و کان وقت شدة الحر، و لجدار  
تلک الدار ظل، فوقف فی الشمسم الی أن خرج المدین بعد أن  
طال الابطاء فی الخروج الیه، و هو واقف فی الشمسم صابر علی  
حرها غیر مرتفق بذلک الظل، لشایکون له رفق من جهة مدینہ، و  
فیه أن مذهب ذلک الامام أن قبول رفق المدین حرام کالربا ،

(باب الربا، الفصل الثالث، المرقاة ۲۸/۶)

امام امتقین والمجتهدین ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت احتیاط کرتے تھے اپنے زمانے میں ایک بار وہ اپنے قرض دار کے گھر قرض وصول کرنے کے لئے آئے سخت گرمی کا زمانہ تھا اس شخص کے گھر کی دیوار کا سایہ تھا لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دھوپ میں ہی کھڑے رہے جب تک کہ وہ قرض دار گھر سے واپس نہ آیا حالانکہ اس کے باہر آنے میں بہت دریکھ لگی اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دھوپ ہی میں کھڑے گرمی برداشت کرتے رہے لیکن اس سایہ سے نفع نہیں اٹھایا کہ کہیں قرض دار کی جانب سے نفع کی کوئی صورت نہ بن جائے، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام صاحب کے مذهب کے مطابق قرض دار سے نفع قبول کرنا بھی سود ہی کی طرح حرام ہے۔

(۲) ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ کے خلاف اگر تعامل ہو جائے تو یہ سود جائز اور حلال ہو جائے گا؟..... مجوزین حضرات سے دو بالوں کی وضاحت مطلوب ہے۔ ایک یہ کہ یہ بازاری تعامل جس کا حوالہ دیا گیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟..... یعنی مکانات کراپ یہ پر دینے کی صورت میں وقت مکانات کی صورت میں دیکھو یہ ڈیپاٹ لیا جاتا ہے، بعض کی وجہ سے کراپ ہو جاتا ہے، اور بعض کی وجہ سے کراپ تو کم نہیں ہوتا، البتہ اس کی بنیاد پر کراپ پر مکان مل جاتا ہے، کیا یہ سب صورتیں جائز ہیں؟

دوسرے یہ کہ اس تعامل سے ﴿کل قرض جر منفعة فهو ربا﴾ کے خلاف دوسرے یہ کہ اس تعامل سے کل قرض جر منفعة فهو ربا کے کلیہ کے خلاف سود کی بعض صورتیں جائز ہو جائیں گی؟ جبکہ خود حضرت مفتی صاحب نے فتاویٰ محمودیہ کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے:

”دوسرے یہ کہ ابتلاء عام حرام کو حلال کرنے میں موثر نہیں“

(غیر سودی بینکاری ص ۲۰۸، ۲۵۵)

(۳) اسٹیٹ بینک کے ہاں جمع کرنے کی بات بھی دو وجہ سے مخدوش ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ عادۃ ممکن ہی نہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائی جانے والی رقم کی مقدار، وقت اور تاریخیں یقیناً الگ ہوں گی جبکہ سیکوریٹی ڈیپاٹ روزانہ دن میں درجنوں افراد کی طرف سے جمع ہوتا رہتا ہے اور بینک کا یہ انتظام کرنا کہ روزانہ کا سیکوریٹی ڈیپاٹ علیحدہ کسی تجھوڑی میں جمع کرتے رہیں اور اسٹیٹ بینک کے مطالبہ کے وقت پھر وہی رقم اٹھا کر حوالہ کر دیں یہ عادۃ ایک کہانی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے مطابق عمل ہو، یہ قابلِ تسلیم نہیں ورنہ اس کا تحریری اور عملی ثبوت پیش کر دیا جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بنا بر تسلیم پوچھنا یہ ہے کہ بینک نے اس قرض سے نفع اٹھایا یا نہیں؟ اسٹیٹ بینک کے مطالبہ سے چھٹکارا حاصل ہوا یا نہیں؟..... رہی یہ بات کہ یہ نفع فرصت

ضائعت کی تلافی کی صورت میں ہے اور نقود میں اس کا اعتبار نہیں یہ ایسی بات ہے کہ دلیل نہ دارد۔ بلکہ خلاف دلیل ہے کیونکہ ”یدا بید“ اور ”النقد خیر من النسیئة“ اس تاویل کو رد کرتے ہیں۔

ویکھیئے! حدیث شریف الذهب بالذهب و الفضة بالفضة (الحدیث) کے آخر میں یادا بید کے الفاظ بھی ہیں جو صراحتاً اس پر دال ہیں کہ اگرچہ مثلاً دو افراد نے باہم بیع صرف کا معاملہ کیا ایک نے دس دینار سونا نقد اور دوسرے نے دس دن بعد دیا، تو یہ بھی و الفضل ربا میں داخل اور سود ہے، حالانکہ یہاں مقدار میں تاخیر کی وجہ سے کچھ اضافہ نہیں ہوا، پھر بھی اس کو فضل فرمایا کہ سود کہا گیا ہے..... معلوم ہوا کہ نقد اور ادھار میں کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ چونکہ نقد، ادھار کی بُسبُت خیر اور بُہتر ہے، تو گویا تاخیر سے دینے والے نے اضافی چیز حاصل کی ہے اور وہ نقد کی اچھائی اور خیر ہے، جو اس کو فوراً اور ہاتھ درہاتھ مل گئی جبکہ پہلے شخص کو نقد کی خیریت سے محروم ہونا پڑا۔ اسی سے حضرات فقہاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدة مستبط فرمایا ہے کہ النقد خیر من النسیئة۔

ہاں! اگر مقصد یہ ہو کہ ضمان نہیں آتا تو اور بات ہے، لیکن گناہ تو بہر حال ہو گا۔ لہذا یہ کہنا کہ ہر لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں، درست نہیں۔

(۲) فرماتے ہیں:

”اور حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ جو شرط مخالف مقتضیاً عقد ہو، عرف اور تعامل کی وجہ سے وہ جائز ہو جاتی ہے، اُخ (غیرسودی بینکاری سے ۲۷۲)

تعجب ہے کہ حضرت مذکور جیسے تاجر عالم دین نے اس کو دوسری ان غیرسودی شرطوں کی طرح قرار دے کر اس کو جائز فرمادیا ہے جو مفضیہ الی الزراع ہونے کی وجہ سے مفسد عقد ہوتی ہیں اور تعامل کی وجہ سے چونکہ وہ مفضیہ الی الزراع نہیں رہتیں اس لئے وہ تعامل کی وجہ

سے جائز اور غیر مفسد قرار دی جاتی ہیں، جبکہ دونوں میں بون عظیم ہے، کمالاً تباہی۔

آگے اس سے متعلق تحریر کردہ عرف کی عبارات اور دوسرے حوالوں کا مقصود سے کوئی جوڑ بظاہر نظر نہیں آتا۔

رہن سے نفع اٹھانے کی شرط اور پگڑی سسٹم کا عرف و تعامل کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن عرف و تعامل کی وجہ سے اس شرط اور پگڑی سسٹم کو کسی نے جائز کہا ہو، اس وقت تک ہمارے علم میں نہیں۔ ہاں! عدم جواز کہنے والوں کی ایک لمبی فہرست پیش کی جاسکتی ہے۔

(۵) حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی دو مقامات پر اذن متعارف کو اذن صریح کے حکم میں قرار دے کر ایسی امانت کو قرض قرار دیا ہے۔ (غیر سودی بینکاری ص ۲۷۲)

اس حوالہ سے کیا فائدہ؟ اجرہ کے وقت سیکوریٹی ڈیپارٹمنٹ دنیا عرفالازم سمجھا جاتا ہے جبکہ امانت رکھنے والا اس کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتا، امانت میں صاحب امانت کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ سیکوریٹی ڈیپارٹمنٹ میں بینک کا فائدہ ہے۔ امانت میں عرفاطیب خاطر سے اجازت ہوتی ہے جبکہ سیکوریٹی ڈیپارٹمنٹ میں عدم طیب خاطر کا یقین ہے اگر اختیار ہوتا تو بینک کو ہرگز استعمال کرنے نہ دیتا بلکہ واپس لیتا۔

اس لئے عام امانت پر سیکوریٹی ڈیپارٹمنٹ کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور بدیہی طور پر باطل ہے۔ اور اس سے بینک کا استفادہ حرام اور واجب التصدق ہے۔

(۶) آخر میں حضرت نے سب سے بہتر طریقہ فرمائی کہ جائز طریقہ تحریر فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایڈ و انس کرایہ کے مد میں وصول کیا جائے۔ فرماتے ہیں:

”بعض غیر سودی بینکوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے،“

(غیر سودی بینکاری ص ۲۷۵)

جن غیرسودی بینکوں نے اس طریقہ کو اختیار کیا ہے ان کے نام اور تحریری ثبوت مطلوب ہیں، کیونکہ بظاہر یہ بینک کے شخص اور ”خرا“ کے کسی درجہ میں خلاف ہے۔ اس لئے کہ اس کی وجہ سے ماہنے قسط میں کچھ نہ کچھ کی ضرور آئیگی اور فتح اجارہ کی صورت میں یہ کمی بینک کے گلے میں نقصان بن کر پڑ سکتی ہے۔

## (۶) ﴿الصفقة في الصفقة﴾

اجارہ بنو کیہ پر ایک اعتراض صدقہ کا ہے جس کا جواب دیا گیا ہے، آگے یہ جواب اور اس پر تبصرہ ملا حظہ فرمائیے۔

فرماتے ہیں:

”فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے درمیان واضح فرق کیا ہے، ایک یہ کہ کوئی عقد کرتے وقت صلب عقد میں کوئی شرط لگادی جائے اور دوسری صورت یہ کہ صلب عقد میں تو کوئی شرط نہ ہو لیکن عقد سے ہٹ کر کوئی وعدہ کر لیا جائے۔ ذیل میں دونوں صورتوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے“ (غیرسودی بینکاری ۲۳۲)

پہلی صورت:

فرماتے ہیں:

”صلب عقد میں کوئی شرط لگانا، اس کے بارے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مختلف مذاہب ہیں..... حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ عام حالات میں عقد کے ساتھ کوئی شرط لگانے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، البته تین قسم کی شرطیں ہیں جو جائز ہیں اور عقد کو فاسد نہیں کرتیں، ایک وہ شرط جو مقتضائے

عقد کے مطابق ہو، دوسرے وہ جو عقد کے ملائم ہو، جیسے رہن رکھنے یا کفالت یا حوالہ کی شرط، اور تیسرے وہ شرط جس پر عرف اور تعامل ہو گیا ہو۔  
 (غیر سودی بینکاری ۲۲۲)

آگے لکھتے ہیں:

”البته بعض فقهاء حنفیہ حمّم اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صورتوں میں شرط کو جائز بھی کہا ہے، جیسے بیع الوفاء میں وفاء کی شرط اگر صلب عقد میں ہو تو اس کو بھی بعض فقهاء احناف رحمّم اللہ تعالیٰ نے جائز کہا ہے“ (حوالہ بالا)

**آقول!** جواب کی تفصیل ذیل میں عنوان ”بیع الوفاء“ اور ”یکطرفہ وعدہ کا حکم“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

## (۷) ﴿بیع الوفاء﴾ اور ﴿قبل یکطرفہ وعدے کو لازم سمجھنا﴾

### (الف) ﴿بیع الوفاء﴾

بیع الوفاء کی تفصیلی بحث سے بظاہر و مقصود معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) بیع الوفاء میں بیع سے قبل وعدہ کرنا اور شرط لگانا جائز اور معتبر بھی ہے اور مفسد عقد بھی نہیں۔

(۲) مرانکہ موجہہ بونکریہ اور اجارہ بونکریہ میں قبل العقد وعدہ بیع و اجارہ معتبر ہے اور عقد بھی درست ہے، اور یہ وعدہ قضاۓ لازم بھی ہے۔

### ﴿مقدمہ اول کا ابطال﴾

**آقول:** بیع الوفاء میں وعدہ وفاء کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) صلب عقد میں وفاء کی شرط لگائی جائے۔

(۲) عقد سے پہلے وفاء کی شرط لگائی جائے۔

(۳) عقد کے بعد وفاء کی شرط لگائی جائے۔

**صورتِ اولی کا حکم:** راجح، مفتی بہ اور اکثر حنفیہ حمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مفسدہ

عقد ہے اور اس میج پر رہن کے سارے احکام جاری ہوں گے، اس سے اتفاق عسود اور حرام ہے، جن بعض حضرات فقهاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ سے اس صورت کے جواز، مفتی بہ ہونے اور معمول بھائی بعض الدیار ہونے کو نقل فرمایا ہے، دو وجہ سے درست معلوم نہیں ہوتا:

اولاً: تو خود یہ فرمائ کر کہ ”شاید یہ جواز کا قول اسی بنیاد پر ہے کہ یہ شرط متعارف ہو گئی ہے“، (غیر سودی بینکاری/۲۲۲) رد فرمادیا کہ اصل مسئلہ کے اعتبار سے یہ شرط و وعدہ مفسدہ عقد ہے، البتہ اگر ان شرائط لاثا (یعنی مقتضائے عقد کے موافق ہو، ملائم عقد ہو، اس پر تعامل ہو) میں اس کو داخل کر دیا جائے جن کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا تو پھر درست ہے..... لیکن اکثر حنفیہ کا اس صورت کو خالص رہن کہنا اور اتفاق عکوس ترجیح سود قرار دینا اور اس صورت کو حرام اور ربا کا حلیہ باطلہ فرمانا، تعامل اور تعارف کا انکار ہے۔

ثانیاً: جب فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ اکثر حنفیہ اس صورت کو صریح سود فرماتے ہیں اور سود تعامل سے حلال نہیں ہوتا، جیسا کہ خود بحوالہ فتاویٰ محمود یہ فرمایا ہے:

”ابقاء عام حرام کو حلال کرنے میں موثر نہیں“، (غیر سودی بینکاری/۲۲۲)

تو اس کے خلاف بعض کی بات کو نقل کرنے کا کیا فائدہ؟

**صورتِ ثانیہ یعنی عقد سے قبل شرط لگانے کا حکم:** یہ حضرات فقهاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ کی تصریحات اور اکابر حمہم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ کے پیش نظر صورت اولی کی طرح ناجائز،

مفسدِ عقد اور اس سے انتفاع سود ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: و قیل بیع یفید الانتفاع  
بہ و فی اقالة شرح المجمع عن النهاية و علیه الفتوی، و قیل ان  
بلفظ البيع لم يكن رهنا ثم ان ذكر الفسخ فيه او قبله أو زعماء  
غير لازم كان بيعا فاسدا و لو بعده على وجه الميعاد جاز و لزم  
الوفاء به (رد المحتار ۷/۵۸۱، رشیدیہ)

﴿علامہ حکیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (بعض حضرات فرماتے ہیں  
کہ) بیع وفاء ایسی بیع ہے جس سے انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے..... اور  
اسی پر فتوی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بیع وفاء لفظ بیع کے ساتھ ہو تو  
رہن نہیں کہلا یا جائے گا، پھر اگر دونوں عاقدین عقد بیع میں یا اس سے پہلے  
شرط ذکر کر دیں یا اس بیع کو لازم ہی نہ سمجھیں تو یہ بیع فاسد ہو گی، اور اگر عقد  
بیع کے بعد شرط فتح بطور وعدہ کے ذکر کریں تو جائز اور پوری کرنا لازم  
ہو گا﴾

صورتِ ثالثہ یعنی عقد کے بعد وفاء کی شرط لگانے کا حکم: یہ صورت بالاتفاق  
جائز ہے، اور اس صورت میں بعد العقد وعدے کا پورا کرنا دیانتہ واجب ہے۔ جیسا کہ فقہاء  
کرام حرمہم اللہ تعالیٰ کی تصریحات اور اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ سے واضح ہے۔

﴿اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ﴾

(۱) حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیع الوفاء کے ایک سوال کے جواب  
میں تحریر فرماتے ہیں:

”وہ مکانات جو جمن اسلامیہ کے کارکنان نے بیع بالحیار کے نام سے خرید

کئے ہیں یہ بیع بالوفاء ہے اور اس میں فقهاء کا بہت اختلاف ہے۔ بعض رہن کہتے ہیں اور بعض بیع کہتے ہیں اور پھر یہ کہ بیع صحیح ہے یا بیع فاسد اوقت و انصب یہ ہے کہ یہ بیع ہے کیونکہ الفاظ بیع و شراء کے اس میں موجود ہیں پھر اگر بیع کے وقت اور بیع کے اندر شرط واپسی کی کی گئی تو بیع فاسد ہے کما ورنہ عین بیع و شرط اور اگر بعد تمامی بیع و ایجاد و قبول کو شرط واپسی کی کی گئی تو بیع صحیح ہے اور یہ شرط ایک وعدہ ہے جس کی وجہ سے بیع میں کچھ خرابی نہیں آتی ہے، (عزیز الفتاوی /۲۰۵/ افضل فی البیع بالوفاء)

(۲) حضرت مفتی اعظم دیوبند و سہارنپور مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ بیع الوفاء سے متعلق فرماتے ہیں:

”اگر بیننا مہ میں یا مجلس عقد میں بطور شرط یا بطور وعدہ واپسی کا کوئی ذکر نہیں آیا، بلکہ جس طرح اور لوگ شب و روز بیع و شراء کرتے ہیں، اسی طرح زید و بکر نے بھی بیع و شراء کر لی پھر کسی دوسری مجلس میں دوسرے وقت زید نے بکر سے اس رعایت کی درخواست کر لی اور بکر نے اس کو منظور کر لیا تو شرعاً بیع درست ہو گئی۔ اب زید کو قانوناً مطالبة واپسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا وہ کسی طرح بکر کو واپسی پر مجبور نہیں کر سکتا، بکر کو اس جائزداد میں مالکانہ تصرف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، اگر چاہے تو دوسرے شخص کو ہبہ یا بیع یا رہن سب کچھ کر سکتا ہے زید کو ان تصرفات سے روکنے کا حق حاصل نہیں۔“

اور عرصہ معینہ فریقین میں اگر زید روپیہ ادا کر دے تب بھی بکر کو اختیار ہے کہ وہ مناسب سمجھے اور اس کی مصالح کے خلاف نہ ہو اور بھی کوئی مانع نہ ہو

تو واپس کر دے اور اگر مصالح کے خلاف ہو اور نقصان ہوتا ہو تو اس کو واپسی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ زید کا روپیہ لینے سے انکار کر دے، غرض! قضاۓ اس پر کوئی حق باقی نہیں رہا، البتہ دیانتہ اس وعدہ کا پورا کرنا بہتر ہے، تاہم اگر وعدہ کرتے وقت تو پورا کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں کسی مصلحت، ذاتی ضرورت یا احتمال نقصان کی بناء پورا نہیں کرتا تو شرعاً اس پر گناہ نہیں..... (فتاویٰ محمودیہ ۲۵۵، ۲۵۶/۱۶)

(۳) اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”اگر یہ شرطیں ایجاد و قبول بیع سے پہلے کی گئی ہیں، یا بیع کے ساتھ کی گئی ہیں تو ان دونوں کا ایک حکم ہے۔ اگر بیع قطعی کی گئی اور پھر شرطیں لگادی گئیں تب بھی امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان شرطوں کا ایسا ہی حال ہے جیسا کہ نفس بیع میں لگا لینے سے ہوتا اور صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیع ہو گئی اور اقرار نامہ علیحدہ ہے اس کا پورا کرنا دیانتہ ضروری ہے اگر پورا نہیں کرے گا تو وعدہ خلاف کہلانے گا اس سے بیع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ علامہ شامی رحمہما اللہ تعالیٰ نے صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول کو راجح بتایا ہے (فتاویٰ محمودیہ ۲۶۲/۱۶)

**آقول!** حضرت مولانا فیصلہ مفتی اعظم سہار پورا و دیوبند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ مفتی اعظم رحمہما اللہ تعالیٰ عقد سے قبل کو مفسد اور عقد کے بعد کو دیانتہ لازم فرماتے ہیں۔

(۴) ایسے ہی امداد مفتین میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے:  
”دریختار میں ہے: وَ قِيلَ بِيعٌ يُفْيِدُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ وَ فِي أَقْلَالٍ شَرَحٌ

المجمع عن النهاية و عليه الفتوى، و قيل ان بلفظ البيع لم يكن  
رهنا ثم ان ذكر الفسخ فيه او قبله أو زعمه غير لازم كان بيعا  
 fasada و لو بعده على وجه الميعاد جاز و لزوم الوفاء به الخ - اس  
روایت سے معلوم ہوا کہ اگر شرط واپسی کی صلب عقد میں لگائی گئی جیسا کہ  
سوال سے ظاہر ہے تو یہ بیع فاسد ہے جس کا فتح کرنا متعاقدين پر واجب ہے  
البتہ اگر شرط واپسی صلب عقد میں نہ لگائی اور بعد عقد کے بطور وعدہ کے ذکر کی  
گئی تو اس صورت میں بیع جائز ہوگی اور بعد ختم مدت کے واپس کرنا بیع کا اگر  
مشتری راضی ہو تو لازم ہوگا، (امداد لمفتین ۲/۲۹۶)

**تنبیہ:** عقد کے بعد کے وعدہ کو جائز فرمانا اور عقد سے پہلے وعدہ کے جواز کو ذکر نہ کرنا  
اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا حکم بھی صلب عقد میں وعدہ کرنے کی طرح ہے اس لئے  
ubarat بھی اسی کی موافق لائی گئی ہے۔

(۲) اسی طرح حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیع الوفاء سے  
متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

سوال: کوئی چیز کسی سے اس شرط پر خریدی کہ جب بالع رقم واپس دے گا تو  
یہ چیز اس کو واپس دے دی جائے گی، کیا یہ معاملہ جائز ہے؟

**الجواب باسم لهم الصواب**

اگر بیع کے اندر یا اس سے پہلے شرط لگائی گئی ہو یا جانبین اس عقد کو غیر لازم  
سمجھ رہے ہوں تو یہ بیع فاسد ہے اور اگر بیع کے بعد واپسی کا وعدہ کیا تو یہ بیع  
صحیح ہے اور اس وعدہ کا ایفاء لازم ہے۔

قال في العلانية: و قيل بيع يفيد الانتفاع به و في اقالة شرح

المجمع عن النهاية و عليه الفتوى، و قيل ان بلفظ البيع لم يكن  
رهنًا ثم ان ذكر الفسخ فيه او قبله أو زعمه غير لازم كان بيعا  
فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز و لزم الوفاء به  
(رد المحتار ۲۷۳) والله سبحانه و تعالى اعلم  
(احسن الفتاوى ۷/۵۰)

﴿دوسری صورت یعنی شرط وفاء قبل العقد کے جواز کے مستدلات کا تجزیہ﴾  
حضرت مدظلہ نے ان صریح عبارات فقہیہ اور اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ کے خلاف  
جواز کا قول فرمایا ہے اور اس پر بعض عبارات فقہیہ سے استدلال بھی کیا ہے ان عبارات سے  
استدلال کس حد تک درست ہے اور اس پر کیا کلام ہے؟ ملاحظہ ہو،  
پہلی عبارت فرماتے ہیں:

”لیکن اگر عقد بیع شرط سے خالی ہو، لیکن وفاء کی شرط عقد سے الگ ایک  
 وعدے کے طور پر ذکر کی جائے تو اُسے درست قرار دیا جائے اور ایسی  
صورت میں وعدے کو بھی لازم قرار دیا جائے، جیسا کہ پیچھے وعدے کی  
بجٹ میں گزر چکا ہے، اور اس کے بارے میں محیط میں فرمایا گیا ہے:  
وبعض مشايخ سمر قند قالوا: اذا لم يكن الوفاء مشروطا في  
البيع يجعل هذا بيعا صحيحا في حق المشتري حتى يحل له  
الانتفاع بالمشتري كما يحل الانتفاع بسائر أملاكه و يجعل  
رهنا في حق البائع حتى لا يتمكن المشتري من بيعه و اذا مات لا  
يورث عنه و اذا جاء البائع بالمال يؤمر المشتري بأخذ المال و  
رد المبيع عليه و يجوز أن يكون للعقد الواحد حكمان و قد مر

نظیر هذا في السلم و إنما فعلنا هكذا لحاجة الناس بعضهم إلى

أموال البعض مع صيانتهم عن الوقوع في الربا .

(المحيط البرهانی، کتاب البيوع، الفصل ۲۵، ج ۱۰، ص

۳۶۹، ط ادارۃ القرآن، / غیر سودی بینکاری ص ۲۳۳)

آتُول ! اس عبارت میں قل العقد شرط وفاء کا صراحتہ ذکر نہیں، لہذا اس کو دوسرا صرتح عبارات کے مطابق بعد العقد پر محول کیا جائے گا۔

دوسری عبارت: فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

و اختلقو في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز،

قال أكثر المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع و قاضي الإمام

أبو الحسن على السعدي: حكمه حكم الرهن ..... و الصحيح

أن العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم

ينظر ان ذكر اشرط الفسخ في البيع فسد البيع، وان لم

يدرك اذلك في البيع وتلفظ بلفظة البيع بشرط الوفاء، أو تلفظا

بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم

فكذلك . وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على

وجه الموعادة جاز البيع، ويلزم مه البقاء بالوعد، لأن الموعادة

قد تكون لازمة، فتجعل لازمة لحاجة الناس“ .

(الفتاویٰ الخانیة علی هامش الہندیۃ ج ۲ ص ۱۶۳ ، ۱۶۵ /)

غیر سودی بینکاری ص ۲۳۵)

﴿یہ بیع جس کو لوگ بیع وفاء یا بیع جائز کہتے ہیں اس کے حکم میں علماء کا

اختلاف ہے، اکثر مشائخ جن میں سے امام ابو شجاع اور قاضی ابو الحسن علی سعدی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں فرماتے ہیں: کہ یہ رہن کے حکم میں ہے..... صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان عقد اگر لفظ نفع سے ہوا ہے تو عقد رہن نہیں ہو گا بلکہ دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے شرط فتح کو صلب عقد یعنی عقد نفع کے درمیان میں ذکر کیا ہے تو یہ نفع فاسد ہے، اور اگر عقد نفع کے درمیان میں شرط ذکر نہیں کی، اور ”نفع بشرط الوفاء“ یا ”نفع جائز“ کے الفاظ سے نفع کا معاملہ کیا، مگر دونوں فریق اس نفع کو ”عقد غیر لازم“ سمجھتے ہیں، تو بھی حکم یہی ہے کہ یہ نفع فاسد ہے۔ اور اگر عقد نفع بغیر کسی شرط کے کر لیا پھر بعد میں شرط فتح کو بطور وعدہ کے ذکر کر لیا تو یہ نفع جائز ہے اور وعدے کو پورا کرنا لازم ہے، اس لئے کہ آپس میں وعدہ کرنا کبھی کبھی لازم بھی ہوتا ہے، لہذا اس کو پورا کرنا لوگوں کی ضرورت و حاجت کی بناء پر لازم کیا گیا ہے ﴿

**أَقُول !** اس عبارت میں ”ثُمَّ ذَكْرُ الشُّرْطِ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاعِدَةِ جَازَ الْبَيْعُ الْخَ“ یعنی ”پھر بعد میں شرط فتح کو بطور وعدہ کے ذکر کر لیا تو یہ نفع جائز ہے“ واضح دلیل ہے کہ بعد العقد وعدہ اور شرط کا بیان ہے نہ کہ قبل العقد۔

**تیسرا عبارت: جامع الفصول میں ہے :**

”شرط اشرطاً فاسداً قبل العقد، ثم عقداً لم يبطل العقد، ويبطل  
لو تقارنا.“ (فقفر)

بعض مشائخ زماننا قالوا : الشرط لو لم يكن في العقد جعلنا بيعاً  
صحيحاً في حق المشتري حتى يتفع بالمبيع كسائر أملاكه،

و جعلناه رهناً فی حق البائع حتى لم يجز بيع المبيع، ويجب  
المشتري على قبول الشمن ورداً المبيع على باعه، لأن هذا البيع  
مركب منهما كهبة بشرط عوض وهبة في المرض، وكثير من  
الاحكام يكون له حكمان وإنما جعلناه كذلك لحاجة الناس  
اليه حذراً عن الربي خصوصاً في ديارنا فانهم يبلغ اعتادوا في  
هذا الباب الدين والاجارة الطويلة ولم يمكنهم في الكرم، و  
الاجارة في الكرم لا تصح لاما عرف، وبخارى اعتادوا الاجارة  
الطويلة، ولم يمكنهم ذلك الا بعد شراء الأشجار، وهذا  
الشراء عقد وفاء فاضطروا إلى ما قلنا، وما ضاق على الناس  
اتسع حكمه“.

پھر بعض فقهاء کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی  
ہے کہ وفاء کا وعدہ چاہے بیع سے پہلے ہو یا بیع کے بعد ہوا سے صلب عقد  
میں شرط لگانا نہیں سمجھا جائے گا، اور اسکی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی، چنانچہ  
جامع الفصولین میں ہی فرمایا گیا ہے کہ :

”ولو تو اوضعا قبل البيع ثم تباعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند ح  
رحمة الله الا اذا تصادقا أنهما تباعا على ذلك الموضعية،  
وكذا لو تو اوضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد  
جائز، ولا عبرة للموضعية السابقة.“ (جامع الفصولين، الفصل  
۱۸ فی بیع الوفاء ج ۱ ص ۲۳۷ اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن  
، غیر سودی بینکاری ص ۲۲۵، ۲۲۶)

آقول! اس پوری عبارت کا حاصل دو باقیں ہیں۔

(۱) وفاء کی شرط عقد سے پہلے لگائی گئی اور پھر عقد میں لفظاً اس شرط کا ذکر نہیں کیا البتہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ شرط وفاء کی بنیاد پر یہ بیع ہوئی ہے..... تو یہ عقد جائز نہیں دیکھتے ”ولو تو اوضعاً قبل البيع ثم تباعاً بلا ذكر شرط جاز البيع عند ح رحمة الله الا اذا تصادقاً أنهم تباعاً على ذلك الموضعة“ اس بات پر صراحتہ دال ہے۔

(۲) وفاء کی شرط عقد سے پہلے تھی لیکن عقد کے وقت نہ لفظاً اس کا ذکر ہے اور نہ ہی معنی و حکماً کہ اس شرط کی بنیاد پر عقد ہوا ہو، تو یہ عقد جائز تو ہے لیکن شرط وفاء کا کوئی اعتبار نہیں یعنی بیع کو واپس کرنا اس شرط کی بناء پر اس پر لازم نہیں۔  
دیکھتے ”وكذا لو تو اوضعاً الوفاء قبل البيع ثم عقداً بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة للموضعية السابقة“ کی عبارت اس کی واضح دلیل ہے۔  
جامع الفصولین کی عبارت کی بنیاد پر حضرت مظہر کا یہ فرمانا:

”پھر بعض فقهاء کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی  
ہے کہ وفاء کا وعدہ چاہے بیع سے پہلے ہو یا بیع کے بعد ہوا سے صلب عقد  
میں شرط لگانا نہیں سمجھا جائے گا، اور اسکی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی“

(غیر سودی بیکاری) ۲۳۶

کسی طرح بھی ان کے مدعا کے مطابق نہیں، کیونکہ ”تصادقاً“ کی صورت میں فساد کی تصریح اور ”عدم تصادق“ کی صورت میں شرط کا غیر معتبر ہونا دونوں حضرت مظہر کے مدعای کے خلاف ہیں، کیونکہ حضرت کامدعا و چیزیں ہیں (۱) صحیت عقد اور (۲) اعتبار شرط، جبکہ جامع الفصولین کی عبارت میں جہاں صحیت عقد ہے، وہاں شرط معتبر نہیں، اور جہاں شرط معتبر ہے، وہاں عقد نہیں۔

**چوتھی عبارت:** فرماتے ہیں:

”اور جامع الفصول میں اس مسئلہ کو صرف بیع بالوفاء کے معاملے تک  
محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عام حکم کے طور پر اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

”شرطًا شرطًا فاسدا قبل العقد، ثم عقدًا لم يبطل العقد، ويبطل لو

تفارنا“ (ایضا ص ۷۶، / غیر سودی بینکاری ۲۳۶)

**آقول!** یہ عبارت بھی اصل مدعای خلاف ہے کیونکہ اس عبارت میں عدم بطلان عقد  
کا بیان تو ہے بشرط عدم تقارن، لیکن اس شرط کو لازم قرار دینے کا حکم تو نہیں بلکہ جامع  
الفصول میں شرط کے غیر معتبر ہونے کی صراحت ہے، جبکہ آپ مدظلہ اس  
شرط کو صرف لازم ہی نہیں بلکہ قضاۓ لازم اور خلاف کی صورت میں بعض نقصانات کے خمان کا  
سبب بھی بنار ہے ہیں۔

**پانچویں عبارت:** صفحہ ۷۶ پر علامہ خالد اتنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل فرمائی  
ہے کہ انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔

**آقول!** صفحہ نمبر ۲۳۸ پر الحمد للہ تعالیٰ خود ہی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کو صحیح  
قرار دیا ہے اور علامہ اتنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب کو مخدوش فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:  
”اور حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جامع الفصول میں بھی پہلے وعدے کو  
غیر مفہد اس صورت میں فرمایا ہے جب وہ بیع کرتے وقت یہ تصادق نہ  
کریں کہ بیع اس سابقہ وعدہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے لیکن اگر بیع کے عقد کے  
وقت انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کہہ دی کہ اس بیع کو اس سابق وعدے  
پر مبنی کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں صاحب جامع الفصول میں بھی بیع کو

جائز نہیں کہا جیسا کہ اوپر کی عبارت میں ان الفاظ: ”لو تو اوضاع قبل البیع  
ثُمَّ تَبَيَّنَ بِلَا ذَكْرٍ شَرْطٌ جَازَ الْبَیْعَ عِنْدَ رَحْمَةِ اللَّهِ إِذَا تَصَادَقَا أَنْهُمَا تَبَيَّنَ عَلَى  
ذَكْرِ الْمَوَاقِعَةِ“ سے ظاہر ہے۔ علامہ ابن عابدین (رحمہ اللہ تعالیٰ) کو  
اعتراض اس صورت پر تھا جب وہ بیع کی بنا اس وعدے پر کریں اس  
صورت میں وہ اسے فاسد قرار دینا راجح سمجھتے تھے اور اس صورت کو جامع  
الفصولین میں بھی جواز سے مستثنیٰ کر کے فاسد کہا ہے لہذا دونوں میں کوئی  
تعارض معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ اسی وقت ہے جب بیع کے وقت وہ اس بات  
کا ذکر کریں کہ یہ بیع اس وعدے پر مبنی ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بیع  
باشرط بن گئی ہے جو ناجائز ہے۔ (غیر سودی بینکاری) (۲۲۸)

**تنبیہ:** جملی الفاظ میں حضرت نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے اور اس کو عبارت جامع الفصولین  
سے مستدبو قرار دیا ہے، چونکہ دعویٰ کا حق ہر ایک کو ہے اس لئے اس سلسلہ میں ہم کسی سے کوئی  
شکایت نہیں کرتے اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم شکایت کریں، البتہ ”چھوٹا منہ بڑی  
بات“ یہ استنباط درست معلوم نہیں ہوتا..... اب دعویٰ اور استنباط سمجھئے۔

**دعویٰ:** یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عقد کے وقت جب تک زبان سے یہ بات صراحتہ نہ کہے  
کہ یہ عقد پہلی شرط کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو یہ بیع صحیح ہے اور اس کو بیع باشرط نہیں کہا جائے  
گا اگر چہ دل اور قرآن سے دونوں کسی شرط کی بنیاد پر ہی عقد کر رہے ہوں، اور عقد مکمل ہونے  
کے بعد دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ ہم نے جو بلا ذکر شرط عقد کیا ہے یہ حقیقت میں بلا  
شرط نہیں بلکہ باشرط ہے۔

**استنباط:** معلوم ہوتا ہے کہ جامع الفصولین کی عبارت ”لو تو اوضاعاً الخ“ سے

استنباط فرمایا گیا ہے اور ”الا اذا تصادقاً الخ“ کو وقتِ عقد پر محوں کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ”ثم تبایعاً بلا ذکر شرط“ کی صراحت اس حمل اور استنباط کو درکر رہی ہے۔

دیکھئے! یہاں دو صورتوں کا بیان ہے:

(۱) بیع بھی بدون ذکر شرط ہے اور بعد عقد بیع تصادق بھی نہیں۔

(۲) بیع بدون ذکر شرط ہے البتہ بعد عقد بیع تصادق ہے۔

دونوں صورتوں میں عقد کے وقت شرط سابق کا کسی طرح بھی زبان سے ذکر نہیں البتہ ایک صورت میں جانینہ دل سے صحیح ہیں کہ شرط سابق کی بنیاد ہی پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لئے تو فرمایا: الا اذا تصادقاً انہما تبایعاً علی ذلک الموضعۃ، اس عبارت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ عقد کے بعد دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے جو بیع کی ہے وہ اسی شرط کی بنیاد پر ہے، اور دوسری صورت میں دونوں صحیح ہیں کہ شرط سابق سے صرف نظر کر کے یہ عقد ہو رہا ہے، اسی لئے تو فرمایا ”ولا عبرة للمواضعۃ“۔

**الحاصل :** اس عبارت سے جوبات مستنبط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سابق شرط کو معترض صحیح ہوئے جو عقد ہوگا اگر عقد کے وقت اس کا تلفظ نہ بھی ہو وہ عقد بالشرط ہوگا، اور اسکے تمام احکام اس پر جاری ہونگے۔ جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا:

”الجواب: اس میں دو مقام قابل جواب ہیں ایک یہ کہ زید و عمر و میں جو گفتگو ہوئی یہ وعدہ محضہ ہے کسی کے ذمہ بکلم عقد لازم نہیں اگر زید کے منگانے کے بعد بھی عمر و انکار کر دے تو زید کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں پس اگر عرف و عادات میں عمر و مجبور سمجھا جاتا ہو تو یہ معاملہ حرام ہے ورنہ حلال،“

الخ (امداد الفتاوی ۳/۲۰)

تصادق کو وقت عقد کے ساتھ مختص کر کے اس کو بع بالشرط سے خارج کرنا کسی طرح درست معلوم نہیں ہوتا جب یہ استنباط ہی درست نہیں، تو اس پر آگے جتنی تغیر کی گئی ہے وہ بھی درست نہ ہوگی۔

### ﴿حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ سے استدلال اور اس کا جواب﴾

فرماتے ہیں :

”اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اس وعدے کو حاجت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے اور حاجت اس کے بغیر مندفع نہیں ہوتی کہ وعدہ سابقہ کو مفسد قرار نہ دیا جائے۔ ذیل میں حضرت کا فتویٰ نقل کیا جاتا ہے :

سوال: فتاویٰ قاضی خان ج ۲ ص ۳۸۸ مطبوعہ نول کشور میں ہے وہ اختلافوا فی بیع الوفاء او البيع الجائز ..... الی أن قال ..... و ان ذکر البيع من غير شرط ثم ذکر الشرط علی وجه المواجهة جاز الیه و يلزمہ الوفاء بالوعد لأن المواعید قد تكون لازمة لحاجة الناس . اہ۔ اس عبارت کا مطلب کیا ہے، آیا یہ بھی جائز ہے کہ بالع مشتری سے کہدے کہم بیع تو ہمارے ساتھ بلاشرط کردو، مگر ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنی مدت میں اگر تم چاہو گے تو ہم تمہاری شے اسی قیمت میں واپس کر دیں گے، یا اس قدر نفع کے ساتھ تمہارے ہاتھ بیچ ڈالیں گے، اس پر بالع رضامند ہو جاوے، اور کہدے کہ میں نے بلاشرط تمہارے ہاتھ فلاں شے اتنی قیمت میں پیچی، مشتری قبول کرے، اور وعدہ کی پختگی کے لئے دستاویز لکھ دے یا صرف یہی جائز

ہے کہ بیع بلاشرط بلکسی قرارداد کے ہو، اور بعدالبیع مشتری باائع کی درخواست پر یا بلا درخواست واپس کردینے کا وعدہ کرے، صرف دوسرا صورت کے جواز سے حاجت ناس مندفع نہیں ہوتی، کیونکہ اول توبالع کا واپسی کی درخواست کرنا ہی مستبعد ہے، جبکہ وہ بلا موقع واپسی کے بیع کر چکا ہے، دوسرا مشری کا ایسے درخواست کو مان لینا یا اپنی طرف سے وعدہ میں پیش قدمی کرنا اور بھی مستبعد ہے، اس سے حاجت ناس مندفع نہیں ہوتی۔

**الجواب:** آپ کا شبهہ صحیح ہے، واقعی بدون اس کے کہ عقد کے قبل یا عقد کے ساتھ شرط وفاء کا ذکر کیا جاوے، حاجت مندفع نہیں ہوتی، اور ان دونوں صورتوں میں اصل نہب فساد عقد ہے، کما فی الدر المختار : ان ذکر الفسخ فيه أو قبله أو زعماء غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جائز و لزم الوفاء به الخ او بعض کے نزدیک عقد سے قبل ذکر کی ہوئی شرط کا اعتبار ہی نہیں، اور عقد فاسد نہ ہوگا، لیکن وہ بیع بشرط الوفاء نہ ہوگی، كما فی الدر المختار : لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا حاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز و لا عبرة للمواضعة ج ۲ ص ۳۸۱، لیکن کثیر من المتأخرین کا فتوی ہے کہ قبل عقد ذکر کی ہوئی شرط بھی معتبر اور عقد جائز ہے، لضرورة الناس، و فی رد الحتار و قد سئل الخیر الرملی عن رجليين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقدہ و عقدا البیع حاليا عن الشرط، فأجاب بأنه صرخ في الخلاصة و الفیض

والتتارخانیہ وغیرہا بأنه یکون علی ما تواضعما، ج ۲ ص

۷، فقط ۱۸۳۳ امداد

سوال: پہلے سوال کے ضمن میں ارشاد ہوا ہے ”لیکن کثیر من المتأخرین“ کافتوی ہے کہ قبل عقد ذکر کی ہوئی شرط بھی معترض اور عقد جائز ہے، لضرورة الناس، و فی رد الحتّار: و قد سئل الخیر الرملی عن رجلین تواضعما علی بیع الوفاء قبل عقدہ و عقداً البيع خالیاً عن الشرط، فأجاب بأنه صرح فی الخلاصة و الفیض و التتارخانیہ وغیرہا بأنه یکون علی ما تواضعما، ج ۲ ص ۷، انتہی، اس میں دریافت طلب یا امر ہے کہ خیر ملی کے جواب سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، نہ تو اس بیع کا جواز ہی معلوم ہوتا ہے اور نہ عدم جواز ہی کیونکہ یکون علی ما تواضعما سے صرف اس قدر ظاہر ہوا کہ موافقت پیشین غیر معترض نہیں ہوگی، كما زعمه البعض، بلکہ معترض ہوگی، اور عقد صورۃ مطلق عن الشرط ہوگا، معنی مقید ہے، مگر یہ نہ ظاہر ہوا کہ یہ عقد جو صورۃ مطلق عن الشرط و معنی مقید بالشرط ہے بناءً علی اصل المذهب فاسد ہے یا لضرورة الناس جائز، ایسی حالت میں اس کے نقل کرنے سے جو مقصد ہے وہ معلوم نہ ہوا۔

الجواب: واقعی یہ عبارت جواز عقد سے ساکت ہے، مقصود زیادہ اس کے نقل کرنے سے شرط کے معترض ہونے پر استدلال ہے، بمقابلہ زعم بعض کے، اور جواز عقلي کی دلیل لضرورة الناس ہے، اور نقلی دلیل اس کی دوسری روایات فقهیہ ہیں جن کی طرف لضرورة الناس میں اشارہ ہو گیا، مثلًا

درستار میں ہے: فیها: القول السادس فی بیع الوفاء أنه صحيح  
لحاجة الناس فرارا من الربوا، و قالوا: ما ضاق على الناس  
أمر لا اتسع حكمه، فی رد المحتار : قوله : ”فیها“ ”أى فی  
البزازية، و هو من کلام الأشباء . ج ۳ ص ۳۸۶“ (امداد  
الفتاوى، کتاب البيوع، سوال ۱۳۵، ج ۳ ص ۱۰۸، ۱۰۹“)

(غیر سودی بینکاری صفحہ ۲۲۸ تا ۲۵۱)

آقؤل! حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ سے حضرت مدظلہ کا اپنے مدعی پر  
استدلال درست نہیں۔

اولاً: اس لئے کہ یہ فتویٰ کسی معتبر قول پر مبنی نہیں کیونکہ جس طرح آج عقد سے پہلے شرط  
کے بغیر حاجت مندرج نہیں، حضرات فقهاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی مندرج نہیں  
ہوتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بعد العقد شرط کی اجازت تодی ہے لیکن قبل العقد کی نہیں  
دی۔

بعض الوفاء سے متعلق ”فتاویٰ برازیہ“ میں تقریباً اتوال ہیں، ان کو بغور دیکھا جائے ان  
شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ قبل العقد شرط کو حضرات فقهاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ نے  
اندیح حاجت کے لئے معتبر مانا ہے یا نہیں؟

ثانیاً: حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے ابتلاء عام اور حاجت الناس کی وجہ سے اس کو  
جائزاً اور حلال فرمایا ہے جبکہ ابتلاء عام کی وجہ سے حرام حلال نہیں ہوتا ..... حضرت مفتی  
 محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ بابت منی آرڈر حضرت مدظلہ نے خود قتل فرمایا ہے  
اس فتویٰ میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی ایک بیان کردہ وجہ جواز جو کہ ابتلاء عام ہے، کو

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے منی آرڈر کے جواز کی دوسری وجہ ابتلاء عام بھی بیان فرمائی ہے مگر اول تعداد پہلی علت کی وجہ سے جائز فرمائے ہیں یعنی دو معاملے الگ الگ، دوسری یہ کہ ابتلاء عام حرام کو حلال کرنے میں مؤثر نہیں لخ“، (غیر سودی بینکاری) (۲۵۵)

بعض الوفاء کے مسئلے میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صورت بھی مفتی بہ اور راجح قول اور اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ کی تصریحات کے مطابق ناجائز اور حرام ہے تو ابتلاء عام کی وجہ سے کیونکر یہ حرام حلال ہو جائے گا، لہذا منی آرڈر کے مسئلے کی طرح یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس فتویٰ میں تسامح ہوا ہے۔

**ثالثاً:** ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ بعض الوفاء میں خود مجوزین حضرات بھی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی اس تحقیق اور فتویٰ کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے ہوئے اور نہ ہی دینا جائز سمجھتے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنایا کہ مجوزین حضرات میں سے کسی ایک نے بھی کسی مقرض اور بیگڑی دینے والے کو اس طرح بعض الوفاء کا حلیہ بتایا ہو، یا کسی اور قرض دینے والے کو فرمایا ہو کہ بعض الوفاء کی اس صورت کے مطابق اس سے کوئی نفع بخش اور قیمتی چیز قرض کی اس قلیل رقم کے عوض خرید لو اور پھر اس سے خوب نفع اٹھاتے رہو، یہ نفع تیرے لئے حلal و طیب ہے، پھر جب وہ قرض واپس کر دے تو یہ چیز واپس کر دے۔

جب بعض الوفاء کے مسئلے میں، جس میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا یہ فتویٰ نص ہے، پھر بھی مجوزین حضرات مندرجہ بالا اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کے خلاف فتویٰ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں، تو اس سے استنباط کر کے مرابح بنو کیہ اور اجارہ بنو کیہ کا جواز کیونکر ثابت ہو گا۔ جبکہ بعض الوفاء سے ہٹ کر مرابح اور اجارہ میں حکیم الامت قدس سرہ کا منصوص فتویٰ عدم جواز اور

حرمت کا ہے۔ جس کی تفصیل آگے مقصد ثانی کے ابطال کے عنوان کے تحت آ رہی ہے۔ اور یقاعدہ کسی پر مخفی نہیں کہ عبارۃ النص اور اشارۃ النص میں تعارض ہو تو ترجیح عبارۃ النص کو ہوتی ہے۔

## ﴿مقصدِ ثانی کا ابطال﴾

بعض الوفاء کے مسئلہ سے اصل مقصود شرط وفاء کے علاوہ مرا بحکمہ بنو کیہ اور اجارہ بنو کیہ میں دوسری شرائط کے معتبر ہونے پر استدلال کرنا ہے، جبکہ وجہ سے یہ مقصود بھی حاصل نہیں۔

(۱) جب مفتی بے قول اور اکابر حرمہ اللہ تعالیٰ کی تصریحات سے بعض الوفاء جو کہ اصل اور مقتبس علیہ ہے، میں قبل اینبعث شرط اور وعدے کا مفسد عقد ہونا ثابت ہوا تو پھر مرا بحکمہ اور اجارہ بنو کیہ جو کہ فرع ہیں، میں بطریق اولی مفسد عقد ہو گی۔

(۲) حضرت حکیم الامت قدس سرہ جن کے فتوی سے مرا بحکمہ اور اجارہ بنو کیہ کی صحت اور جواز کو مستنبط کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس استنباط میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اس پر شدید رذہ فرمایا ہے۔

درج ذیل سوال و جواب میں حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کا رد ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وعدہ قبول العقد کو ناجائز فرماتے ہیں، سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیں:

”سوال (۳۵): عمرو نے زید کو مبلغ سورو پے واسطے خریدنے جفت پاپوش کے دیئے اور کوئی اجرت بطور معاوضہ خریداری کے قرار نہیں پائی متعاقد دین میں اجرت کی نسبت ذکر بھی نہیں آیا اور قبل خریداری مال اور دینے زر کی قیمت کے باہمی یہ امر طے ہو چکا تھا کہ یہ مال سوا چھرو پے سیکڑہ کے منافع

سے بمعاد ایک مہینے کے تم کو دے دیں گے مال دس اور سے خرید کر زید اپنے گھر لے آیا اور عمر و کو بلا کر مال دکھلا کر جوڑ دیا یعنی شمار کرادیا اور دونوں نے سمجھ لیا کہ یہ مال مبلغ سوروپے کا ہے اس کے بعد عمرو نے زید سے دریافت کیا کہ تم یہ مال ہم سے کس قدر مت کے واسطے بشرح منافع ذکورہ بالا لیتے ہو زید نے کہا کہ ایک ماہ کے واسطے لیتا ہوں عمرو نے اس کو قبول کیا، بعد ختم ہونے مت ایک ماہ کے عمرو نے زید سے اصل روپیہ مع منافع طلب کیا زید نے صرف منافع مبلغ سوا چھروپے عمر و کو دے کر اصل روپیہ کی نسبت عذر کیا کہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ ماں موجود ہے، کچھ نقد ہے اور کچھ ادھار میں ہے، عمرو نے کہا کہ اگر تمہارے پاس زراصل موجود نہیں ہے تو تم اس کے عوض میں اس قدر کامال آئندہ کے لئے مجھ کو دے کر اور جوڑوا کر پھر ہم سے اس کو خرید لو، زید نے مبلغ سوروپے کا مال اپنے پاس دکھلایا اور عمر و کو دے کر جوڑوا دیا اور پھر بشرح منافع بالا عمرو سے خرید لیا اور مت کبھی ایک ماہ تراضی طرفین سے قرار پاتی ہے اور کبھی زائد۔

**الجواب:** یہاں دو یعنیں علی سبیل التحاقب ہیں ایک وہ کہ زید نے عمرو سے مال خرید اس کا حکم یہ ہے کہ اگر زید عمر و کو اور عمر و زید کو بیع و شراء پر بنابر و عده سابقہ مجبور نہ کرے تو جائز ہے اور اگر مجبور کرے، ناجائز ہے۔ دوسرے بیع وہ جو سوروپیہ بقیہ زرثمن کے عوض میں زید نے عمر و کو دیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں یہ شرط ٹھہری کہ پھر عمرو سے زید اس کو خریدے گا تو حرام ہے اور اگر یہ شرط نہ ٹھہری پھر اگر آزادی سے جدید رائے سے خریدے تو جائز

ہے۔“ (امداد الفتاوی ۳/۳۰)

(۳) وعدہ بیع کی صورت میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ تو مشتری کے حق کو تحفظ فراہم کرتے ہیں نہ کہ بالع کے حق کو کما یصنعن فی البنوک۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”سوال (۳۶): زید نے عمر و سے کہا میں تم کو روپیہ دیتا ہوں اور تمہارے لانے کی اور بار برداری کی اجرت اور کرایہ دیتا ہوں تم میرے اجیر بن کر مال لا دو تاکہ پھر تم اس مال میں نقص نہ بتاؤ۔“

الجواب: اس کہنے سے عمر و کا حق مال کو ناقص بدلانے کا وقت بیع مرداب کھی فیما یعنہ ما زائل نہیں ہوا عمر و کو مثل مشتری اجنبی کے تمام حقوق حاصل ہیں البتہ زید کو یہ اختیار ہے کہ جس وقت عمر و اجیر و کیل ہونے کی حدیثت سے مال لایا ہے اگر ناقص مال لانے سے منع کر دیا تھا تو ناقص ہونے کی صورت میں عمر و سے بوجہ مخالفت کرنے کے روپیہ لے لے مگر جب مال کو قبول کر لیا تو زید کو تو کوئی حق نہیں رہا مگر عمر و کو یہ حق حاصل ہے۔“

(امداد الفتاوی ۳/۳۱)

(۴) ”وکیل بالشراء نے اپنے موکل سے مال خریدا اور شمن قسط وارد ہینے کا وعدہ پورا نہ کیا“ کے عنوان کے تحت سوال کے جواب میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشتری کو وعدہ خلافی کی وجہ سے گناہگار تو فرمایا ہے لیکن التزام کا حیلہ اختیار کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ لکھتے ہیں:

”سوال (۳۸): عمر و اپنے عہد کے موافق ایک ماہ کے بعد زید کو روپیہ نہیں دیتا اور روپیہ جمع کر کھا ہے اور اس روپیہ سے خود مال لاتا ہے اور فروخت کرتا رہتا ہے منافع اٹھاتا ہے کبھی ڈیڑھ ماہ میں کبھی دو ماہ میں۔ غرض خلاف عہد زیادہ مدت میں روپیہ اصل مع منافع کے دیتا ہے مگر جس قدر

مدت عہد سے زیادہ ہوتی ہے نہ اس کا منافع طلب ہوتا ہے نہ دیا لیا جاتا ہے۔

الجواب: جب زیادہ نہیں لیا جاتا زید پر کوئی گناہ نہیں، عروض پر وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا، (امداد الفتاوی ۲۱/۳۲، ۳۲)

**آقول!** دیکھئے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس شدت کے ساتھ مجوزین حضرات کے استدلال کو رد فرمایا ہے، اور مرا بحث، اجارہ بنوکیہ کے وعدوں اور شرطوں کو کس شدت سے رد فرمائے کہ اس معاملہ کو حرام فرمایا ہے..... نیز حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے آگے سوال نمبر ۳۵ کے جواب میں فرمایا ہے:

”اگر زید عمر و کو اور عمر و زید کو بیع و شراء پر بنابر و عده سابقہ مجبور نہ کرے تو جائز ہے اور اگر مجبور کرے، ناجائز ہے۔ دوسرے بیع وہ جو سور و پیہ بقیہ زرثمن کے عوض میں زید نے عمر و کو دیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں یہ شرط ٹھہری کہ پھر عمر و سے زید اس کو خریدے گا تو حرام ہے اور اگر یہ شرط نہ ٹھہری پھر اگر خریدے آزادی سے جدید رائے سے خریدے تو جائز ہے“  
(امداد الفتاوی ۳/۲۰)

**آقول!** تمام مراتباتِ بنوکیہ اور اجراتِ بنوکیہ میں ان شرطوں کی پابندی لازم ہے اور ان کے خلاف پر جرمانے ہیں، جب کہ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پابندی اور شرط کو ناجائز اور حرام فرمایا ہے۔

الحاصل بیع الوفاء کے ضمن میں حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ذکر کرنا ان حضرات کے لئے چند امور مفید نہیں، بلکہ مضر ہے کیونکہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ بیع الوفاء

میں بقول حضرت مذکور کے گنجائش دینے کے باوجود دوسری شرائط میں گنجائش نہیں دیتے جبکہ اصل مقصد یہ دوسری گنجائشیں ہیں۔

## ﴿کیا شرط و فاء قبل العقد میں دو قول ہیں؟﴾

لکھتے ہیں :

”واقعہ یہ ہے کہ فتاویٰ خیریہ کی عبارت اگرچہ صریح نہیں اور اس میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”علی ما تواضعاً“ کا مطلب یہ لیا جائے کہ ان کی سابقہ مفاہمت عقد کو فاسد نہیں کرے گی لیکن عقد سے خارج ایک وعدے کی حیثیت میں معتبر ہوگی، لیکن اس کتاب کی عبارتوں کو سیاق و سبق کے ساتھ دیکھنے سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ”علی ما تواضعاً“ کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ سابقہ کو مشروط فی الیع سمجھا جائے گا اور بنی فاسد ہوگی لیکن جامع الفصولین کی عبارت اس پر صریح ہے کہ عقد صحیح ہوگا اور اسے اس وقت تک مشروط نہیں سمجھا جائے گا جب تک عقد کرتے وقت وہ صراحت نہ کرے کہ یہ عقد وعدہ سابقہ پرمی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں دونوں قول موجود ہیں اور حضرت حکیم الامت نے جواز کے قول کو بر بنائے حاجت ترجیح دی ہے، (غیر سودی بینکاری ۲۵۲، ۲۵۱)

**آقوال!** ٹھیک ہے! جامع الفصولین کی عبارت صحت عقد میں تو صریح ہے، لیکن شرط کے معتبر ہونے میں تو صریح نہیں، بلکہ صراحةً اس میں شرط کے غیر معتبر ہونے کا ذکر ہے ..... تو اس جواز کے قول سے بھی ان حضرات کا مقصد حاصل نہ ہوا، کیونکہ مقصد عقد کو صحیح قرار دینے کے ساتھ ساتھ شرط کو لازم کرنا بھی ہے اور اس میں زووم شرط کی بات نہیں، نیزاں

مطلوب پر حضرت حکیم الامۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ کو محمول کرنا بھی درست نہ ہوگا۔

## ﴿ایک سوال اور اس کا جواب، پھر دونوں پر تبصرہ﴾

فرماتے ہیں :

”یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ سابقہ کے باوجود بیع من غیر تلفظ الشرط کو جائز کہا جائے، جیسا کے جامع الفضولین میں مذکور ہے اور جیسا کہ امداد الفتاویٰ میں اس پر فتویٰ دیا گیا ہے، تو یہ میں ایک لفظی فرق رہ گیا جب کہ فریقین جانتے ہیں کہ بیع اسی وعدے کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لہذا اس میں اور تلفظ بالشرط میں کوئی جو ہری فرق نہ رہا اس سوال کا جواب بندے نے ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ میں اس طرح دیا ہے۔

”والجواب عن هذا الا شکال على ما ظهر لي و الله سبحانه اعلم. أن الفرق بين المسالتين ليس في الصورة فحسب . بل هناك فرق دقيق في الحقيقة أيضاً.“

وذلك أن العقد الواحد ان كان مشروطاً بالعقد الآخر ، والذى يعبر عنه بالصفقة فى الصفقة ، لا يكون عقداً باتاً ، وإنما يتوقف على عقد آخر بحيث لا يتم العقد الأول إلا به ، فكأن فى معنى العقد المعلق أو العقد المضاف الى زمن مستقبل . فإذا قال البائع للمشترى : بعتك هذه الدار على أن تؤجر الدار الفلانية لى بأجرة كذا ، فمعنىـه : أن البيع موقوف على الاجارة اللاحقة ومتى توقف العقد على واقع لاحق ، خرج من حيز كونه باتاً ، وصار

عقداً معلقاً، والتعليق في عقد المعاوضة لا يجوز، ولو حكمنا بمقتضى هذا العقد، وامتنع المشتري من الاجارة، فإن ذلك يستلزم أن يرتفع البيع تلقائياً، لأنه كان مشروع طابا بالاجارة، وعند فوات الشرط يفوت المشروع.

فالعقد اذا شرط معه عقد آخر، وكان ذلك في معنى تعليق العقد الأول على العقد الثاني ،صار كأنه قال : ان آجرتني الدار الفلاحية بكذا، فدارى بييع عليك بكذا، وهذا مما لا يجوز أحد، لأن البيع لا يقبل التعليق.

وهذا بخلاف ما لو ذكرنا ذلك على سبيل الموعدة في أول الأمر، ثم عقدا البيع مطلقاً عن شرط. فإن البيع ينعقد من غير تعليق بيعاً باتاً، ولا يتوقف تمامه على عقد الاجارة. فلو امتنع المشتري من الایجار بعد ذلك، فإنه لا يؤثر على هذا البيع البات شيئاً، فيبقى البيع تاماً على حاله. وغاية الأمر أن يُجبر المشتري على الوفاء بوعده على القول بنزوله الوعد، لأنه أدخل البائع في البيع بوعده، فلزم عليه أن يفي بذلك الوعد قضاءً عند من يقول بذلك . وهذا شئ لا أثر له على البيع البات الذي حصل بدون أي شرط، فإنه يبقى تاماً، ولو لم يف المشتري بوعده.

وبهذا تبين أن البيع اذا اشترط فيه العقد الآخر يبقى متراجداً بين التمام والفسخ، وان هذا التردد يورث فيه الفساد، بخلاف البيع المطلق الذي سببه الوعد بالشيء، فإنه لا تردد في تمام البيع، فإنه

یسم فی کل حال، وغاية الأمر، أن يكون الوعد السابق لازماً على المشترى على قول من يقول بلزوم الوعد.“ (بحوث في قضایا فقهیہ معاصرۃ ج ۱ / ۲۵۵، ۲۵۶)

(غیر سودی بینکاری ص ۲۵۲ تا ۲۵۳)

میرے علم کی حد تک اس اشکال کا جواب یہ ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ ان دونوں مسئللوں میں صرف ظاہری اور لفظی فرق نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر ان دونوں میں باریک فرق ہے وہ یہ کہ اگر ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو جس کو اصطلاح میں ”صفقه فی صفقه“ کہتے ہیں اس میں پہلا عقد مستقل اور قطعی نہیں ہوتا بلکہ یہ پہلا عقد دوسرے عقد پر اس طرح موقوف ہوتا ہے کہ یہ اس کے بغیر کمل ہی نہیں ہو سکتا جس طرح ایک معلق عقد ہوتا ہے۔

لہذا جب بالع نے مشتری سے کہا کہ میں یہ مکان تمھیں اس شرط پر پیچتا ہوں کہ تم اپنا فلاں مکان مجھے اتنے کرائے پر دو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع آئندہ ہونے والی اجارہ پر موقوف رہے گی اور جب عقد کسی آئندہ کے معاملے پر موقوف ہو تو اس صورت میں اس عقد کو مستقل عقد نہیں کہا جائے گا بلکہ عقد معلق کہا جائے گا اور عقود معاوضہ میں تعقیق جائز نہیں۔

اور اگر اس بیع کو نافذ کر دیں اس کے بعد مشتری عقد اجارہ کرنے سے انکار کر دے تو اس صورت میں عقد بیع خود بخود کا عدم ہو جائے گا اس لئے کہ عقد بیع تو عقد اجارہ کے ساتھ مشروط تھا اور قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط نافٹ

ہو جائے تو مشروط خود بخود فوت ہو جائے گا۔

لہذا جب ایک عقد دوسرے عقد کے ساتھ مشروط ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد اول عقد ثانی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، گویا باع نے مشتری سے یہ کہا کہ اگر تم اپنا فلاں مکان اتنے کرائے پر دو گے تو میں اپنایہ مکان تمھیں اتنے پر فروخت کر دوں گا، ظاہر یہ ہے کہ یہ عقد کسی امام کے نزدیک جائز نہیں اس لئے کہ بیع تعیق کو قبول نہیں کرتی ہے۔

برخلاف اس کے کہ باع اور مشتری ابتداءٰ ہی عقدِ اجارہ کو بطور ایک وعدہ کے طے کر لیں پھر مطلق غیر مشروط طور پر عقد بیع کریں تو اس صورت میں یہ عقد بیع مستقل اور غیر مشروط ہو گی اور عقدِ اجارہ پر موقوف نہیں ہو گی لہذا اگر عقد بیع مکمل ہو جانے کے بعد مشتری عقدِ اجارہ کرنے سے انکار کر دے تو اس صورت میں عقد بیع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عقد بیع اپنی جگہ پر مکمل اور درست ہو جائے گی۔

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے اس لئے مشتری کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے اس لئے کہ اس نے اس وعدے کے ذریعے باع کو اس بیع پر آمادہ کیا ہے چنانچہ مالکیہ کے نزدیک قضاء بھی اس وعدے کو پورا کرنا مشتری کے ذمہ ضروری ہے، البتہ اس وعدے کا اس بیع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جو بیع غیر مشروط طور پر ہوئی ہے لہذا اگر مشتری اپنا وعدہ پورا نہ بھی کرے تب بھی بیع اپنی جگہ پر تام سمجھی جائیگی۔ (فتھی مقالات ۲۲۲، ۲۲۵)

**آقول ! اولاً:** تو جو سوال قائم کیا گیا ہے درست نہیں کیونکہ جامع الفصولين میں یہ

کہیں بھی لکھا ہو انہیں کہ شرط سابق کی بنیاد پر جو بیع ہو جائے اور تلفظاً شرط کا ذکر نہ ہو تو وہ جائز ہے..... بلکہ اس کے خلاف لکھا ہے، دیکھئے ” ثم تباعا بلا ذکر شرط جاز البيع عند رحمة الله تعالى الا اذا تصادقا انهما تباعا على ذلك الموضعية“ کی عبارت میں ”بلا ذکر شرط“ کی دو صورتوں کا بیان ہے ایک یہ کہ شرط کا ذکر اور تلفظ بھی نہ ہو اور تصادق بھی نہ ہو یعنی اس کی بنیاد پر عقد بھی نہ ہو یہ جائز ہے۔ دوسری یہ کہ شرط کا ذکر اور تلفظ نہ ہو البتہ تصادق ہو یعنی جانبین اس بات پر متفق ہوں کہ یہ عقد سابق شرط کی بنیاد پر ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔

یہ سوال ہی غلط ہے اور جب سوال غلط، تو جواب پر تبصرے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ جواب میں چند دعوے کیے گئے ہیں اس لئے اس پر کبھی مختصر تبصرہ ضروری ہے۔

(۱) صفقہ فی صفقہ کی ایک صورت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا ہے ”وَهَذَا مِمَّا لَا يجيزهُ أَحَدٌ لَانَ الْبَيْعَ لَا يَقْبِلُ التَّعْلِيقَ“.

**أَقُولُ ! اولاً:** جو عقد سابق شرط کی بنیاد پر ہو رہا ہے وہ مشروط اور معلق ہی ہے اس وجہ سے جامع الفضولیں وغیرہ میں اس عقک کو فاسد کہا گیا ہے۔

**ثانیاً:** ”المعروف کالمشروع“ کے قاعدہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان تمام شرطوں سے عقد مشروط اور معلق ہے۔ (اگر یہ شرطیں ہیں تو عقد ہے ورنہ نہیں)

**ثالثاً:** حضرت حکیم الامت قدس سرہ بھی اس کو معنی و حکماً فرمادی ہے ہیں، نہ کہ تلفظاً اور حکم مثل تلفظ کے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”مَوَاصِعُتْ پَيْشِينَ غَيْرَ مُعْتَبِرِ نَبِيِّينَ هُوَيَّ كَمَا زَعَمَهُ الْبَعْضُ ، بلَكَهُ مُعْتَبِرٌ هُوَيَّ اَوْ عَقْدٌ

صُورَةً مُطلِقَةً عَنِ الشَّرْطِ هُوَ كَوْنِيْ مُقْيِدٌ بِالْأَعْلَى“، (غیر سودی بیکاری ۲۵)

لہذا یہ بقول حضرت مولانا بھی صدقہ فی صدقہ میں داخل اور ناجائز ہے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ اجارہ، بیع اور ہبہ کی شرط کے ساتھ مشروط اور اس پر متعلق ہے اگر بینک کہے کہ آخر میں ہم گاڑی تم سے واپس لے لیں گے، نتوکم قیمت پر بیع کریں گے اور نہ ہی بدیہی وہ بہ دیں گے، تو کوئی بھی بینک سے گاڑی لینے کے لئے تیار نہ ہو گا۔

(۲) فرماتے ہیں :

”عقداً كُرِّجَ شرط سابقَ كَيْ بُنِيَادَ پَرْ هُوَ لِكِنْ جَبْ بِوقْتٍ عَقْدٌ تَلْفِظُ نَبِيْسٌ توْ يَهْ عَقْدٌ

صَحِّحٌ أَوْ رَوْعَدَه لَازِمٌ“ وغاية الامر ان یکون الوعد السابق لازماً

علی المشتری علی قول من يقول بلزوم الوعد“

(غیرسودی بینکاری ۲۵۲)

آقاول ! اولاً: معلوم نہیں یہاں ”قضاء“ کا لفظ کیوں نہیں بڑھایا گیا؟

ثانیاً: وہ ”من يقول“ کون ہیں جنہوں نے وعدہ سابق کو قضاۓ لازم فرمایا ہے، صراحةً ان کا نام اور قول درکار ہے۔

ثالثاً: وعدہ سابق کی بنیاد پر نقصان کے ضمان کا کون قائل ہے؟ جو محوزین حضرات کا مدعا ہے، ان کا نام اور قول بھی ضروری ہے۔

رابعاً: جب جامع الفصولین کی عبارت سے یہ معلوم ہو گیا کہ شرط غیر معتبر ہے، تو وہ لازم کیونکر ہو گا؟

### ﴿بِحَثٍ كَا خَلاصَهٍ اُوْرَتَبَصَرَه﴾

فرماتے ہیں :

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی بیع کے صلب عقد میں کوئی شرط نہ

لگائی جائے لیکن عقد سے پہلے یا بعد میں اس کا ذکر وعدے کے طور پر کر دیا  
جائے تو اس سے بیچ فاسد نہیں ہوتی اور نہ ”صفہ فی صفحہ“ لازم آتا ہے  
الخ۔ (غیر سودی بینکاری صفحہ ۲۵۲)

**آقول!** یہ خلاصہ عباراتِ صریحہ کے خلاف ہے، صحیح بات جو عباراتِ فہریہ سے ثابت  
ہے وہ یہ ہے کہ جو عقد سابق شرط کی بنیاد پر ہوا ہے خواہ وہ سابق شرط اور وعدہ کا تلفظ اذکر  
بوقت عقد ہوا ہے یا نہیں، ہر دو صورتوں میں یہ عقد مشروط اور بیچ متعلق اور صفحہ فی صفحہ ہے۔  
البتہ جہاں شرط سابق سے صرف نظر کرتے ہوئے عقد کیا گیا ہو وہ عقد صحیح ہے، البتہ اس  
صورت میں شرط سابق غیر معتر اور غیر لازم ہے، جیسا کہ تفصیل سے گز رچکا ہے۔ لہذا عقد  
سے قبل شرط اور وعدہ کو لازم قرار دینا صفحہ عبارات کے خلاف ہے، ہاں عقد کے بعد وعدہ  
کے لزوم کی عبارت موجود ہے، جس کا کسی کو انکار نہیں۔

### (ب) ﴿عقد سے قبل یکطرفہ وعدے کا حکم﴾

محوزین حضرات کی کوشش یہ ہے کہ یکطرفہ وعدے کو قضاء لازم فرمادیں، اور مراجعہ و  
اجارہ بنوکیہ میں جو عقد سے قبل یکطرفہ وعدے کئے جاتے ہیں وہ دیانتہ اور قضاء درست اور  
جاائز ہو جائیں، لیکن بہت کچھ لکھنے کے باوجود مدعای ثابت ہوتا نظر نہیں آتا، تفصیل ذیل میں  
ملاحظہ فرمائیں:

﴿۱﴾ وعدہ سے متعلق تفصیلی بحث کے آخر میں بطور خلاصہ بحث تحریر فرماتے ہیں:

” وعدہ کا ایقاء عام حالات میں صرف دیانتہ واجب ہوتا ہے قضاء“  
نہیں، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرے تو کہہ گار ہے اور اگر  
 وعدہ کرتے ہوئے ہی نیت وعدہ خلافی کی ہو تو اسے حدیث میں نفاق فرمایا

گیا ہے“ (غیرسودی بینکاری ۱۵)

(تنبیہ: ”لزوم التزام تصدق“ کے عنوان کے تحت ہم نے ضمناً یہ دعویٰ بھی کیا ہے، کہ حضرت مذکولہ نے مرا بھجہ بونکیہ اور اجارہ بونکیہ کا جوڑ ہائچہ بنایا کر دیا ہے وہ مرجوح، ضعیف اور قلیل کی رائی کی مرہون منت ہے..... آگے دیکھیے! ہم اس دعویٰ میں کس حد تک حق بجانب ہیں)

**آقول!** یہ فیصلہ مشہور، اکثر اور راجح کے خلاف ہے۔ خود تحریر فرماتے ہیں:

(۱) عام طور سے حفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور مکارم اخلاق میں سے ہے بعض مالکیہ کا بھی یہی قول ہے (عدۃ القاری، ۱۲/۱۲۱، مرقاۃ ۶۵۳/۳، اور الاذکار للنووی ۲۸۲) یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی کو احادیث میں جو نفاق یا نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے وہ اس وقت ہے جب کسی شخص کے دل میں وعدہ کرتے وقت ہی یہ بد نیتی ہو کہ وہ اس کو پورا نہیں کرے گا لیکن اگر یہ بد نیتی نہ ہو پھر اتفاقاً وعدہ خلافی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں (غیرسودی بینکاری ۱۳۸)

**آقول!** اس رائے کے بعد آپ مذکولہ نے تین اور مذاہب بھی ذکر فرمائے ہیں لیکن مشہور، جہور اور اکثر کا مذہب یہی ہے کہ عام حالات میں وعدہ پورا کرنا مستحب ہے اخ، لیکن پھر خود تماجح بحث کے تحت اس کے خلاف قلیل اور غیر مشہور قول کو لیکر دیانتہ واجب فرمائے ہیں۔

﴿۲﴾ فرماتے ہیں:

بعض معاملات میں حاجت کی وجہ سے یک طرفہ وعدے کو قضاۓ بھی لازم کیا جاسکتا ہے (غیر سودی بینکاری ۱۵۸)

اسی طرح صفحہ ۱۲۸ پر فرماتے ہیں:

البتہ مالی معاملات میں جہاں حاجت داعی ہو وعدوں کو قضاۓ بھی لازم کیا جاسکتا ہے جس کی ایک مثال بیع الوفاء کی صورت میں پچھے گذری..... اور اس موقع پر فقہاء کرام نے اس بات کو بیع الوفاء کے ساتھ مخصوص رکھنے کے بجائے یہ کہکرا سے فی الجملہ عموم عطا کیا ہے کہ: ”اذ الموعید قد تكون لازمة فيجعل لازمة لحاجة الناس“

**آقول!** ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مدظلہ بیع الوفاء کی صورت میں لزوم وعدہ سے بوقتِ مرا بحکم واجارہ یک طرفہ وعدے کے قضاۓ لزوم اور جواز پر استدلال فرماتے ہیں ..... یاد رکھیئے! یہ استدلال بھی راجح، مشہور اور اکثر کے خلاف ہے کیونکہ بیع الوفاء میں عقد سے قبل یا بوقتِ عقد یا بصورتِ تصادق یہ وعدہ مفسد عقد ہے اور جامع الفصول میں بدؤں ذکر و تصادق اگرچہ اس کو مفسد عقد تو نہیں فرمایا گیا لیکن اس شرط کا اعتبار بھی نہیں کیا گیا لیتی ایسی صورت میں اس شرط کا نجاحا ضروری نہیں، جیسا کہ اوپر مقصید اول کے عنوان کے تحت تفصیل سے گزر چکا ہے، نیز بیع الوفاء سے ہٹ کر دوسرے عقود میں یک طرفہ وعدے کو قضاۓ لازم فرار دینا بھی اکابر حبہم اللہ تعالیٰ کی تصریحات کے خلاف ہے۔ نیز حضرت شیخ الاسلام زید مجدد ہم کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان قدس سرہ تو یک طرفہ وعدہ کے قضاۓ لزوم کو مطلقاً فرماتے ہیں۔

فرماتے ہیں: مگر یک طرفہ وعدہ کو عدالت کے ذریعے جبراً پورا نہیں کرایا جاسکتا ہے (معارف القرآن ۵/۲۸۰، حوالہ غیر سودی بینکاری ۷۵)

آقول! معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ خود آپ کے والد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم پیغمبر سے قبل وعدہ کو مفسد سمجھتے ہیں اور بعد العقد وعدہ کو لازم تو سمجھتے ہیں پر قضاۓ نہیں، جبکہ آپ دونوں باتوں میں مخالفت فرماتے ہیں اور یہ مخالفت مجبوری بھی ہے کیونکہ اس کے بغیر بینک آدھادن بھی نہ چلے گا۔  
نیز قد تکون اخ میں قد تقلیل کے لئے ہے اس لئے اس کو عموم دے کر قانون بنانا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔

نوٹ: دوسرے اکابر حرم اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ مقصید اول و ثانی کے تحت ملاحظہ فرمائی جائیں۔

### (۳) فرماتے ہیں:

اگر کسی خلاف شرع بات کا کوئی وعدہ کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں مثلاً ایک شریک دوسرے شریک سے یہ وعدہ کرے کہ اگر کار و بار میں کوئی نقصان ہو گا تو میں اس کی تلافی کر کے تمہیں دونگا تو یہ وعدہ بھی چونکہ سارا نقصان ایک فریق پر ڈالنے کا موجب ہے جو شرعاً جائز نہیں اس لئے یہ وعدہ بھی جائز نہیں (غیر سودی بینکاری صہ ۱۵۸)

آقول! ان نام نہاد اسلامی بینکوں میں یہ ناجائز وعدے بھی ہوتے ہیں۔ بندہ کو مولا نا عدنان کا کا خیل صاحب نے بتایا کہ نقصان کی صورت میں بینک ہدیہ دیتا ہے..... جس پر بندہ نے اسی وقت کہا کہ یہ ہدیہ یہ یارشوت؟

جواب ندارد،

پوچھا: کیوں دیتا ہے؟

کہا: ورنہ شر کا رقم نکال لیں گے۔

اسی طرح مولانا فیصل احمد صاحب (استاذ بینائیگ جامعہ الرشید) نے بھی بتایا کہ کاغذات و تحریرات میں تو یہ بات نہیں ہوتی البتہ زبانی یا عملی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا زبان تحریر سے کمزور ہوتی ہے؟ لوگ تو زبان سے سن کر ہی اعتماد کرتے ہیں کیونکہ شریعت میں معاملات و عقود کے لئے تحریر ضروری نہیں، زبان کافی ہے، بلکہ تحریر تو زبان ہی کی نیابت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔

الاصل جس طرح سودی بینکوں میں رقم لگانے والا نقصان کے تصور کے بغیر صرف نفع ہی نفع کی بنیاد پر رقم جمع کرتا ہے یہاں بھی سیوگنگ اکاؤنٹ میں نقصان کے تصور کے بغیر نفع ہی کے لئے رقم جمع کرتا ہے اور بس۔ اور بینک والے بھی اس کے اس تصور کا خیال رکھتے ہیں کہ نقصان کی صورت میں رشوت دیتے ہیں، اور اس کا نام ہدایہ رکھتے ہیں، تاکہ اس کا اسلامی تجارتی تصور قائم نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ پوچھنے کے وقت کہتے ہیں کہ دوسرے بینک لاکھ پر اتنا نفع دیتے ہیں اور اسلامی بینک اتنا دیتے ہیں، آج تک کسی ایک نے بھی شاید کسی سے یہ نہ پوچھا ہوگا کہ نقصان کی صورت میں ہمارے ذمہ کتنا نقصان آئے گا؟ اور کیوں پوچھئے؟..... جب نقصان کا تصور ہے ہی نہیں!

خیز یا مر بھی قابل توجہ ہے کہ کیا اس کی تبدیلی سے (یعنی رشوت کا نام ہدایہ رکھنے سے) مسمی بھی تبدیل ہو جائے گا؟

(۲) لکھتے ہیں:

(۵) تجارتی معاملات میں وعدے کے قضاءً لازم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے قضاءً لازم ہونے پر فریقین وعدے کے وقت ہی متفق ہو جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی وعدے کے قضاءً لازم

ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب تو واضح ہے کہ وعدے کرنے والے کو عدالت اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے لیکن مجمع الفقہ الاسلامی میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی کہ موجودہ دور میں جبکہ عدالتی کارروائی میں اتنا طویل وقت اور اتنا کشیر سرما یہ خرچ ہوتا ہے کہ بعض اوقات عدالتی دادرسی ناقابل عمل ہو جاتی ہے، وعدے کے قضاء لازم ہونے کا کم از کم نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کرے تو وعدہ خلافی کے نتیجہ میں موعود کو جو حقیقی نقصان ہوا ہوا نقصان کی تلافی کرے اخ (غیرسودی بینکاری ص ۱۵۸)

اس عبارت میں دو باتیں دلائل اور ثبوت کے بغیر لکھی گئی ہیں ایک یہ کہ ”قضاء لازم ہونے پر فریقین وعدے کے وقت ہی متفق ہو جائیں“، جبکہ ما قبل کی تفصیل میں کتاب دیکھی جائے تو اس کا کہیں بھی بیان نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ ”قضاء لازم ہونے“ کا صریح اور اصل مصدق جس کو آپ مدظلہ نے خود بھی بیان کیا ہے کہ عدالت کے ذریعے اس پر جرکیا جائے، کوچھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نیا مطلب ایجاد کیا گیا، چونکہ یہ مطلب اصل اور حقیقت کے بالکل خلاف اور ناجائز طور پر ایک کامال دوسرے کو کھلانے کی تدبیر ہے جس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، اس کے ثبوت کے لئے جن دو باتوں کو پیش فرمایا ہے وہ دونوں ناکافی ہیں۔

**پہلی بات:** حدیث ”لا ضرر و لا ضرار“ (نہ کوئی شخص دوسرے کو نقصان پہنچائے اور نہ دوآدمی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں) کو پیش فرمایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس ماہر شریعت مجتهد اور محقق کا نام بتایا جائے جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہو کہ مشتری نے بالع سے بوقت عقد جو وعدے کئے ہیں اگر بلا عذر اس نے پورے نہ

کئے اور باع کو حقیقی نقصان ہوا تو اس نقصان کا مشتری ذمہ دار ہو گا۔ لیکن یہ حوالہ ملے گا نہیں ورنہ ضرور نقل فرماتے، اذ لیس فلیس

دوسری بات: ”فیصل المالک ۱/۲۵۵“ کے حوالے سے ایک لمبی عبارت ذکر فرمائی ہے جس سے مدعایا کا ثبوت مشکل نہیں ناممکن ہے۔ دیکھیے!

”قال فی الرسم الأول من سمع أصبغ من جامع البيوع : قال أصبغ : سمعت اشهب ، وسئل عن رجل اشتري من رجل كرما فخاف الوضيعة فأتى ليستوضعه ، فقال له : يع و أنا أرضيك . قال : إن باع برأس ماله أو بربع فلا شيء عليه ، وإن باع بالوضيعة كان عليه أن يرضيه ، فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أراد ، وإن لم يكن أراد شيئاً ، أرضاه بما شاء و حلف بالله ما أراد أكثر من ذلك ، وإن لم يكن أراد شيئاً يوم قال ذلك ، قال أصبغ : وسألت عنها ابن وهب فقال : عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة فيها . قال أصبغ : وقول ابن وهب هو أحسن عندى ، وهو أحب إلى إذا وضع فيها ، قال محمد بن رشد : قوله بعه و أنا أرضيك عدّة إلا أنها عدّة على سبب ، وهو البيع ، والعدّة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الأقوال . وقد قيل : إنها لا تلزم بحال ، وقيل : إنها تلزم على كل حال ، وقيل : إنها تلزم إذا كانت على سبب ، وإن لم يحصل السبب ، وقول أشهب : إن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أراد يزيد مع يمينه ، ومعناه إذا لم يسم شيئاً يسيراً لا يشبه أن يكون أرضاه .“ الخ. (غیر سودی بینکاری ۱۵۹، ۱۶۰)

﴿اُنھی فرماتے ہیں کہ اشہب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے کسی سے انگور خریدے پھر اس کو نقصان کا ڈر ہوا تو وہ واپس باعث کے پاس آیا کہ اس سے کچھ رعایت کروالے باعث نے کہا کہ تم خرید لو اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو میں تمہیں راضی کرلوں گا، تو اشہب نے فرمایا کہ اگر اس خریدار نے اصل سرمایہ کے بدلتے میں آگے بیچا ہو یا کچھ منافع کے ساتھ تو باعث پر کوئی چیز لازم نہیں اور اگر نقصان کے ساتھ آگے بیچا تو باعث کے ذمہ ہے کہ وہ خریدار کو راضی کرے، پھر اگر باعث کا یہ خیال ہو کہ اس نے کسی مقررہ چیز کا ارادہ کیا تھا تو پھر جس چیز سے چاہے خریدار کو راضی کرے، اور اگر کچھ ارادہ نہیں کیا تھا تو پھر جس چیز سے چاہے خریدار کو راضی کرے، اور اللہ کی قسم اٹھائے کر میں نے اس سے زیادہ کا ارادہ نہیں کیا تھا اگرچہ جس دن اس نے یہ بات کہی تھی اس دن بھی کسی چیز کا ارادہ نہ کیا ہو۔

اُنھی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن وہب سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باعث کے ذمہ ہے کہ وہ خریدار کو اس سامان یا اس میں ہونے والے نقصان کی قیمت کے بقدر دے کر راضی کرے، اُنھی فرماتے ہیں کہ ابن وہب کا قول میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور نقصان کی صورت میں یہی قول مجھے پسند ہے محمد ابن رشد فرماتے ہیں کہ باعث کا یہ کہنا کہ ”تم اس کو خرید لو اگر نقصان ہو گیا تو میں تمہیں راضی کرلوں گا“، یہ ایک وعدہ ہے لیکن یہ ایک سبب پر مبنی ہے جو کہ بیقع ہے اور وعدہ جب کسی سبب پر مبنی ہو تو مشہور قول کے مطابق اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وعدہ کسی بھی حال میں لازم نہیں ہوتا، بعض کا قول ہے کہ ہر حال میں

لازم ہوتا ہے، بعض کا قول یہ ہے کہ وعدہ جب کسی سبب پر ہو تو اگرچہ وہ سب حاصل نہ ہو تو بھی لازم ہوتا اور اشہب کا یہ قول کہ ”اگر بالع کا خیال یہ ہو کہ اس نے کسی مقررہ چیز کا ارادہ کیا تھا تو پھر وہی چیز خریدار کو دے گا“، تو ان کی مراد یہ ہے کہ قسم کے ساتھ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے یہ معمولی چیز بھی مقرر نہ کی ہو یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کو راضی بھی کر

لیتا ہے ﴿

**آقول!** اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ بالع اپنی طرف سے مشتری کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ مال خریدو، نقصان ہوا تو راضی کروں گا یعنی کچھ مٹن چھوڑ دوں گایا واپس کر دوں گا اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ پورا نقصان دے بلکہ جتنا اس نے دل میں خیال کیا تھا اتنا ہی اس کے ذمہ ہے البتہ اگر دل میں ارضاء کرنے کے وقت کچھ خاص مقدار ذہن میں نہ تھی تو پھر اس میں تفصیل ہے جو اس عبارت میں الی آخرہ بیان کی گئی ہے۔

**آقول!** اولاً: تو اس جزئیہ اور زیر بحث مسئلہ جس کے ثبوت کے لئے اس جزئیہ کو تلاش کر لایا گیا ہے، میں دو فرق ہیں۔

**پہلا فرق:** اس جزئیہ میں بالع کو ضامن ٹھہرایا گیا ہے اور ہمارے مسئلہ میں مشتری کو ضامن ٹھہرایا جاتا ہے، لہذا یہ جزئیہ صریح متدل نہ ہوا۔

**دوسرा فرق:** یہ کہ اس جزئیہ میں بالع بدلوں کسی دباؤ اور اشتراط، مشتری کے لئے اپنی طرف سے ارضاء کا وعدہ کرتا ہے جبکہ ہمارے مسئلہ میں متعدد شرائط کے ذریعہ مشتری کو جکڑ کر ضامن کا پابند بنایا جاتا ہے۔ جبراً کراہ اور اختیار و رضاء کے اس بنیادی اور بدیہی فرق کے باوجود اس جزئیہ سے استدلال بداہت کا انکار ہے۔

**ٹالنیاً:** یہ جزئیہ مذاہب اربعہ کا متفق علیہا جزئیہ نہیں ورنہ ضرور ہر مذہب سے حوالہ پیش فرماتے، اذلیس فلیس، تو یہ بھی ایک شاذ بات ہوئی۔

**ھالٹاً:** جس مذہب کی کتاب میں یہ جزئیہ ہے اس مذہب میں بھی کوئی متفق علیہ جزئیہ نہیں، بلکہ اس مذہب کے بعض یعنی ایک دوہی کا قول ہے ورنہ وہ عبارت بتلائی جائے جس میں اس کا ذکر ہو کہ یہ مذہب کا اتفاقی مسئلہ ہے، اذلیس فلیس۔ لہذا اس کے شذوذ میں اور ترقی اور اضافہ ہوا۔ یہی بات اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ مجوزین حضرات کا بنایا ہوا پورا ڈھانچہ مرجوح، ضعیف اور شاذ اقوال پر قائم ہے۔

فتح العلیٰ الملک کی عبارت میں آگے محمد بن رشد کی درج ذیل عبارت:

قال محمد بن رشد: قوله: بعه و أنا أرضيک عدۃ الا انها عدۃ

علی سبب الخ (غیر سودی بینکاری ص ۱۵۹)

بھی مدعا کے اثبات میں مفید نہیں کیونکہ اس عبارت میں وعدہ کے لزوم و عدم لزوم کی تفصیل اور اختلاف کا بیان ہے پر قضاۓ لزوم کا ذکر اس عبارت میں بھی نہیں۔ لہذا مشتری سے جو وعدے لئے جاتے ہیں:

اولاً: تو یہ جبری وعدے ہیں۔

**ٹالنیاً:** قضاۓ بھی لازم مانے جاتے ہیں۔

**ھالٹاً:** نقصان کا ضامن گاہک کو بناتے ہیں۔

جبکہ اس عبارت سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتیں۔

## (۸) ﴿شرکۃ متناقصہ﴾

اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

.....اس طریق کار کے ایک ایک جزو پر بندے نے اپنی کتاب

”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ میں ”الطرق المشرعة للتمویل العقاری“

کے زیرعنوان بحث کی ہے (غیرسودی بینکاری ۲۷۵)

نیز آگے فرماتے ہیں: حنفی حضرات نے غیرسودی بینکاری پر اعتراضات کئے ہیں انہوں نے شرکت متناقصہ پر بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ اس سے صفقہ فی صفقہ لازم آتا ہے۔ یہ اعتراض میں نے خود ذکر کر کے اس مقالے میں اس کا جواب دیا ہے، اور اس پر اجارے کی بحث میں اس موضوع پر صفقہ فی صفقہ کے عنوان کے تحت بھی مفصل بحث کی جا پچکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک عقد کے صلب میں دوسرے عقد کی کوئی شرط نہیں ہوتی البتہ یہ تینوں معاملات یعنی شرکت ملک، اجارہ، اور بیع اپنے اپنے وقت پر مستقل طور سے انجام پاتے ہیں اور جو وعدہ عقد سے منفصل ہو اس پر شرط کے احکام جاری نہیں ہوتے، جس کی قبھی دلیلیں اور پرگز رچکی ہیں، یہاں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں (غیرسودی بینکاری ۲۷۶)

**آقول!** ہم نے ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرة“ کو بھی تفصیل سے دیکھا اور اس کتاب ”غیرسودی بینکاری“ میں جو کچھ تحریر ہے اس کو بھی دیکھا، غور کرنے سے دو باقی سامنے آئیں۔

(۱) شرکت متناقصہ کی صورت میں خود بھی تسلیم کر کچے ہیں کہ یہاں تین عقود ہیں، شرکت ملک، اجارہ اور بیع۔ لیکن پھر بھی صفقہ فی صفقہ نہیں ..... کیوں؟ اس کی دلیل میں وہی جامع الفصولین کی عبارت کا نیا مطلب لے کر جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں سے کوئی معاملہ دوسرے معاملے پر متعلق نہیں، یعنی ایک معاملہ کے وقت دوسرے معاملے کا لفظ نہیں میں کسی قسم کا زبان سے ذکر نہیں ہوتا لہذا قبل العقد جو وعدہ اور شرط کی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات فاسد نہ ہوں گے۔

اس استدلال کا جواب اسی زیرِ نظر کتاب ”غیر سودی بینکاری“، ایک منصفانہ علمی جائزہ، میں صدقہ فی صدقہ کے عنوان کے تحت ہم تفصیل سے دے چکے ہیں، کہ شرط مقدم کو اگر فریقین عقد کی بنیاد اور مدار بیجھتے ہوئے عقد کریں گے تو اس عقد کو خالی عن الشرط نہیں کہا جائے گا، بلکہ بشرط حضرات فقہاء کرام حبهم اللہ تعالیٰ اس کو بھی مشروط بالشرط کہا جائے گا، اگرچہ زبان سے اس خلاف مقتضائے عقد شرط کا کسی طرح لفظوں میں ذکر نہ ہو، بلکہ حضرات فقہاء کرام حبهم اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک تصریح فرمائی ہے کہ اگر مقتضائے عقد کے خلاف کسی شرط کا ذکر نہ ہو بل عقد میں ہو، نہ قبل العقد ہوا ورنہ بعد العقد لیکن عرف میں وہ شرط معروف و مشہور ہو تو بھی اس عقد کو عقد بالشرط کہا جائے گا لہذا جہاں کسی شرط کا پہلے سے تذکرہ ہوا اور فریقین اسی کی بنیاد پر عقد کر رہے ہوں اور بعد العقد اس پر اتفاق بھی ہو کہ ہمارا عقد اگرچہ لفظوں میں بلا شرط تھا، لیکن حقیقت میں اسی شرط سے مقید تھا، تو اس کا اعتبار بطریق اولی ہونا چاہئے۔

المعروف کالمشروط کی کچھ عبارات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: (فسد الاجارة

بالشروط المخالفه لمقتضى العقد ..... و كشرط .....

مرمة الدار أو مغارتها

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى: قوله : ( و مرمة الدار أو

مخارتها ) قال في البحر : وفي الخلاصة معربا إلى الأصل: لو

استأجر دارا على أن يعمرها ويعطى نوابتها تفسد ، لأنه شرط

مخالف لمقتضى العقد اهـ فعلم بهذه أن ما يقع في زماننا من

اجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم و كلفة

الكافش على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر  
فاسد كما لا يخفى اهـ

أقول : و هو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة  
بتصريح الشرط فيقول الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من  
النوائب و نحوها كالدك و كرى الأنهر على المستأجر، و تارة  
يقول : و توافقا على أن ما ينوب الخ . و الظاهر : أن الكل مفسد  
؛ لأنه معروف بينهم و ان لم يذكر، و المعروف كالمشروط .

تأمل (الشامية ٩ / ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ط رشيدية )

(٢) قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى : (تفسد الإجارة  
بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع ) مما مر  
(يفسدها) كجهالة مأجور أو أجراة أو مدة أو عمل، و كشرط  
طعام عبد و علف دابة و مرمة الدار أو مغارتها و عشر أو خراج  
أو مؤنة رد. أشباه .....

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى : قوله : ( كشرط طعام  
عبد و علف دابة ) في الظهيرية : استأجر عبدا أو دابة على أن  
يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز و قال  
الفقيه أبو الليث : في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا  
فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اهـ قال الحموي : أى :  
فيصح اشتراطه . و اعتبرضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال  
المستأجر بالشرط و منه بشرط اهـ .

أقول : المعروف كالمشروط ، و به يشعر كلام الفقيه كما لا

يخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعرف في الدابة ذلك يجوز، تأمل . و الحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها، ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أمينا، بزازية ملخصا.

وقال العالمة الرافعى رحمه الله تعالى : قوله : (المعروف كالمشروط الخ) أى فيفسد العقد وان لم يصرح بهذا الشرط، لأنه بمنزلة المخصوص عليه، وهو لا يقتضيه العقد خصوصا مع جهالة مقدار ما يأكل العبد وجنسه لكن هذا حينئذ مختلف لكلام الفقيه بالكلية ، فان مقتضاه جواز الاجارة في العبد لا الدابة وعل وجه الجواز فيه مع الجهالة في علفه أنها لا تفضى إلى المنازعه بسبب أنه يأكل من مال المستأجر عادة كما يشير إليه قوله : أما في زماننا الخ، فتكون مثل استئجار الظئر بطعمها.

(الشامية ٩ / ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ط رشيدية)

(٣) وقال العالمة الشامي رحمه الله تعالى تحت قوله : مطلب مسألة دراهم النقش و الحمام و لفافة الكتاب و نحوها : ..... و هذه مألوفة معروفة بمنزلة المشروط عرفا حتى لو أراد الزوج ألا يدفع ذلك يشرط نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى المهر المسمى في العقد، وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في الكتب من أن المعروف كالمشروط يوجب

الحق ما ذکر بالمشروع ط (الشامیة ۳ / ۱۳۰ ، ط ایج ایم سعید)

(۲) ﴿ ”بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرۃ“ اور کتاب ”غیر سودی بینکاری“ میں تعارض ہے﴾

بحوث میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کو علامہ خالد اتاسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رد کیا ہے، اس کو درست قرار دے کر اس پر درج ذیل الفاظ سے تفریق فرمائے کہ متاخرین فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت کی طرف اس کے جواز کو منسوب فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:

و لهذا أفتى جماعة من متاخرى الحنفية بأن المواجهة المنفصلة

عن عقد البيع سواء كانت قبل العقد أو بعده لا يلتحق بأصل

العقد ولا يلزم عليه البيع بشرط أو صفة في صفقة فلا مانع

حيينهـ من جواز العقد (بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرۃ ۲۵۵)

﴿ أقول ! مجوزین حضرات سے متاد بانہ گذارش ہے کہ یہ جماعت جن حضرات فقہاء

کرام رحمہم اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے ان کے نام اور کتب کے حوالے پر ہم اپنی بساط بھر کوشش کے باوجود مطلع نہ ہو سکے، لہذا حوالہ کی درخواست ہے۔﴾

جبکہ کتاب ”غیر سودی بینکاری“ میں علامہ خالد اتاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رد کو غیر صحیح قرار

دے کر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کی توثیق فرمائی ہے۔

تعارض کا سبب: ایسا لگتا ہے کہ بحوث کے زمانے میں حضرت مدظلہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا وہی مطلب سمجھتے تھے جو بالکل واضح اور گویا عبارت انص ہے کہ بدؤں ذکر لسانی صرف تصادق سے بھی عقد شروط ہو جاتا ہے، اور اپنایا مطلب یعنی عقد کو مشروع ط کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ زبانی تذکرہ ضروری ہے، متحضر نہ رہا۔ چونکہ یہ مطلب را جواز میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، اس لئے بحوث میں علامہ اتاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رد کی تصویب

کرتے ہوئے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ پر رد کیا ہے۔ اور ”غیرسودی بینکاری“، کتاب کے زمانے میں شاید اپنا یہ نیا مطلب متحضر رہا، اور اس سے چونکہ جواز کسی درجہ میں بھی متاثر نہیں ہوتا، اس لئے تذکرہ لسانی کی تاویل کر کے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کی تصویب فرمائی اور علامہ اتسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے رد کو رد فرمایا۔

### ﴿کوآپریٹو کمیٹی کا جواب﴾

حیلوں کی بحث میں کفایتی المفتی کے حوالے سے ایک کوآپریٹو کمیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کو قرض کی سہولت فراہم کرنے کے لئے کچھ ادارے قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہی میں سے ایک تجویز اکابر کے سامنے آئی۔ یہ تجویز اور اس کے بارے میں ماضی قریب کے اکابر علماء دیوبند کا ایک فتوی ملاحظہ فرمائیے۔ کفایتی المفتی میں ہے:

”سوال: اگر ایسی کمیٹی قائم ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو درست رکھے، اور مہاجنوں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور اس مقصد سے مسلمانوں کو بلاسودی قرض دے اور اس کے حصہ ذیل اصول مقرر کرے۔

(۱) یہ کمیٹی ایک کاغذ تیار کرتی ہے جس کی قیمت مقدار قرض کے اعتبار سے مختلف ہو گی، مثلاً اس روپے کے لئے ۷ (آنے) اور پچھیں روپے کے لئے ۸ (آنے) پچاس روپے کے لئے عہ (یعنی ایک روپیہ) علی ہذا القياس۔ جس طرح سرکاری اسٹا مپ کا غذ پروٹیقہ لکھا جاتا ہے، اگرچہ

بلا سود ہی کیوں نہ ہو۔

(۲) جو شخص اس کمیٹی سے یہ کاغذ خرید لے گا اس کو یہ کمیٹی اس کے طلب پر قرض دے گی۔

(۳) یہ کمیٹی اپنا ایک مسجل (رجسٹر) مقرر کرتی ہے جس کے ہاں اس وثیقہ کی رجسٹری ہو گی۔ اور رجسٹری کرنے کی ایک قابل رقم مقرض کو رجسٹر کے ہاں داخل کرانی ہو گی، تاکہ رجسٹر کے دفتر کا خرچ اس سے چل سکے۔

(۴) یہ کمیٹی اپنا ضابطہ یہ بھی مقرر کرتی ہے کہ سال بھر سے زیادہ مدت قرض نہیں ہے، اس کے بعد اگر کوئی مدیون قرض کو اپنے ذمہ رکھنا چاہتا ہو تو یہ جدید قرض سمجھا جائے گا، اور اس کو نمبر (۱) اور نمبر (۲) کے مطابق عمل کرنا ہو گا۔ (یعنی دوبارہ کاغذ خریدنے ہونگے)

تو اب سوال یہ ہے کہ اس کمیٹی کا ان خوابط کے ساتھ قائم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ معاملہ درست ہے یا نہیں؟ بیووا توجروا لمس تقتی (مولانا عبدالصمد رحمانی (مونگیری))

(جواب از مولوی سہول عثمانی) کمیٹی مذکورہ بالا مسلمانوں کے لئے بہت مفید ہے، اور اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں، اور یہ معاملہ بھی شرعاً جائز ہے، اور کمیٹی کا کاغذ مذکورہ بالا کو تج کر کے قرض دینا ”بیع جر منفعة“ ہے، قرض جر منفعة، نہیں ہے۔ جیسا کہ شامی جلد ۲ ص ۱۹۷ میں ہے:

”فَإِنْ تَقدِّمُ الْبَيْعَ بَأْنَ باعَ المطلوب معه المعاملة من الطالب ثوباً“  
قیمتہ عشر و نین دیناراً باربعین دیناراً ثم اقرضه ستین دیناراً اخیری

حتیٰ صار لہ علی المستقرض مائے دینار و حصل للمستقرض  
ثمانون دینارا ذکر الخصاف أنه جائز ..... و هذا مذهب محمد  
بن سلمة امام (الى أن قال) و كان شمس الأئمة الحلواني يفتى  
بقول الخصاف و ابن سلمة و يقول : هذا ليس بقرض جرمنفعة  
بل هذا بيع جر منفعة و هو القرض ”انتهی مختصرًا  
محمد سہول عثماں، پربل مدرسہ شمس الہدی، (غیر سودی بینکاری ۲۰۳)

**آقتو!** اولاً: یہاں عقدِ بیع میں معقود علیہ الگ ہے اور عقدِ قرض میں الگ، جبکہ  
اجارہ میں ایک ہی گاڑی عقدِ اجارہ کا بھی معقود علیہ ہے اور یہی گاڑی عقدِ بیع یا ہبہ کا بھی  
معقود علیہ ہے یعنی اجارہ اور بیع دونوں کا معقود علیہ ایک ہے (یعنی دونوں میں ایک فرق یہ بھی  
ہے اگرچہ شاید اس فرق کا صدقہ فی صدقہ کے ہونے یا نہ ہونے پر کچھ اثر نہ ہو البتہ تجذیب قبض کا  
اعتراض یہاں بھی ہوگا)۔

ثانیاً: یہاں کو آپ یہ تو مکیٹی میں ”بیع کاغذ“ کے ساتھ قرض کا معاملہ معلق نہیں کہ جو بھی کاغذ  
خریدے گا اس کو قرض ضرور لینا ہوگا یا ہر صورت میں دینا ہوگا..... اس کا حاصل تو صرف اتنا  
ہے کہ جو اس کا غذ کو خریدے گا وہ گویا اس کا ایک قسم کا ممبر بن گیا اور بوقت ضرورت اس فنڈ  
سے قرض لے سکتا ہے، یہاں نہ تو عرف اور عادتاً یہ تعلق ہے اور نہ ہی صراحت، کہ کاغذ کے ہر  
خریدار کو ضرور قرض لینا ہے اور سو سائٹی کے پاس فنڈ نہ بھی ہو تو بھی اسکو ضرور دینا ہے۔ جبکہ  
اجارہ میں تو عادتاً یا عرف اور فایل تعلق ثابت ہے کہ جو اجارہ پر گاڑی لے گا آخر میں اسے بیع یا ہبہ کے  
ذریعے تمدیکا دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اس گاڑی کو اپنی گاڑی سمجھ کر جملہ  
تصرفات کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات کسی دوسرے کو بیع بھی دیتے ہیں۔

## ﴿منی آرڈر کا جواب﴾

آگے اسی کمیٹی والے فتویٰ کے تائیدی فتاویٰ اجات ذکر کرتے ہوئے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نقل فرمایا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”.....جب دو معاملے ہوں، ایک قرض کا جس کا تعلق روپے اور رہن سے ہے، دوسرا بیع کا جس کا تعلق کا نہ، فارم سے ہے۔ اور دونوں شرعاً درست ہوں تو مجموعہ کو بھی درست کہنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت اقدس مولانا حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حادث القاوی میں حصہ ثانیہ ص ۱۵۵ پر ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے۔ (الجواب) منی آرڈر مرکب ہے دو معاملہ سے: ایک قرض جو اصل رقم سے متعلق ہے۔ دوسرا اجارہ جو فارم پر لکھنے اور روانہ کرنے پر بنام فیس کے لی جاتی ہے، اور دونوں معاملے جائز ہیں، پس دونوں کا مجموعہ بھی جائز ہے۔ اور چونکہ اس میں ابتلاء عام ہے اس لئے یہ تاویل کر کے جواز کا فتویٰ مناسب ہے۔ فقط و شوال ۲۳۲۴۴

اگر صفتہ فی صفتہ کا اشکال ہو، تو منی آرڈر میں بھی ہے۔ پس فنڈ سے روپے لینے میں دو معاملے ہیں۔ ایک رہن بالقرض یا قرض بالرہن، اس کا تعلق روپے سے ہے، اور شیء عمر ہون زیرو غیرہ سے ہے۔ دوسرا معاملہ بیع ہے، اس کا تعلق کا نہ فارم معاہدہ نامہ سے ہے، دونوں معاملے الگ الگ درست ہیں، پس مجموعہ بھی درست ہے، (غیر سودی بینکاری ۷۰۷)

**آقوال! اولاً:** یہاں معمود علیہ جداجدا ہیں اور اجارہ میں ایک ہے۔

**ثانیاً:** یہاں منی آرڈر کا فارم جو خریدا جاتا ہے اس کے ساتھ قرض کا معاملہ متعلق نہیں ہے کہ جو بھی یہ فارم خریدے وہ ضرور قرض بھی دے اگر کوئی یہ فارم خریدے اور قرض نہ دے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ یہاں صفتہ فی صفتہ تب ہوتا کہ قرض دینے والا قرض دینے کو کسی دوسرے معاملے پر متعلق کرتا کہ میں قرض دیتا ہوں اس شرط پر کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یا فارم بیچنے والا کہتا کہ میں آپ کو اتنے روپے میں یہ فارم اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ اتنے روپے قرض دیں یا فلاں معاملہ کریں.....

بجکہ منی آرڈر کے معاملے میں یہ دونوں صورتیں نہیں، لہذا اس کو اور اجارہ کو ایک فرادری دنست نہیں۔ دیکھئے اجارہ میں مستأجر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ گاڑی اتنے کرائے پر لیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ بالآخر قلیل عوض میں پیچو گے یا مفت ہبہ کرو گے..... اور یہ صفتہ فی صفتہ ہے.....

**الحاصل :** بنوری ٹاؤن کی کتاب میں جو صفتہ فی صفتہ کا اعتراض کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے۔

## (۹) ﴿اجارہ اور اس میں مرمت کی شرط﴾

**﴿اجارہ﴾** اجارہ بنوکیہ کی اجازت بقول حضرت مدظلہ کے چار شرائط سے دی گئی ہے۔ ان شرائط کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں:

”ان شرائط کے ساتھ اجارہ ہوتا شاید اس کے جواز میں اہل فتویٰ کی دو

راہیں نہ ہوں“، (غیرسودی بینکاری) (۲۳۰)

**آقول ! اولاً:** اس اجارہ پر اشکال یہ ہے کہ گاہک اس کو اجارہ سمجھ کر عقد نہیں کرتا، بلکہ بعیش سمجھ کر عقد کرتا ہے۔ اور عقد کرنے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ بھی مملوک شیء کی طرح کرتا ہے، کہیں گفتگو ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بینک سے گاہڑی خریدی ہے، بسا اوقات آگے دوسرے کو بیچ بھی دیتا ہے..... بہر حال سوال یہ ہے کہ گاہک کے ذہن میں بوقت عقد یہ تصور کہ میں اجارہ اور کرایہ پر گاہڑی لے رہا ہوں، خریدتا نہیں ہوں، ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو پھر یہ اجارہ کیونکر صحیح ہوگا؟

**ثانیاً:** حضرت نے جن شرائط کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی کلام سے خالی نہیں ہیں۔ آگے تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے گا۔

”شرط (۱): مالیاتی ادارہ جو گاہڑی کرایہ پر دے رہا ہے کرایہ داری کی مدت کے دوران گاہڑی کے مالک کی حیثیت سے وہ ملکیت کی پوری ذمہ داری اٹھائے یعنی اگر وہ گاہڑی گاہک کی کسی غفلت یا تعدی کے بغیر تباہ ہو جائے تو نقصان بینک کا ہو،“ (غیرسودی بیکاری ۲۳۹)

**آقول !** اگر غور کر کے حقیقت کو دیکھا جائے تو بینک کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ بینک یہ نقصان ”تکافل“ سے وصول کرتا ہے اور تکافل میں جتنی رقم جمع کرائی جاتی ہے اس کو اصل قیمت سے ملا کر گاہک سے مع نفع قسط دار وصول کیا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ بینک پوری گاہڑی کا ذمہ دار ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا، الفاظ میں لکھنا اور زبان سے کہنا دوسری بات ہے۔

لکھتے ہیں:

”یہ درست ہے کہ غیرسودی بینک تکافل کے تحت اس نقصان سے بقدر

امکان تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا تحفظ  
ہر مالک حاصل کر سکتا ہے اس سے اُس کے ضمناً کی نفعی نہیں ہوتی،“

(غیر سودی بینکاری ۲۳۱)

**آقول!** الفاظ میں تو ضمناً کی نفعی نہیں ہو سکتی لیکن حقیقت میں تو ہے، کیونکہ جب بتکافل  
کی رقم بھی بینک گاڑی کی قیمت میں ملا کر مجموعہ مع منافع گاہک سے وصول کرتا ہے تو ضمناً  
حقیقت میں گاہک کے ذمہ آگیا..... ہاں! اگر بتکافل کی رقم بینک گاڑی کی قیمت میں نہیں  
ملا تا تو پھر یہ بات ظاہر اور باطن اہر اعتبار سے درست ہے، لیکن اذ لیس فلیس؛  
یہ بھی فرماتے ہیں:

”اور بتکافل کے ذریعے ہر نقصان کی پوری تلافی ہو بھی نہیں سکتی اور بعض  
اوقات بتکافل کے ادارے ناکام بھی ہو جاتے ہیں ان ساری صورتوں میں  
نقصان بینک ہی کو اٹھانا پڑتا ہے (غیر سودی بینکاری ۲۳۱)

**آقول!** یہ احتمالات بعیدہ ہیں جن کا اصل حقیقت پر کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ الحاصل  
یہ کہنا کہ بینک ذمہ داری اٹھاتا ہے صرف الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، حقیقت اس کے بالکل  
خلاف ہے۔

”شرط (۲): گاڑی کے بنیادی طور پر قبل اتفاق ہونے کے لئے جتنی  
مرمت کی ضرورت ہے، اس کے اخراجات بینک کے ذمہ ہوں“  
(غیر سودی بینکاری ۲۳۰)

**آقول!** ”بنیادی“ لفظ سے بعض ضروری پرزوں سے جان چھڑانا مقصود ہے ورنہ  
صاف الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ جن پرزوں کا کراچی لیا جا رہا ہے ان کی مرمت وغیرہ بینک

کے ذمہ ہو۔ کیا ثائر، پلگ، بیٹری وغیرہ کی مرمت کی ضرورت گاڑی کے بنیادی طور پر قبل اتفاق ہونے کے لئے نہیں؟ یہ بنیادی اور غیر بنیادی کا فرق اور اس کی تفصیل اور حکم کا فرق کس کتاب میں ہے؟

”شرط (۳)“: اجارہ کے عقد میں یہ شرط نہ ہو کہ مدت اجارہ کے بعد یہ

گاڑی مستاجر کو بچ دی جائے گی، یا ہبہ کردی جائے گی، (حوالہ بالا)

**آقول!** ”المعروف کالمشروط“ کے قاعدہ کے مطابق یہ شرط ہے۔ اگر بینک میں ہمت ہے تو ذرا اردو میں صاف لکھ کر گاہک کو بتا دے کہ اتنے سالوں کے بعد ہم گاڑی واپس لے لیں گے۔ ہم آپ کو دینے کے پابند نہیں اور کم از کم ایک آدھ مرتبہ اس پر عمل بھی کریں، دیکھیے کیا ہوتا ہے؟

﴿مرمت کی شرط﴾ گاڑی کے اجارہ میں بینک پلگ، ٹیونگ، ثائر، بیٹری اور سروں وغیرہ اخراجات مستاجر پر ڈالتا ہے۔

اس کے جواز کو جن عبارات سے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ ان سے بجائے جواز کے عدم جواز ہی ثابت ہوتا ہے، تفصیل ملاحظہ فرمائیں: پہلی عبارت جو نقل فرمائی ہے وہ زمین کے اجارے سے متعلق ہے اس عبارت سے پہلے حضرت مذکون نے ایک قانون بیان فرمایا ہے کہ

”موجر مستاجر پر کسی ایسے عمل کی شرط عائد نہیں کر سکتا جس کا اثر مدت اجارہ

ختم ہونے کے بعد بھی معتمد ہے طور پر باقی رہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے

کہ وہ اجارے میں ایسی شرط عائد کر رہا ہے جس کا فائدہ اجارہ ختم ہونے

کے بعد وہ خود اٹھائے گا۔ مثلاً کوئی شخص زمین دیتے وقت یہ شرط عائد

کرے کے اس میں کوئی ایسی عمارت یا چارڈ یا واری بنادو جو بعد میں بھی باقی رہے، (غیر سودی بینکاری ص ۲۵۸)

اور زمین کے اجارے سے متعلق یہ عبارات فقه نقل فرمائی ہیں: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں ہے:

(و ان شرط أن يشيها أو يكرى أنهارها أو يسرقها أو يزرعها  
بزراعة أرض أخرى لا كاجار-ة السكنى بالسكنى ) لأن أثر  
الثنية و كرى الأنهر و السرقة يبقى بعد انقضاء مدة الاجارة  
فيكون فيه نفع صاحب الأرض و هو شرط لا يقتضيه العقد  
فيفسد كالبيع، و لأن مؤجر الأرض يصيير مستأجرًا منافع الأجير  
على وجه يبقى بعد المدة فيصيير صفقة في صفقة و هو مفسد  
أيضاً لكونه منهياً عنه حتى لو كان بحيث لا يبقى لفعله أثر بعد  
المدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الريع لا يحصل إلا به لا  
يفسد اشتراطه، لأنه مما يقتضيه العقد؛ لأن من الأراضي ما لا  
يخرج الريع إلا بالكراب مواراً وبالسرقة، وقد يحتاج إلى  
كري الجداول و لا يبقى أثره إلى القابل عادة، بخلاف كري  
الأنهر، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة، و في لفظ الكتاب اشارة  
إليه حيث قال : كري الانهر، لأن مطلقه يتناول الأنهر العظام  
دون الجداول و استئجار الأرض ليزرعها بأرض أخرى ليزرعها  
الآخر يكون بيع الشيء بجنسه نسيئة و هو حرام لما عرف في  
موقعه و كذا السكنى بالسكنى أو الركوب بالركوب إلى غير  
ذلك من المنافع(باب الاجارة الفاسدة ج ۲ ص ۱۳۱ ط سعید)

﴿(موجرنے) اگر یہ شرط لگائی کہ (متاجر) اس زمین کو جو تے گایا اس میں نہر کھودے گا یا کسی دوسری زمین کے بدلتے میں اس میں کھیتی باڑی کرے گا تو یہ جائز نہیں جس طرح کہ گھر میں رہائش کا کراپر رہائش ہی کے ذریعے سے وصول کرنے کی شرط ناجائز ہے اس لئے کہ زمین جو تے نہر کھوں نے اور کھادڑا لئے کا اثر مدتِ اجارہ کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جس میں مالکِ زمین (موجر) کے لئے نفع ہے اور یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضہ نہیں کرتا لہذا بعج کے فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی فاسد ہوگی۔ اور اس لئے کہ زمین اجارہ پر دینے والا بن جائے گا جو مدتِ اجارہ گزرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، لہذا یہ عقد در عقد ہے جو کہ مفسد عقد ہے اس لئے کہ اس طرح عقد کرنا منوع ہے۔ ہاں اگر ایسا عمل ہو جس کا اثر مدتِ اجارہ گزرنے کے بعد باقی نہ رہے اس طور پر کہ مدت ہی لمبی ہو یا اس کی نشوونما اسی سے حاصل ہوتی ہو تو پھر اس کی شرط لگانا مفسد عقد نہیں ہو گا اس لئے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا عقد تقاضہ کرتا ہے کیونکہ بعض زمینوں کی پیداوار بار بار پانی دینے اور کھادڑا لے بغیر نہیں لکھتی اور با اوقات چھوٹے نالوں کے کھوں نے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اثر عموماً سال تک باقی نہیں رہتا برخلاف نہر کھوں نے کے کیوں کہ اس کا اثر سال تک باقی رہتا ہے، اور کتاب کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ (مصنف) نے فرمایا (نہروں کی کھدائی) مطلقاً ذکر کرنا بڑے نہروں کو تو شامل ہو سکتا ہے، نالوں کو نہیں اور زمین خود زراعت کے لئے اجارہ پر لینا اور اسکے

بدلے میں دوسری زمین دیانتا کہ دوسرا اس میں زراعت کرے یہ چیز کو ہم جنس کے بدلے ادھار پر فروخت کرنا ہے جو کہ حرام ہے جس کی بحث اپنی گلہ پر معلوم ہو چکی ہے، اسی طرح رہائش کے بدلے یا سواری کا سواری کے بدلے، اس جیسی اور بہت سارے منافع کا اجارہ کرنا ॥  
اور رد المحتار میں ہے:

(قوله : بشرط أن يشيها) فی القاموس : ثناه تشنية: جعله اثنين اه و هو على حذف مضاف أى يشى حرثها، و في المنح : ان كان المراد أن يردها مكروبة فلا شک في فساده ، و الا فان كانت الأرض لا تخرج الربع الا بالكراب مرتين لا يفسد ، و ان مما تخرج بدونه ، فان كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد ، لأن فيه منفعة لرب الأرض و الا فلا اه ملخصاً، و ذكر في التماريخ عن شيخ الاسلام ما حاصله : أن الفساد فيما اذا شرط ردها مكروبة بكراب يكون في مدة الاجارة، أما اذا قال : على أن تكربها بعد مضي المدة أو أطلق، صح و انصرف الى الكراب بعده، قال : و في الصغرى : و استفادنا هذا التفصيل من جهةه و به يفتى اه

قلت : و وجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة ، تأمل .

(قوله : أن يحرثها) فالحرث هو الكرب و هو اثاره الأرض للزراعة كالكراب، قاموس. (قوله : أن يكرى) من باب رمي : أى يحفر . (قوله: العظام) لأن أثره يبقى الى القابل عادةً، بخلاف الجداول أى الصغار فلا تفسد بشرط كربها، هو الصحيح ، ابن

کمال۔ (قوله: او یسرقنا) اُی یضع فیها السرقوین و هو الزبل لتهییج الزرع ط۔ (قوله: فلو لم تبق) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد، لأنَّه لنفع المستأجر فقط، (رد المحتار، باب الاجارة الفاسدة، ج ۶ ص ۵۹، ۵۰، ۲۰، ط: ایچ ایم سعید)

﴿مُنْحَ مِنْ هِيَ كَأَنْ مَرَادِيْهِ كَوَدَه (مساً جر) اس کو جوتا ہوا واپس کرے گا تو اس کے فساد میں کوئی شک نہیں ورنہ اگر زمین ایسی ہو کہ پیداوار دو دفعہ جو تے بغیر نہیں نکلتی تو نفع فاسد نہ ہو گی اور بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پیداوار بغیر جوتے نکال سکتی ہوا اور پھر اس کا اثر عقدِ اجارہ تک باقی رہتا ہو تو یہ عقد فاسد ہو گا اس لئے کہ اس میں مالک زمین کا نفع ہے، اور اگر باقی نہیں رہتا تو پھر ناجائز نہیں۔ تاریخانہ میں شیخ الاسلام سے منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ فساد اس صورت میں ہے کہ جب زمین کو جوتا ہوا واپس کرنے کی شرط مدتِ اجارہ کے اندر ہو۔

بہر حال اگر یہ کہے کہ اس شرط پر اجارہ کے لئے دیتا ہوں کہ مدتِ اجارہ گزرنے کے بعد تو اس کو جوتے گا، یا مطلق ذکر کرے تو یہ صحیح ہے اور اس کے اطلاق کو مدتِ اجارہ گزرنے کے بعد جوتے کی طرف پھیرا جائے گا..... (قولہ العظام) اس لئے کہ اس کا اثر عادتاً سال تک باقی رہتا ہے برخلاف چھوٹے قسم کے نالوں کے، صحیح قول یہ ہے کہ جوتے کی شرط لگانے سے اجارہ فاسد نہیں ہوتا، ابن کمال..... (قولہ: اگر باقی نہ رہے) اس طرح کہ مدتِ لمبی ہو تو فاسد نہ ہو گا کیونکہ یہ مستأجر کے نفع کے لئے ہے ﴿

اور درختار میں ہے:

”و صحت لو استأجرها على أن يكربها و يزرعها أو يسقيها و

يزرعها) لأنه شرط يقتضيه العقد“

اس کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”قوله : لأنه شرط يقتضيه العقد) لأن نفعه للمستأجر فقط“

(ایضاً ج ۶ ص ۶۰)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”حاصل یہ ہے کہ اگر مستأجر پر عین موجہ کے استعمال کے سلسلے میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس کا فائدہ مستأجر ہی کو پہنچے اور اس کا معتدبہ اثر اجارہ ختم ہونے کے بعد باقی نہ رہے تو ایسی شرط جائز ہے“

(غیرسودی بینکاری / ۲۶۱)

الحاصل حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ وہ چھوٹی مولیٰ مرمت جس کا تعلق استعمال سے ہے اور اس کا فائدہ مستأجر کو ہی حاصل ہوتا ہے مستأجر کے ذمہ لگانا جائز ہے۔

آقوٰ! حضرت نے زمین کے اجارے سے متعلق جو عبارات اس قانون کے ثبوت کے لئے نقل فرمائی ہیں، بقول خود اگر اس عبارت پڑھنڈے دل سے غور کیا جائے تو آپ مدظلہ کے بیان کردہ قانون کے خلاف، یہ قانون مستبط ہوتا ہے کہ شیء موجہ سے مستأجر کو استفادہ اور نفع حاصل کرنے کے لئے شیء موجہ کے علاوہ مزید جن چیزوں اور امور کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ان امور کا فائدہ صرف مستأجر کو حاصل ہو۔

حکم: وہ مستأجر کے ذمہ ہیں اور اگر موجہ نے مستأجر کے ذمہ شرطاً بھی ان کو ذکر کیا تو

بھی جائز ہے کیونکہ یہ مقتضائے عقد کے موافق اور ملائم ہیں۔

قال العلامہ الشلبی رحمہ اللہ تعالیٰ فی حاشیتہ علی التبیین:

قوله : (لأن أثرا التشنية و كرى الأنهرالخ) والأصل هنا أن ما كان ملائماً للعقد لا يكون مفسداً له ثم بعد ذلك نقول : إنما تستأجر الأراضي لمنفعة المستأجر خاصة فكل فعل ينفع به المستأجر خاصة كالكراب و الزراعة و السقي يكون ملائماً للعقد (تبیین الحقائق، کتاب الاجارة، باب الاجارة الفاسدة ۲ /

۱۳۱ ط سعید)

(۲) وہ امور جن کا فائدہ مستأجر اور موجر دونوں کو حاصل ہو۔

حکم: ان کی شرط لگانا جائز نہیں، کیونکہ جو چیز مستأجر کے نفع کے لئے دی گئی ہو اس سے مستأجر کا نفع تو مقتضائے عقد کے موافق ہے لیکن موجر کا اس سے نفع حاصل کرنا، دو وہیوں سے مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔

(۱) ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ فی صدقہ کو تسلیم ہے، کیونکہ یہ موجر مستأجر کے عمل سے نفع حاصل کر کے گویا مستأجر کا مستأجر بن کر اس کے منافع کو خرید رہا ہے۔ کما صرح فی تبیین الحقائق :

قال الامام الزیلی عی رحمہ اللہ تعالیٰ: (و ان شرط أن يشيها أو يكرى أنهارها أو يسرق منها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كاجارة السكنى بالسكنى) لأن أثرا التشنية و كرى الأنهر و السرقنة يبقى بعد انقضاء مدة الاجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع، وأن مؤجر

الأرض يصير مستأجرًا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقة في صفقة وهو مفسد أيضًا لكونه منهيا عنه حتى لو كان بحيث لا يبقى لفعله أثر بعد المدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الريع لا يحصل إلا به لا يفسد اشتراطه، لأنه مما يقتضيه العقد؛ لأن من الأراضي ما لا يخرج الريع إلا بالكراب مراراً وبالسرقة، وقد يحتاج إلى كرى الجداول و لا يبقى أثره إلى القابل عادة، بخلاف كرى الأنهر، لأن أثره يبقى إلى القابل عادة (تبين الحقائق، كتاب الاجارة، باب الاجارة الفاسدة ٦ /

(١٣١)

(٢) دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں احمد العاقدين کا نفع ہے، اور یہ بھی مفسد عقد ہے۔

قال الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى: (و ان شرط أن يشيهها أو يكرى أنهارها أو يسرقها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كاجارة السكني بالسكنى ) لأن أثر الشنوية و كرى الأنهر و السرقة يبقى بعد انقضاء مدة الاجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع ،

وقال العلامة الشلبى رحمه الله تعالى : و كل فعل ينتفع به المؤجر خاصة يكون مخالفًا للعقد مفسدا له كشرط ابقاء السرقين و رد الأرض مكروبة وهو أحد تأویل الشنوية و تكرار الكراب وهو التأویل الآخر في الشنوية ، قال الصدر الشهید فى شرح الجامع الصغير : أما الشنوية و هي أن يردها مكروبة عند البعض و أن يكربها مرتين عند البعض و هو الصحيح فلأنه شرط

لا يقتضيه العقد و لأحد المتعاقدين فيه منفعة فصار مفسداً له

اتفاقی مع حذف (تبیین الحقائق، کتاب الاجارة، باب الاجارة

الفاسدة ۲ / ۱۳۱)

چونکہ مستأجرنے زراعت کے لئے جو زمین کرایہ پر لی ہے وہ ایسی زمین ہے جس میں چھوٹی نالیاں وغیرہ نہیں ہیں اور صاحب ارض ان نالیوں کا کرایہ وصول نہیں کرتا اس لئے زمین سے استفادہ کے لئے اگر زمین (موجر) کے علاوہ نالیوں اور منڈریوں کی ضرورت ہوگی تو وہ مستأجرنی کے ذمہ ہو گا کیونکہ موجر نہ تو ان کا کرایہ لیتا ہے اور نہ اس کو ان کی ضرورت ہے۔

البتہ اگر زمین میں پہلے سے چھوٹی نالیاں اور منڈریوں وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور موجر زمین کے ساتھ ان کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے تو پھر ان کی مرمت وغیرہ بھی موجر ہی کے ذمہ ہوگی۔ بڑی نہر کا چونکہ زمین کے ساتھ، موجر کرایہ لے رہا ہے اس وجہ سے اس کی کھدائی مستأجرن کے ذمہ لگانا درست نہیں، یہی وجہ ہے کہ نہری زمین کا کرایہ بحسب غیر نہری زمین کے زیادہ ہوتا ہے۔

الى اصل ان پیش کردہ عبارات کا مسئلہ زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مسئلہ زیر بحث میں موجر بعض ان پرزوں کی مرمت کا خرچ اور ان کو قابل اتفاق بنا نے کی ذمہ داری مستأجرن پڑالتا ہے جن کا وہ کرایہ بھی وصول کرتا ہے۔ جبکہ اس کا حکم مستقل طور پر فقه کے اندر موجود ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ شیء موجر جس کا کرایہ اور اجرت موجر وصول کرتا ہے، اس کو قابل اتفاق بنا نا موجر ہی کے ذمہ ہے، اس کا مستأجرن کے ذمہ شرط لگانا مقتضائے عقد کے خلاف اور مفسد ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: (تفسد الاجارة

بالشروط المخالفة لمقتضى العقد ..... و كشرط

مرمة الدار أو مغارتها

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى : قوله : ( و مرمة الدار أو مغارتها ) قال في البحر : وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل : لو استأجر داراً على أن يعمرها و يعطي نوائبيها تفسد ، لأن شرط مخالف لمقتضى العقد أهـ فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من اجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم و كلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى أهـ

أقول : وهو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من النوائب و نحوها كالدك و كرى الأنهر على المستأجر ، وتارة يقول : و توافقاً على أن ما ينوب الخـ . و الظاهر : أن الكل مفسد ؛ لأنه معروف بينهم و ان لم يذكر ، و المعروف كالمشروعـ . تأمل ( الشامية ٩ / ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ط رشيدية )

وقال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى : ( و ) تفسد ( بجهالة المسمى ) كلـه أو بعضـه كتسمـية ثوب أو دابة أو مائـة درـهم على أن يرمـها المستـأجر لصـيرورة المرـمة من الأـجرة فيـصير الأـجر مجـهولاً .....

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى : قوله : ( كـتسمـية ثـوب أو دـابة ) مـثال لـمجـهولـ الكلـ و ما بـعدهـ مـثالـ مجـهـولـ البعضـ و

یلزم من جهالة الكل ، فصح قوله بعد : فيصير الأجر مجهولا ؛  
 قوله : (لصيرورة المرمة) أى : نفقتها (الشامية ٩ / ٨٠ رشیدیة)  
 وقال العلامہ الحصکفی رحمہم اللہ تعالیٰ : و فی التبیین : لو  
 انقطع ماء الرحی و البت مما ینتفع به لغیر الطحن فعلیه من  
 الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه ، فاذا استوفاه لزمه  
 حصته (فإن لم يدخل به أو أزاله المؤجر) أو انتفع بالمخلف (سقطر خیارہ) لزوال السبب .

(و عمارة الدار) المستأجرة (و تطیینها و اصلاح المیزاب و ما  
 کان من البناء على رب الدار) و كذلك ما یدخل بالسكنی (فإن  
 أبی صاحبها) أن یفعل (كان للمستأجر أن یخرج منه الا أن  
 یكون) المستأجر (استأجرها و هي كذلك وقد رآها) للرضاه  
 بالعیب (الشامية ٩ / ١٣٣ ط رشیدیة)

## ﴿مندرجہ بالاعبارات سے مستنبط قانون کا حاصل﴾

ان عبارات سے جو قانون مستنبط ہوا، اس کا حاصل یہ ہے کہ شیء موخر کے جن اجزاء کا  
 کرایہ موخر لیتا ہے ان پر اگر شیء موخر سے نفع حاصل کرنا موقوف ہوگا تو وہ موخر ہی کے ذمہ  
 ہیں اور جن چیزوں کا کرایہ موخر نہیں لیتا اور شیء موخر سے اتفاق ان پر بھی موقوف ہے تو وہ  
 مستأجر ہی کے ذمہ ہونگے، اصلاً بھی اور اگر شرط لگائی گئی تو شرعاً بھی۔

اس قانون کے پیش نظر اب گاڑی پر غور کیجیے، مستأجر کے ذمہ گاڑی کے تمام پرزوں کا  
 کرایہ ہے یا بعض کا؟ ظاہر ہے کہ کرایہ صرف باڑی کا نہیں بلکہ چالو گاڑی کا ہے جس کا پلگ  
 بھی صحیح ہے، ٹینگ کی ضرورت بھی نہیں، تاڑ بھی صحیح ہیں، رنگ روغن اور باڑی کا شیپ بھی

درست ہے، بیٹری بھی نئی اور کام کر رہی ہے لہذا یہاں گاڑی کے اجارہ میں مستأجراً بھن کے تمام پرزوں کی اجرت دے رہا ہے۔ پلگ کا کرایہ، بھن کی اچھی حالت کا کرایہ، ٹائروں کا کرایہ اور بیٹری وغیرہ تمام چیزوں کا کرایہ دے رہا ہے لہذا ان سب کی مرمت اور تبدیلی کی ذمہ داری موجر پر ہوگی۔ البتہ جن چیزوں کا کرایہ نہیں اور مستأجراً جرن فح حاصل کرنے کے لئے ان کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ مستأجراً ہی کے ذمہ ہونگے۔

الحاصل قانون اجارہ کے مطابق چونکہ ٹائر، بیٹری، پلگ، اور بھن کو قوت پر لانے کے لئے ٹیونگک وغیرہ اخراجات سب شرعاً بینک کے ذمہ ہیں ان کو مستأجراً جر کے ذمہ لگانا قانون اجارہ کے خلاف اور مفسد عقد ہے اور بنوی ٹاؤن کا فتویٰ درست ہے۔

﴿حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ کے قانون کا توڑ خود حضرت کی پیش کردہ دوسری عبارت سے﴾ آگے گدھ کے چارے اور غلام کے کھانے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مستأجراً جر کے ذمہ ہیں یا نہیں؟ اور شیخ ابواللیث سرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تعامل کی وجہ سے اس کو مستأجراً جر کے ذمہ ٹھہرایا ہے پھر علامہ طحطاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کا علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جواب نقل فرمایا ہے اور گدھ کے چارے سے متعلق طویل المیعاد اجارہ میں اس کا چارہ مستأجراً جر کے ذمہ لگایا ہے اور اس پر مبسوط کی عبارت سے استدلال فرمایا ہے۔ (ملخصاً غیر سودی بینکاری ۲۶۱، ۲۶۲)

**آقؤل!** اس تفصیل سے اولاً: تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مدظلہ نے جو قانون (اگر مستأجراً پر عین موجہ کے استعمال کے سلسلے میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس کا فائدہ مستأجراً جر ہی کو پہنچ اور اس کا معنید بے اثر اجارہ ختم ہونے کے بعد باقی نہ رہے تو ایسی شرط جائز ہے) بیان فرمایا ہے وہ صحیح نہیں، ورنہ اس قانون کے مطابق چارہ اور کھانا دونوں بدون تعامل بھی

متاجر کے ذمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس چارہ اور کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی اس سے متاجر ہی فائدہ اٹھائے گا نہ کہ موجر۔

**ثانیاً:** مدتِ اجارة ختم ہونے کے بعد بھی اس مرمت کا اثر باقی رہتا ہے۔ گاڑی ان تمام پرزوں اور ٹائروں سے چلتی ہے جو متاجر نے مدتِ اجارة میں تبدیل کئے تھے یا ان کی مرمت کی تھی۔ اس لحاظ سے بھی یہ شرط جائز نہیں ہونی چاہئے۔

**ثالثاً:** مبسوط کی عبارت سے بھی استدلال صحیح نہیں بلکہ عرف و عادت کے پیش نظر اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چارہ موجر ہی کے ذمہ ہے اور ان کا جلدی کرنے کا تقاضا اس وجہ سے نہیں کہ چارہ پھر جانچ دیں گے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ کراچی لو ہو جائے گا، جیسے ٹیکسی کو رنگی دار العلوم سے چڑا چورنگی تک خالی آنے کی صورت میں اس کا مالک کہتا ہے کہ پڑول ضائع ہوا، اگر سواری بٹھاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ پڑول ضائع ہوا، اگر چہ یہ ٹیکسیاں سواری سے پڑول کے الگ پیسے نہیں لیتے۔ اسی طرح گدھوں کے مالک بھی کراچی چالو ہونے پر یہ کہتے کہ ہم سے چارے کا بوجھ ساقط ہو گیا۔ جس طرح یہ ٹیکسیاں پڑول کے پیسے کراچی میں محسوب کرتے ہیں وہ لوگ بھی محسوب کرتے ہوں گے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حیله صراحةً درج ذیل عبارت میں تحریر فرمایا ہے جو ہماری بات کی واضح موئید ہے۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ: (تفسد الاجارة

بالشروط المخالفۃ لمقتضی العقد فکل ما أفسد البيع) مما مر

(یفسدہا) کجهالة مأجور أو أحقرة أو مدة أو عمل، و كشرط

طعام عبد و علف دابة و مرمة الدار أو مغارتها و عشر أو خراج

أو مؤنة رد. أشباه .....

وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى: قوله : ( كشرط طعام عبد و علف دابة) في الظهيرية : استأجر عبداً أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث : في الدابة تأخذ بقول المتقدمين ، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اهـ قال الحموي : أى : فيصح اشتراطه . و اعترضه ط بقوله : فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط و منه بشرط اهـ .

أقول : المعروف كالمشروع ، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعرّف في الدابة ذلك يجوز ، تأمل . و الحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفة إليها ، ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك و يأمره بالإنفاق فيصير أميناً ، بزاية ملخصاً .

وقال العلامة الرفعي رحمه الله تعالى : قوله : ( المعروف كالمشروع الخ ) أى فيفسد العقد و ان لم يصرح بهذا الشرط ، لأنّه بمتنزّلة المنصوص عليه ، وهو لا يقتضيه العقد خصوصاً مع جهة مقدار ما يأكل العبد و جنسه لكن هذا حينئذ مخالف لكلام الفقيه بالكلية ، فإن مقتضاه جواز الاجارة في العبد لا الدابة و لعل وجه الجواز فيه مع الجهة في علفه أنها لا تفضي إلى المنازعات بسبب أنه يأكل من مال المستأجر عادة كما يشير إليه قوله : أما في زماننا الخ ، فتكون مثل استئجار الظهر بطعمها . ( الشامية ٩ / ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ط رشيدية )

الاصل اصل قانون یہی ہے کہ جن پر زوں کامستا جر کرایہ ادا کرتا ہے ان کی مرمت وغیرہ موجہ کے ذمہ ہے اور جن کا کرایہ ادا نہیں کرتا وہ مستا جر کے ذمہ ہیں۔

## (۱۰) اجرت اور کرایہ کا مجہول ہونا

لکھتے ہیں:

”.....البتہ بڑے تجارتی اداروں کو جو مشینری وغیرہ کرایہ پر دی جاتی

ہیں اس میں پہلی مدت کا کرایہ تو لگی بندھی رقم کی صورت میں معین ہوتا

ہے، لیکن بعد کی مدتوں میں اس میں ایک خاص تناسب سے اضافہ ہوتا

رہتا ہے.....(غیرسودی بینکاری) (۲۶۵)

(آگے لکھتے ہیں)

”.....دوسری صورت یہ ہے کہ ہر سال اجرت میں دس یا پندرہ فی صد

اضافہ کرنا طے کر لیا جائے۔ بڑے تجارتی ادارے اگر پینک سے کوئی مشینر

ی وغیرہ اجارے پر لیتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہی طریقہ اختیار کیا

جاتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ پہلی مدت اجارہ کا تعین تو ایک لگی بندھی

رقم سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اجرت کو کسی معیار (benchmark)

سے مسلک کیا جاتا ہے اور یہ درست ہے کہ یہ معیار وہ شرح سود و شرح

منافع ہوتی ہے جس پر پینک آپس میں لین دین کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی

عقد میں یہ مذکور ہوتا ہے کہ اگر یہ شرح ابتدائی اجرت سے پندرہ فی صد

زیادہ بڑھ گئی تو اضافہ پندرہ فی صد سے زیادہ نہیں ہو گا“

(غیرسودی بینکاری) (۲۶۶)

**آقوال ! اولاً:** عقد اجارہ اور عقد بیع کے تام ہونے کے بعد اجرت اور شمن میں اضافہ اور کمی کا قانون پیش کیا جاتا ہے۔

ٹھانیاً: اس کے جواز کی بحث و میل پیش کی گئی ہے، اس کا بطلان اور رد۔

**﴿عقد بیع و اجارہ کے مکمل ہونے کے بعد شمن و اجرت میں کمی اور بیشی کا قانون﴾**

قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ بیع میں مشتری اور اجارہ میں مستاجر اپنی رضائے تام سے بدول کسی شرط اور دباؤ کے شمن اور اجرت میں اضافہ کر سکتا ہے، البته کمی نہیں کر سکتا۔ اور باعث اور موجہ شمن اور کرایہ میں کمی کر سکتے ہیں، البته زیادتی اور اضافہ نہیں کر سکتے، ہاں ! بیع اور شمن اور کرایہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

قال الامام المرغینانی رحمه اللہ تعالیٰ : و يجوز للمشتري أن

يزيدي للبائع في الشمن و يجوز للبائع أن يزيد في المبيع و يجوز أن

يحط عن الشمن و يتعلق الاستحقاق بجميع ذلك . فالزيادة و

الحط يتحققان بأصل العقد عندنا (الهدایة ۳ / ۸۰ ط رحمانیة)

**﴿علامہ مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خریدار کے لئے جائز ہے کہ باع کو شمن میں زیادتی کرے اور باع کے لئے بیع میں زیادتی جائز ہے اور شمن سے کم کرنا بھی جائز ہے..... لہذا زیادتی اور کمی ہمارے نزدیک اصل عقد کے ساتھ ملیں گے﴾**

قال في الهندية : الزيادة في الشمن و المشمن جائزة حال قيامهما

سواء كانت الزيادة من جنس الشمن أو غير جنسه ، وتتحقق

بأصل العقد . ولو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر اذا امتنع . و

في الرد بالعيوب وغيره تعتبر الزيادة كأنه باعه مع هذه الزيادة ،

و اذا زاد في الشمن لا بد أن يقبل الآخر في المجلس حتى لو لم يقبل و تفرقا بطلت ، كذا في الخلاصة (الهندية ۳ / ۱۷۱)

﴿ہندیہ میں ہے، شمن اور بیج میں زیادتی اس وقت تک جائز ہے جب تک یہ دونوں قائم ہوں خواہ وہ زیادتی شمن کی جنس سے ہو یا غیر جنس سے اور یہ زیادتی اصل عقد سے مل جائے گی، اگر مشتری زیادہ دینے کے بعد نادم ہو گیا تو جب وہ اس زیادتی کی ادائیگی نہ کرے تو اس پر جر کیا جائیگا اور عیب وغیرہ کی وجہ سے لوٹانے میں بھی اس زیادتی کا اعتبار ہو گا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بیع گویا اس زیادتی کی ساتھ کی گئی ہے اور جب شمن میں زیادتی کرے تو دوسرے کے لئے مجلس میں قبول کرنا ضروری ہے اگر قبول نہ کیا اور دونوں جدا ہو گئے (مجلس بدل گئی) تو یہ زیادتی باطل ہو جائے گی، خلاصہ میں اسی طرح لکھا ہے﴾

وقال في الهندية : و اذا زاد الاجر أو المستأجر في المعقود عليه أو في المعقود به ان كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة سواء كانت من الاجر أو من المستأجر و ان كانت معلومة من جانب الاجر تجوز سواء كانت من جنس ما آجر أو من خلاف جنس ما آجر فان كانت من جانب المستأجر ان كانت من جنس ما استأجر لا يجوز و ان كانت من خلاف جنس ما استأجر يجوز ، كذا في الذخیره (الهندية ۲ / ۳۳۹)

﴿ہندیہ میں ہے اجرت پر دینے والا یا لینے والا اگر معمود علیہ یا اس کی اجرت میں زیادتی کرے اور یہ مجبول ہو تو جائز نہیں، خواہ اجارے پر دینے

والے کی طرف سے ہو یا لینے والے کی طرف سے، اور اگر اجرت پر دینے والے کی طرف سے زیادتی معلوم ہو تو جائز ہے خواہ وہ اس چیز کی جنس سے ہو جو اس نے اجرت پر دی ہے یا اس کے خلاف جنس سے ہو، اور اگر متاثر جر (اجرت پر لینے والے) کی طرف سے ہو تو پھر وہ اگر شی متنا جر کی جنس سے ہے تو جائز نہیں، خلاف جنس سے ہے تو جائز ہے.....

### چند جزئیات کا حکم :

اس قانون کے پیش نظر چند جزئیات کا حکم سمجھنا قانون کے سمجھنے اور اس تاویل کے باطلان کو سمجھنے میں معاون اور مدد ہو سکتا ہے۔ اس لئے ذیل میں چند جزئیات اور ان کا حکم ملاحظہ فرمائیے:

(۱) زید نے دو من گندم بکر پر ایک ہزار روپے میں فروخت کی، عقد کے تام ہونے کے بعد زید بائع نے ثمن میں سے سوروپے اپنی خوشی سے کم کئے اور کہا کہ بجائے ہزار کے نوسو روپے دے دو، یا بیچ یعنی گندم میں پانچ دس کلو کا اضافہ کر کے کہا کہ ہزار میں دو من دس کلو لے لو۔

**حکم:** قانون سابق کے پیش نظر یہ جائز ہے، اور بائع زید کی جانب سے ثمن میں کمی اور بیچ میں اضافہ جو ہوا ہے وہ نافذ اور لازم ہے۔

(۲) زید نے دو من گندم بکر پر ایک ہزار روپے میں فروخت کی، عقد کے تام ہونے کے بعد بکر مشتری نے ثمن میں اپنی رضائے تام سے سوروپے کا اضافہ کیا اور کہا کہ ثمن بجائے ہزار کے گیارہ سوروپے ہو گئے۔

**حکم:** قانون مذکور کے تحت یہ صورت بھی جائز ہے، اور یہ زیادتی ثمن کا حصہ ہے۔

(۳) زید نے دو من گندم بکر پر ایک ہزار روپے میں فروخت کی، عقد کے تام ہونے کے بعد زید بالع نے بکر سے کہا کہ ثمن بجائے ہزار کے گیارہ سو دینا پڑے گا، یا بکر مشتری نے کہا کہ بجائے ہزار کے ثمن نو سورو پر تم کو لینا پڑے گا۔

**حکم:** قانون مذکور کی رو سے زید کا اضافہ اور بکر کی کمی، دونوں خلاف شرع اور ناجائز ہیں۔

(۴) خالد نے اپنے مکان کے تین کمرے بثیر کو پانچ ہزار روپے ماہوار کے حساب سے تین ماہ کے لئے کرایہ پر دیئے۔ عقد اجارہ کے تام ہونے کے بعد خالد موجز نے اپنی رضاۓ تام سے اجرت میں سے ایک ہزار کم کر کے بثیر سے کہا کہ ماہوار اجرت بجائے پانچ کے چار ہزار دیا کرو، یا ایک کمرہ کا اضافہ کر کے بثیر سے کہا کہ پانچ ہزار کی اجرت میں بجائے تین کے چار کمرے استعمال کرو۔

**حکم:** قانون مذکور کے پیش نظر یہ جائز ہے۔ خالد کی جانب سے کرایہ کی مذکورہ کی یا شیء موجز میں اضافہ نافذ اور لازم ہوگا۔

(۵) خالد نے اپنے مکان کے تین کمرے بثیر کو پانچ ہزار روپے ماہوار کے حساب سے تین ماہ کے لئے کرایہ پر دیئے۔ عقد اجارہ کے تام ہونے کے بعد بثیر متاجر نے خالد موجز سے کہا کہ میں اپنی رضاۓ تام سے بجائے پانچ کے ساڑھے پانچ ہزار روپے کرایہ دوں گا۔

**حکم:** قانون مذکور کی روشنی میں یہ صورت بھی جائز ہے اور بثیر متاجر کا یہ اضافہ نافذ و لازم ہوگا۔

(۶) خالد نے اپنے مکان کے تین کمرے بثیر کو پانچ ہزار روپے ماہوار کے حساب

سے تین ماہ کے لئے کرایہ پر دیئے۔ عقدِ اجارہ کے تمام ہونے کے بعد خالد موجر نے بشیر مستاجر کو کہا کہ کرایہ بجائے پانچ ساڑھے پانچ ہزار ہو گایا کہا کہ بجائے تین کے دو کمرے استعمال کرنے دوں گا، یا بشیر مستاجر نے کہا کہ بجائے پانچ ہزار کے ساڑھے چار ہزار کرایہ ہو گا۔

**حکم:** قانون سابق کی رو سے بعد العقد خالد کا کرایہ میں اضافہ یا شیء موجر میں کمی، یا بشیر مستاجر کا کرایہ میں کمی کرنا، خلافِ شرع اور ناجائز ہے۔

(۷) زید نے بکر کو ایک سال کے لئے مکان ماہوار چھ ہزار روپے کرایہ کے حساب سے دیا اور یہ شرط لگائی کہ مجھے عقد تمام ہونے کے بعد بھی اجرت میں کمی کا اختیار ہو گا۔

**حکم:** قانون سابق کے پیش نظر یہ شرط خلافِ شرع نہیں، لہذا یہ عقدِ اجارہ صحیح ہے اور زید موجر جب چاہے کرایہ میں کمی کر سکتا ہے۔

(۸) زید نے بکر کو ایک سال کے لئے مکان ماہوار چھ ہزار روپے کرایہ کے حساب سے دیا، اور یہ شرط لگائی کہ عقد کے مکمل ہونے کے بعد تیرے مہینے سے مجھے اجرت میں ایک ہزار روپے تک اضافے اور زیادتی کا اختیار ہو گا۔

**حکم:** قانون سابق کے پیش نظر یہ شرط خلافِ شرع ہے لہذا یہ عقدِ اجارہ فاسد ہے۔

(۹) زید نے بکر کو ایک سال کے لئے مکان ماہوار چھ ہزار روپے کرایہ کے حساب سے دیا اور بکر مستاجر نے یہ شرط لگائی کہ تمام عقد کے بعد مجھے اجرت میں اضافہ کا اختیار ہو گا۔

**حکم:** قانون سابق کے مطابق یہ شریعت کے موافق اور جائز ہے۔

(۱۰) زید نے بکر کو ایک سال کے لئے مکان ماہوار چھ ہزار روپے کرایہ کے حساب سے دیا، اور بکر مستاجر نے بوقت عقد یہ شرط لگائی کہ تمام عقد کے بعد تیرے مہینے سے مجھے

اجرت میں ایک ہزار تک کی کا اختیار ہوگا۔

**حکم:** قانون سابق کی رو سے یہ شرط خلاف شرع اور ناجائز ہے، لہذا اس شرط فاسد کی

وجہ سے اجارہ فاسد ہوگا۔

(۱۱) زید نے اپنا گھر بکر کو اس طرح کرایہ پر دیا کہ تین ماہ کا توقعہ اجارہ کر لیا اور ہر ماہ پانچ ہزار روپے اجرت طے ہوئی، اور معاهدہ ایک سال کا کیا، لیکن یہ شرط لگائی کہ تین ماہ کے بعد جدید عقد ایک ہزار تک اضافے کے ساتھ ہوگا۔ اور بکر نے قبول کر لیا۔

**حکم:** اس صورت کا حکم یہ ہے کہ تین ماہ کا عقد اس معاهدے اور شرط کی وجہ سے فاسد ہے ہوگا۔ اور جدید اجارے میں جائزین کو عقد کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا، کوئی دوسرے پر جرئت نہیں کر سکتا۔ البتہ معاهدہ پورا کرنے کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ معاهدے کے مطابق جدید عقد کر لیا جائے۔

(۱۲) زید نے مکان ایک سال کے لئے کرایہ پر بکر کو اس طرح دیا کہ شروع کے تین ماہ کا کرایہ چار ہزار ہوگا، پھر تین ماہ کا کرایہ چار ہزار ہوگا، پھر تین ماہ کا کرایہ پانچ ہزار ہوگا اور پھر آخر کے تین ماہ کا کرایہ چھ ہزار ہوگا۔

**حکم:** یہ صورت جائز ہے۔ اور اجارہ پورے سال کا منعقد ہوا، کسی کو انکار اور خلاف کرنا جائز نہیں۔

وقال العلامة الحصكى رحمه الله تعالى : ( استأجر عبدا

شهرین : شهرًا بأربعة . و شهرًا بخمسة صحي ) على الترتيب

المذكور ، حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة و بعده

خمسة ( الشامية ۹ / ۱۲۵ طرشيدية )

## ﴿اجارہ بنوکیہ کی صورتیں حضرت کی تحریرات کی روشنی میں﴾

(۱) مشینزی مثلاً پانچ سال کی مدت تک مکمل عقد کر کے اس طرح کرایہ پر دی کہ پہلے سال کا کرایہ مثلاً ایک لاکھ ہوگا، دوسرے کا ڈیڑھ لاکھ، تیسرا کا دو لاکھ، چوتھے کا ڈھائی لاکھ اور پانچویں کا تین لاکھ۔ اور مستاجر نے قبول کر لیا۔

اس صورت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”اب اس اضافے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ شروع ہی میں ہر سال کی اجرت طے کر لی جائے۔ بعض اجاروں میں ایسا ہی ہوتا ہے“

(غیرسودی بینکاری ص ۲۶۶)

**آقو!** یہ صورت جائز ہے، اس میں اجارہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں۔

(۲) مشینزی مثلاً پانچ سال کی مدت تک مکمل عقد کر کے اس طرح کرایہ پر دی کہ پہلے سال کا کرایہ تو ایک لاکھ روپیہ متعین طور پر ہوگا، اس کے بعد والے سالوں میں بینک کو پندرہ فن صدیا پچھیس ہزار تک اضافے کا اختیار ہوگا۔ اس صورت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

”دوسری صورت یہ ہے کہ ہر سال اجرت میں دس یا پندرہ فن صد اضافہ کرنا طے کر لیا جائے۔ بڑے تجارتی ادارے اگر بینک سے کوئی مشینزی وغیرہ اجارے پر لیتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ پہلی مدت اجارہ کا تعین تو ایک لگی بندھی رقم سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اجرت کو کسی معیار (benchmark) سے منسلک کیا جاتا ہے اور یہ درست ہے کہ یہ معیار وہ شرح سود و شرح منافع ہوتی ہے جس پر بینک آپس میں لین دین کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عقد

میں یہ مذکور ہوتا ہے کہ اگر یہ شرح ابتدائی اجرت سے پندرہ فی صد زیادہ بڑھ گئی تو اضافہ پندرہ فی صد سے زیادہ نہیں ہو گا،

(غیر سودی بینکاری ص ۲۶۶)

**آقول!** یہ صورت قانون سابق کے خلاف اور صورت نمبر (۸) کی طرح خلاف شرع،

نا جائز اور مفسد عقد اجارہ ہے۔

### ﴿حضرت کی تاویل اور اس کا بطلان﴾

حضرت والا دامت بر کا تم اس دوسری صورت کو ہماری پیش کردہ صورت نمبر (۷) جس میں اجرت معین ہے اور موجز نے اپنے لئے اجرت میں کمی کی شرط لگائی ہے، پر قیاس کرتے ہوئے اس کو جائز فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ صورت مندرجہ بالا صورتوں میں سے صورت نمبر (۸) کی طرح ہے جس میں اجرت معین کرنے کے بعد موجز نے اپنے لئے اضافے کی شرط لگوائی ہے اور یہ صورت قانون اجارہ کے خلاف اور باطل ہے۔ لہذا جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کا اعتراض اپنی جگہ درست اور صحیح ہے اور اس فقیم کی شرط کی وجہ سے ایسے تمام اجارے فاسد ہیں۔

تاویل کے الفاظ ملا حظہ فرمائیے:

”اس طریق کا رپردو اعتراض کئے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس طریق کا رہا میں اجرت مجہول ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ہرسال کرائے میں پندرہ فی صد اضافہ ہو گا تو یہ جائز ہوتا یا نہیں؟“

(آقول: بے شک جائز ہوتا۔ کیونکہ اجرت معین ہو گئی اور مستاجر نے قبول بھی کیا، احمد ممتاز) ظاہر ہے کہ اس سے اجرت مجہول نہیں ہوتی، اور یہ

طریقہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اکثر کرایہ داریوں میں فی صد اضافہ کا عام رواج ہے۔ جب یہ جائز ہے تو اس کے ساتھ یہ شرط لگالینا کہ کسی خاص معیار کے مطابق یہ اجرت پندرہ فی صد سے کم بھی ہو سکتی ہے، بطريقہ اولی جائز ہوگا، (غیر سودی بینکاری ص ۲۶۶)

(آقول: یہ اس وقت ہوتا کہ بوقت عقد پندرہ فی صد زیادتی کے ساتھ اجرت متعین کر کے مستاجر کو یہ بتایا جائے کہ اصل اجرت آپ کے ذمہ یہ ہے اور مستاجر اس کو قبول کر لے پھر بینک اپنے لئے کمی کی شرط لگادے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اجرت بوقت عقد پندرہ فی صد اضافے کے بغیر فریقین کے مابین متعین ہوتی ہے، اور بینک اس متعین اجرت پر اپنے لئے اضافے کی شرط لگا رہا ہے، اور یہ قانون اجراہ کے خلاف، اور اجرت کے مجہول ہونے کی وجہ سے مشدید عقد ہے۔

اس عبارت سے یہ تأثیر دیا جا رہا ہے کہ گویا پہلے اجرت زیادہ تھی اور اب ہم اس کو کم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تأثیر خود آپ مظلہ کی قصر تھی کبھی خلاف ہے۔ فرماتے ہیں:

”البتہ بڑے تجارتی اداروں کو جو مشینری وغیرہ کرایہ پر دی جاتی ہیں اس میں پہلی مدت کا کرایہ تو لگی بندھی رقم کی صورت میں متعین ہوتا ہے، لیکن بعد کی مدتوں میں اس میں ایک خاص تناسب سے اضافہ ہوتا رہتا ہے“،  
(غیر سودی بینکاری ۲۶۵)

الہذا حضرت کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اجرت میں اضافے کی شرط کے جواز کی کوئی عبارت اور دلیل بیان فرمائیں۔ کمی کے جواز کی دلیل اور عبارت اس موقع پر نہ تو سودمند ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ احمد ممتاز

## ﴿بعض دیگر لوگوں کی تاویل اور اس کا بطلان﴾

بعض لوگ اس کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو ”تاویل القول بما لا يرضي به قائله“ کے قبیل سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیچ ڈالر میں ہوتی ہے جس کی قیمت کی کمی بیشی کا اثر پاکستانی کرنی پر پڑنا لازم ہے، اور یہ کوئی اچھنے کی بات نہیں۔

**آقو!** ! یہ تاویل دو وہ جوں سے درست نہیں۔

(۱) حضرت مدظلہ نے خود تحریر فرمایا ہے کہ اضافہ پندرہ فی صد تک ہوگا (کما مر آنفا)..... اگر ڈالر پر معاملہ ہوتا تو اس میں دس یا پندرہ فی صد وغیرہ کا اعتبار نہ ہوتا۔

(۲) ڈالر کی قیمت گر جانے کی صورت میں اس کے مطابق پاکستانی روپے کم لئے جانے چاہئیں۔ جبکہ اس کی طرف حضرت کی تحریر میں اشارہ بھی ڈالر نہ ہی آج تک سنائی گیا ہے کہ بینکوں نے ڈالر کی قیمت میں کمی کی صورت میں اس کے مطابق کسی سے پاکستانی روپے کم وصول کیے ہوں۔

## ﴾بوقت مرا بحہ واجارہ“ لزوم التزام مصدق مال﴾

اس سے متعلق تین باتیں پیش خدمت ہیں۔

(۱) اصل مسئلہ

(۲) بعض حضرات مالکیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اور اس کا مصدق اور مفصل جوابات

(۳) لزوم التزام مصدق مال کا حکم

## (۱) اصل مسئلہ

یعنی مرا بحہ واجارہ کے وقت دائن کے حق کو تحفظ دینے کی شرعی تدبیر کیا ہے؟

مرا بحث اور اجارہ کے وقت دائن کے حق کو بروقت ادا کرنے کے لئے شرعی تدبیر دو چیزیں ہیں۔ (۱) کتابت و شہادت (۲) رہن۔

اس کے علاوہ تیسری چیز کا ذکر کہیں بھی نہیں لہذا دائن کے حق کے تحفظ کی خاطر ”لزوم التزامِ تصدقِ مال“ کا قول کرنا کتاب اللہ تعالیٰ، سنت رسول اللہ ﷺ اور مذاہب اربعہ کے خلاف ہے۔

دیکھئے نزولِ وحی کے وقت بھی ”مطل غنی“ (غنى کا ثال مٹول کرنا اور وقت پر قرض ادا نہ کرنا) کی صورتیں موجود تھیں پھر بھی قرآن کریم نے دائن و مقرض کے حق کو تحفظ دینے کے لئے دو چیزوں کو ہی کافی سمجھا ہے، ایک کتابت و شہادت اور دوسری رہن۔ فرمایا ﴿اذا تداینتُم بِدِيْن إِلَى أَجْلِ مَسْمَى فَاكْتُبُوهُ، الْآيَة﴾ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً، الْآيَة﴾

آپ ﷺ نے بھی کتاب اللہ تعالیٰ ہی کے ضابطہ کو برقرار رکھ کر ”مطل الغنی ظلم“ باوجود غنا و استطاعت کے غنی کا قرض کی ادائیگی میں ثال مٹول ظلم ہے، جیسی وعدوں کے ذریعے مہماطل کو ڈرایا ہے تاکہ دائن و مقرض کا حق بروقت ادا ہو، التزامِ تصدق کا حکم نہیں دیا۔ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں ان کے علاوہ کہیں بھی اس تیسری چیز کا ذکر نہیں کہ مرا بحث اور اجارہ کی صورت میں ”لزوم التزامِ تصدقِ مال“ کے ذریعے بھی تحفظ دیا جاسکتا ہے۔ مذاہب اربعہ میں بھی کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہی کے اس ضابطہ کو برقرار رکھا گیا ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہیہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان مذاہب میں بھی کسی کے ذہن میں دائن کے حق کو تحفظ دینے کی یہ تیسری صورت یعنی ”لزوم التزامِ تصدقِ مال“، نہیں آئی ورنہ ضرور لکھتے۔

البته مدعا علیہ، مستقرض اور متناجر اپنے اوپر مدعی، مقرض اور موجر کا اعتماد اور بھروسہ پیدا

کرنے اور قائم رکھنے کے لئے درج ذیل صورتیں بھی اختیار کر سکتا ہے:

(۱) قسم کھانا، کوئی کہے کہ میں قسم کھا کر کھتا ہوں کہ تیرا حق فلاں تاریخ تک ضرورا دا کروں گا۔

(۲) تعلیقاً طلاق دینا، مثلاً یوں کہے اگر تیرا حق فلاں تاریخ تک ادا نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق۔

(۳) نذر ماننا، مثلاً یوں کہے کہ اگر تیرا حق فلاں وقت تک ادا نہ کیا تو میرے ذمے اتنا صدقہ ہے۔ جیسے مالکیہ کے مذہب میں ہے۔

(۴) کفیل اور ضامن دینا، مثلاً کسی کو بطور کفیل اور ضامن پیش کرے کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو یہ میرا کفیل اور ضامن ہے، اگر فلاں تاریخ تک میں نے ادا یگی نہیں کی تو آپ اس سے وصول کر لیں۔

**نتیجہ:** اجارہ میں رہن کی صورت بنا بر تسلیم صحیح رہن فی الامانات ہے۔ (ورنا اصل مسئلہ عدم جواز رہن فی الامانات کا ہے، جس کی تفصیل مسبق میں ”سیکوریٹی ڈیپاٹ“ کے عنوان کے تحت گزر چکی ہے)

## (۲) ﴿بعض مالکیہ کا قول﴾

حضرات مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی جس عبارت سے استدلال کرتے ہوئے مجوزین حضرات نے ”لزومِ التزامِ تصدقِ مال“ کا قول فرمایا ہے، اس عبارت میں مرآجھ، اجارہ وغیرہ، ہماقتو د کے وقت دائن و مقرض کے دین و قرض کی بروقت ادا یگی کے لئے مدیون و مقرض پر التزامِ تصدقِ مال کو لازم کرنے کا مطلقاً ذکر ہی نہیں، نہ صراحتہ اور نہ اشارہ، اس عبارت میں تو صرف اس کا بیان ہے کہ اگر کوئی طیب خاطر سے کسی کا حق ادا کرنے کے لئے اپنے اوپر بذریعہ نذر

کسی چیز کو لازم کر دے تو اس کا پورا کرنا دیانتہ تو واجب ہے، قضاءً واجب ہے یا نہیں؟ بعض کے نزد یک قضاءً بھی واجب ہے۔

پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں:

و قد تکلم الخطاب رحمة الله على هذه المسألة ببساط في كتابه

”تحرير الكلام في مسائل الالتزام“ وقال فيه :

(أما إذا التزم المدعى عليه للمدعى أنه ان لم يؤفه حقه في وقت كذا

فله عليه كذا و كذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا، و

سواء كان الشيء الملزوم به من جنس الدين أو غيره، و سواء كان

شيئاً معيناً أو منفعة .....)

و أما إذا التزم أنه ان لم يؤف حقه في وقت كذا ، فعليه كذا و كذا

لفلان ، أو صدقة لمساكين ، فهذا هو محل الخلاف المعقود له

هذا الباب ، فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم ، وقال ابن دينار :

يقضى به )

وقال قبل ذلك: (و حكایة الباقي الاتفاق على عدم اللزوم فيما

إذا كان على وجه اليمين غير مسلمة، لوجود الخلاف في ذلك

كما تقدم، و كما سيأتي)

و ان الخطاب رحمة الله و ان رجح عدم اللزوم، و لكنه قال في آخر

الباب : (إذا قلنا: إن الالتزام المعلق على فعل الملزوم الذي على

وجه اليمين لا يقضى به على المشهور، فاعلم أن هذا ما لم يحكم

بصحة الالتزام المذكور حاكم، وأما إذا حكم حاكم بصحته أو

بلزومه، فقد تعين الحكم به، لأن الحاكم إذا حكم بقول لزم العمل

بہ و ارتفع الخلاف) (بحوث فی قضایا فقهیہ معاصرہ ص ۳۵، ۳۶)

چنانچہ علامہ خطاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”تحریر الكلام فی مسائل الالتزام“ میں تفصیل سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”اگر مدعاً علیہ نے مدعاً کے لئے یہ التزام کر لیا کہ اگر اس نے اس کا دین فلاں وقت تک ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے فلاں چیز مدعاً کے لئے لازم ہو جائے گی صریح ربا ہونے کی وجہ سے یہ صورت باطل اور ناجائز ہے جو چیز اپنے اوپر لازم کی ہے چاہے وہ دین کی جنس میں سے ہو یا نہ ہو اور چاہے وہ کوئی معین چیز ہو یا منفعت ہو.....

اور اگر مدعاً علیہ نے یہ التزام کر لیا کہ اگر فلاں وقت پر تمہارے دین ادا نہیں کیا تو اس صورت میں فلاں چیز فلاں شخص کو دینی لازم ہو گی یا فلاں چیز مساکین کو صدقہ دوں گا یہ صورت فقہاء کے نزدیک محل اختلاف ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کی ادائیگی قضاءً لازم نہیں ہو گی، البته علامہ ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قضاءً بھی لازم ہے۔

اس سے پہلے ایک جگہ علامہ خطاب رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرمائے ہیں ”علامہ باجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اتفاق نقل کیا کہ علی و جہ الیمن التزم کی صورت میں قضاءً لزوم نہیں ہوتا مگر یہ نقل قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ قضاءً لازم ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف موجود ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور آئندہ آنے والا ہے۔

علامہ خطاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ قضاءً عدم لزوم کے قول کو ترجیح دی ہے لیکن اس بحث کے آخر میں وہ خود فرماتے ہیں کہ ”اگرچہ ہم نے یہ کہا

کہ ملتزم جب اپنے کسی فعل پر علی و وجه الیمن التزام کر لے تو قضاۓ وہ لازم نہیں جیسا کہ مشہور مذهب یہی ہے مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس وقت ہے جب تک کسی حاکم نے التزام مذکور کے بارے میں فیصلہ جاری نہ کیا ہو لیکن اگر کسی حاکم نے اس التزام کی صحیح ہونے یا اس کے لازم ہونے پر فیصلہ دے دیا ہو تو اُس صورت میں وہ التزام درست ہو جائے گا اس لئے کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے اور اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ (فقہی مقالات ۱/۱۳۳ - ۱۳۱)

### ﴿مالکیہ کے مذهب کے جوابات﴾

(۱) مالکیہ کے قول راجح اور مشہور کے خلاف ہے۔

و أما اذا التزم أنه ان لم يؤف حقه في وقت كذا، فعليه كذا و كذا لفلان، أو صدقة للمساكين، فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم، وقال ابن دينار: يقضى به (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ۲۵ ، ۳۶) اور مرجوح قول پر عمل کرنا درست نہیں ہے اس کو علامہ باجی المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے فقہاء کرام حبهم اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔

قال الباجی رحمہ اللہ تعالیٰ : و هذا لا خلاف بين المسلمين

ممن يعتد به في الاجماع أنه لا يجوز ،

وقال المحقق العلامة قاسم ابن قطلوبيغا في أول كتابه تصحيح

القدوری : انی رأیت من عمل في مذهب أئمتنا رضی الله تعالیٰ

عنهم بالتشهی حتى سمعت من لفظ بعض القضاۃ : هل ثم

حجر؟ فقلت : نعم اتباع الھوی حرام ، و المرجوح فی مقابلة  
الراجح بمنزلة العدم و الترجیح بغير مرجع فی المتقابلات  
ممنوع ..... (شرح عقود رسم المفتی<sup>۲</sup>)

علامہ باجی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام قابل لحاظ مسلمانوں کے اجماع  
سے ایسا کرنا جائز نہیں۔

اور امام محقق علامہ قاسم بن قطلو بغا اپنی کتاب ”صحیح القدوری“ کے شروع  
میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے آئمہ ثلاشہ حبیم اللہ تعالیٰ کے تبعین میں  
ایسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو خواہشات پر عمل پیرا تھے، یہاں  
تک کہ میں نے بعض قاضیوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ اس میں یعنی  
کسی بھی قول کو لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں! خواہش  
کی پیروی حرام ہے اور راجح کے مقابلہ میں مرجوح کالعدم ہے اور کسی  
مرنج کے بغیر معارض اقوال میں ترجیح ناجائز ہے۔

(۲) کسی مرجوح اور ضعیف قول پر بھی طور پر تو کبھی کبحار عمل کرنے کی گنجائش تو شاید ہو  
لیکن کسی ضعیف قول (اور وہ بھی مذہب غیر سے لیا ہوا) کو مستقل قانون بنانا اور دامنا اس پر  
عمل کرنا، بظاہر اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی؟ کیونکہ قانون کے لئے مضبوط اور ٹھوں بنیاد  
ضروری ہے جبکہ یہاں مذہب غیر کے ایک کمزور، ضعیف اور شاذ جزئیہ کو مدار بنا لیا گیا ہے۔  
جب احادیث مبارکہ کے باب میں کسی ایسی روایت کو جو مستقل اصولی قولانہن کے خلاف ہو  
متidel نہیں بنایا جاسکتا تو نفعہ کے باب میں کسی ایسے قول سے کیسے استدلال کیا جاسکتا ہے جو  
مذہب غیر سے لیا گیا ہو، اور ان کے مذہب میں بھی مرجوح اور ضعیف ہو۔

(۳) مالکیہ اور موجودہ میئنکوں کے التزام میں تین وجہ سے فرق ہے۔

(الف) مالکیہ کے نزدیک اس میں مقرض کی جانب سے لزومِ التزام کا کوئی ذکر نہیں ہے جبکہ موجودہ بینکوں میں اس التزام کا لزوم ہوتا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مقرض خود کہہ دے کہ یہ تجویز پر لازم ہے، اس کی بجائے مقرض سے کہلواتا ہے کہ تم کہو کہ مجھ پر لازم ہے۔ تو یہ صرف الفاظ کی ہیرا پچھیری ہے حقیقت میں یہ التزام، لزوم ہی ہے۔

(ب) مالکیہ کے التزام میں طیب نفس اور رضاۓ تام یقینی ہے جبکہ بینک کے التزام میں الزام اور دباؤ کی وجہ سے طیب نفس اور رضاۓ تام یقینی نہیں اور تبریعات میں بدوں طیب خاطر اور رضاۓ تام کسی کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا مالکیہ کے ہاں التزام اپنی حقیقت پر ہے جبکہ یہاں صرف الفاظ کی ہیرا پچھیری ہے۔

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال : قال رسول الله ﷺ : الا لا

ظلموا ألا لا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه ،رواه البهقهى

(المشکوٰة ) ۲۵۵

”آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”خبردار! کسی پر ظلم مت کیا کرو خبردار! کسی آدمی کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر ہڑپ کرنا حلال نہیں۔

(ج) بینکوں میں تصدق کی مقدار متعین ہوتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مقدار مثلاً ہزار روپیہ کا التزام کرے، فلاں ۱۵۰۰ کا، فلاں ۲۰۰۰ کا وغیرہ، جبکہ مالکیہ کے ہاں التزام تصدق مال میں کوئی مقدار متعین نہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس واضح فرق کے باوجود بینکوں کے التزام تصدق مال اور مالکیہ کے التزام تصدق مال کو ایک قرار دینے کی کجھ کاش ہے؟

(۲) بینکوں کے لزومِ التزام میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کسی خاص مجبوری کی وجہ سے قطعاً انہیں کرپاتے ان کو بھی اس جرمانہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا صریح فیصلہ موجود ہے کہ ان کو مہلت دو ﴿ و ان کان ذو عسرة فنظرة الی

میسرہ۔ جبکہ لزومِ الترام کا فارم سب کو بھرنا ہے۔ اگرچہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: ”جب غیر سودی بینکوں میں اس تجویز پر عمل کیا گیا تو اس میں دو شرطیں عائد کی گئیں۔ ایک یہ کہ اگر ادا یگلی میں تاخیر گا ہب کے اعسار یعنی تنگستی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ صورت اس الترام میں شامل نہ ہوگی“، (غیر سودی بینکاری ۲۸۰)

لیکن عرض یہ ہے کہ اس تحقیق کے لئے بینک نے کوئی کمیٹی بنائی ہے اور اس عذر کے بیان کا آج تک کس کو موقع دیا گیا ہے؟

(۵) اس عبارت میں عقدِ مراجحہ و اجارہ کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ معاملہ کے بعد مدعا کے حق کو بروقت ادا کرنے کے لئے مدعا کے اصرار اور دباؤ کے بغیر مدعا علیہ کی جانب سے ”ال ترامِ تصدق مال“ کا بیان ہے، جس کو شریعت میں نظر کہا جاتا ہے اور یہ بالاتفاق دیانت واجب ہے اور بعض مالکی فقهاء حبہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکم قاضی سے قضاء بھی واجب ہو جاتا ہے، ”لزومِ الترامِ تصدق مال“ کا بیان نہیں۔

لہذا کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں دائن کے حق کے تحفظ کے لئے جن دو چیزوں کا ذکر ہے، اس عبارت میں کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ ﷺ کے خلاف کرتے ہوئے کسی تیسری چیز یعنی ”لزومِ الترامِ تصدق مال“ کا ذکر نہیں۔ اس تفصیل کے پیش نظر یہی کہا جائے گا کہ یہ تیسری چیز مجوزین حضرات کی ایجاد ہے، مذہب مالکیہ مکمل طور پر اس سے بری ہے۔

(۶) مالکیہ کے اس مسئلہ میں ہمارے زیر بحث مسئلے کا حکم نہیں، کیونکہ زیر بحث مسئلے میں انعقاد و ایجادِ معاملہ کے وقت الترام ہوتا ہے جبکہ مالکیہ کے مسئلہ میں کسی معاملہ کے بعد مدعا علیہ اعتماد لانے کے لئے مدعا کے سابق حق کو بروقت ادا کرنے کے لئے الترام کرتا ہے۔

(۷) بینکوں میں الترام کے حوالے سے غیر مسلم و حرام آمدی والے کی نذر اور مصارف

کے بارے میں تفصیلات میسر نہ آسکیں ورنہ اس پر شرعی نقطہ نظر سے تبصرہ ہوتا۔ کیونکہ حرام آمدنی والے کا ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا کفر ہے۔ نیز وہ نذر جو ثواب اور قربت کی نیت سے ہو کافر اس کا اہل ہی نہیں۔

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : و اعلم أن اشتراط  
الاسلام انما يناسب اليمين بالله تعالى و اليمين بالقرب نحو ان  
فعلت كذا فعلى صلوة و أما اليمين بغير القرب نحو ان فعلت  
كذا فأنت طالق فلا يشترط له الاسلام كما لا يخفى اهـ (الشامية  
٢٩٠ / ٥ ، رشیدیہ) و قال أيضاً رحمہ اللہ تعالیٰ : رجل دفع الى  
فقیر من المال الحرام شيئاً يرجو به الشواب يكفر، ولو علم  
الفقير بذلك فدعاه و أمن المعطى كفراً جمِيعاً  
(الشامية ٣/٢٢١ ، رشیدیہ)

علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہئے کہ اسلام کی شرط صرف دو صورتوں میں مناسب ہے ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانے کی صورت میں اور دوسرا کسی باعث قربت چیز کے ساتھ قسم کھانے کی صورت میں جیسا کہ یوں کہے ”اگر میں نے فلاں کام کیا تو میرے اوپر نماز لازم ہے“ اور باعث قربت چیز کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی صورت میں اسلام کی شرط نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہے ”اگر میں نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہے“۔

اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”کسی آدمی نے فقیر کو بیعت

ثواب مال حرام میں سے کچھ دیا تو کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو بھی اس کا علم ہو اور اس کے باوجود فقیر نے دینے والے کے لئے دعا کی اور اس نے اس پر امین کہا تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔

قال فی الہندیۃ : و لو کان أحد الشرکاء ذمیا کتابیا او غیر کتابی و هو بريد اللحم او بريد القریۃ فی دینه لم يجزئهم عندنا لأن الكافر لا یتحقق منه القریۃ فکانت نيته ملحقة بالعدم فکان بريد اللحم و المسلم لو أراد اللحم لا یجوز عندنا و كذلك اذا كان أحدهم عبدا أو مدبرا و بريد أضحية کذا فی البدائع  
(الہندیۃ ۳۰۲ / ۵)

اور ہندیہ میں ہے ”اگر (قربانی کے) شرکاء میں سے کوئی ایک ذمی ہو یا کتابی نہ ہو لیکن اس کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہو یا وہ اپنے دین میں ثواب کا ارادہ رکھتا ہو تو ہمارے ہاں ان شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہو گی، اگر کافر ہے تو اس لئے کہ کافر سے ثواب کی نیت درست نہیں ہے لہذا اس کی نیت کا العدم ہے تو گویا کہ وہ صرف گوشت کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر مسلمان ہے تو اس لئے کہ مسلمان (قربانی میں) اگر صرف گوشت کا ارادہ رکھتا ہو تو ہمارے ہاں اس کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر شرکاء میں سے کوئی ایک علام ہو یا مدبر ہو اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔

### (۳) ﴿لزوم التزام تصدق مال،“ کا حکم﴾

تحریر فرماتے ہیں:

”صدقہ کا معلق وعدہ ایک طرح کی نذر ہے، اس لئے وہ خود حنفی اصول کے

تحت لازم ہے، لیکن اگر بالفرض وہ اس قاعدے میں داخل نہ بھی ہو تو صاحب اشباہ کے قول کے مطابق محلِ نظر قرار پا کر مسکوت عنہ ہو گا۔ ایسی صورت میں اگر کسی اور مذہب سے کوئی قول لے لیا جائے تو اس کو خروج عن المذہب نہیں کہا جائے گا۔ ”(غیر سودی بینکاری ۲۸۳)

آقوال: اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مظلہ کے نزدیک التزامِ تصدق کے وعدہ کے وجوب کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) نذر

(۲) غیر نذرِ حس کا وجوب مالکی مذہب سے لیا گیا ہے۔

پہلی وجہ: یعنی نذر سے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ نذر کوئی خوشی سے مانے یا نا خوشی سے ہر صورت میں لازم اور واجب ہے، اگرچہ نا خوشی کی صورت میں مکرہ اور زبردستی کرنے والا کسی درجہ میں گناہ گار ضرور ہو گا، یہاں تک تو اتفاق ہے، لیکن نذر کا حکم جو صراحةً حضرات فقهاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بینک میں اس کے خلاف ہو رہا ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ نذر کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نذرِ مطلق

(۲) نذرِ معلق، پھر نذرِ معلق کی دو صورتیں ہیں: ”نذر معلق بشرط لایڑاد کونہ“ اور ”نذر معلق بشرط لایڑاد کونہ“۔

نذرِ مطلق: اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی شرط اور تعیین کے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لے۔

نذرِ معلق: اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شرط اور تعیین کے ساتھ اپنے اوپر کوئی

چیز لازم کر لے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ ہے۔

”نذر معلق بشرط یُرَادَ كَوْنَه“: یہ ہے جس میں نذر مانے والا شرط کے وقوع اور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرط اور تعلق کے مطابق معاملہ فرمائیں مثلاً اگر میرے مریض کوششا ہوئی تو اتنا صدقہ کروں گا، یا میرا فلاں گمشدہ بھائی لوٹ آیا تو اس قدر صدقہ کروں گا۔

**حکم:** نذرِ مطلق اور نذرِ معلق بشرط یراد کونہ دونوں کا حکم ایک ہے کہ نذر مانے والے کے ذمہ منذ ورشی عیا اس کی قیمت دیاتہ واجب ہے یعنی وجوب اور لزوم بین اللہ و بین العبد ہوتا ہے، اور عدمِ ادا کی صورت میں اس کا مواخذہ صرف آخرت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کو اس کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس حکم کا حاصل یہ ہے کہ وجوب کے بعد یہ شخص ادا میں آزاد ہے جب چاہے ادا کرے۔

”نذر معلق بشرط لا يُرَادَ كَوْنَه“: اس کا مطلب یہ ہے کہ نذر مانے والا شرط کے وقوع اور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے نذر مانتا ہے یعنی جس چیز کو وہ بطور شرط کے ذکر کرتا ہے اس کے ہونے کو نہیں چاہتا بلکہ نہ ہونے کو چاہتا ہے مثلاً کوئی یوں کہے کہ اگر میں نے زنا کیا تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا روپیہ صدقہ کروں گا۔

**حکم:** راجح قول کے مطابق اس صورت میں نذر مانے والے کو نذر اور کفارہ بیکین میں اختیار ہے، یعنی چاہے تو اپنی نذر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے۔

نذر کی اس تفصیل کے بعد بینک کے اس نظام پر غور کیا جائے کہ یہ نذر کی کس قسم میں داخل ہے۔ غور کرنے سے بآسانی یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ بینک کا یہ لزومِ التزام ”نذر معلق بشرط لا يُرَادَ كَوْنَه“ میں داخل ہے، کیونکہ بینک عدمِ ادا بیگی اور تاخیر قسط و کراہی کی وجہ

سے یہ التزام کرواتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایسی شرطیں ہیں جن کے وقوع اور ہونے کو ملکتِ نہیں چاہتا۔ لہذا شرعاً مشتری اور مستاجر (کلائنٹ) کے ذمے بعینہ یہ نذر پوری کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو اختیار ہے کہ بجائے ادائے نذر قسم کا کفارہ دے کر بری الذمہ ہو جائے۔ جبکہ بینک اس کو نذر ہی پر مجبور کرتا ہے اور بینک کا یہ مجبور کرنا خلاف شرع اورنا جائز ہے۔

نیز اگر کوئی اس نذرِ معلق بشرطیاد کونہ میں داخل کرنے پر بحد ہے تو بنا بر تسلیم عرض یہ ہے کہ بینک میں نذر کی اس قسم کے حکم کی بھی مخالفت ہو رہی ہے کیونکہ اس قسم میں مطالبة صرف دیائیت ہے مخلوق میں سے کسی کو جائز نہیں کہ اس سے ادا کا مطالبه کرے، نیز اس میں فقیر، مکان اور وقت کی تعین اگرچہ ناذر کر بھی لے تو بھی اس کی پابندی شرعاً اس کے ذمے لازم نہیں، بلکہ شریعت نے ان سب امور میں اس کو آزادی اور اختیار دیا ہے، جبکہ بینک نے اس کی اس آزادی کو سلب کیا ہے۔ بینک کے پاس جمع نہ کرنے کی صورت میں بینک اس کا موآخذہ کرتا ہے، اور اس کے صوابدید کے بجائے بینک اپنے صوابدید پر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باقی شرعاً درست نہیں، ان کے ثبوت اور جواز کے لئے حوالہ درکار ہے۔

قال الامام المرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ : ( و من نذر نذرا مطلقا

فعلیه الوفاء ) لقوله ﷺ : من نذر و سمي فعلیه الوفاء بما سمي .

(الهدایۃ / ۲۸۰ ط : رحمانیہ )

قال فی التنویر و شرحہ : ثم ان المعلق فيه تفصیل فان ( علقہ بشرط

یریدہ کأن قدم غائبی ) أو شفی مريضی ( یوفی ) وجوبا ( ان وجد )

الشرط ( و ) ان علقہ ( بما لم یرده کان زنیت بفلانة ) مثلا فحنت

( وفی ) بنذرہ ( او کفر ) یمینہ ( علی المذهب ) لأنه نذر بظاهره ،

یمین بمعناه فیتخير ضرورة .

وقال العلامہ الشامی رحمہ اللہ تعالیٰ : (قوله : ثم ان المعلق الخ ) :  
 اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به  
 مطلقاً: أي سواء كان الشرط مما يراد كونه: أي يطلب حصوله كإن  
 شفى الله مريضي أو لا كإن الكلمة زيداً أو دخلت الدار فكذا وهو  
 المسمى عند الشافعية نذر اللجاج وروى عن أبي حنيفة التفصيل  
 المذكور هنا وأنه راجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهدایة: إنه  
 قول محمد وهو الصحيح وهذا مشى عليه أصحاب المتن كالمنتظر  
 والمجمع وختصر النقاية والملتقى وغيرها وهو مذهب الشافعی  
 وذكر في الفتح أنه المروى في النوادر وأنه مختار المحققين.

(الشامیہ ۵ / ۵ ط : رشیدیہ)

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : (لزム النذر) أي لزم  
 الوفاء به و المراد أنه يلزم الوفاء بأصل القرابة التي التزمها لا بكل  
 وصف التزم لأنه لو عين درهماً أو فقيراً أو مكاناً للتصدق أو  
 للصلوة فالتعيين ليس بلازم ، بحر ، و تحقیقہ فی الفتح .

(الشامیہ ۵ / ۵)

علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ (نذر لازم ہے) یعنی اس کو  
 پورا کرنا لازم ہے اور مرادیہ ہے کہ اس کے ذمہ اس اصل نیکی (عبادت) کا  
 پورا کرنا لازم ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے نہ کہ ہر اس وصف  
 کے ساتھ جس کا اس نے انتظام کیا اس لئے کہ اگر اس نے صدقہ کرنے  
 کے لئے کسی درہم یا کسی فقیر یا پھر کسی جگہ کو صدقہ کرنے یا نماز پڑھنے کے  
 لئے متعین کر دیا تو یہ تعین اس پر لازم نہیں ہے اور اس مسئلہ کی پوری تحقیق فتح

القدیر میں ہے۔

قال الامام المرغینانی رحمه الله تعالى : و النذر لا يعمل فيه الاكراء لأنه لا يحتمل الفسخ ولا رجوع للمرکره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالبه فيها الخ

علامہ مرغینانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نذر میں اکراہ جاری نہیں ہوتا اس لئے کہ نظر فسخ کا احتمال نہیں رکھتی اور مرکرہ کو یقین حاصل نہیں کہ جو چیز اس پر لازم ہوئی اس کا مرکرہ مطالبہ کرے اس لئے کہ دنیا میں اس کا (نذر کا) کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے لہذا دنیا میں اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

قال العلامہ الخوارزمی رحمه الله تعالى : (قوله : و النذر لا ي العمل فيه الاكراء) حتى لو أكره بوعيد تلف على أن يوجب على نفسه صدقة أو صوماً أو حجا ما شيا يتقرب به الى الله تعالى ففعل لزمه ذلك و كذلك ان أكرره على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره لأن النذر مما لا يلحقه الفسخ لأنه يمين لقوله عليه السلام ((النذر يمين)) وهى مما لا يحتمل الفسخ و ما لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يؤثر فيه الاكراء من حيث الصحة كالعتاق وهذا لأن أثر الاكراء فى فوات الرضا وأثره فى عدم اللزوم وأثره فى حق الفسخ فما لا يحتمل الفسخ لا يتأتى فيه أثر الاكراء فلا يؤثر فيه الاكراء ، (قوله : لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالبه فيها) و ذلك لأنه أو جب عليه حكما يطالب به في الآخرة و لا يظهر أثره في الدنيا من حيث الالتزام ولو أوجينا عليه الضمان لأن ذهنه الحاكم و حبسه فيه فيكون

زائداً علی ما أوجبه و هذا لا يجوز. (الكافیة علی هامش الفتح ۱۸۱، ۱۸۲، و راجع له أيضاً ”مبسوط السرخسی“ ۲۲ / ۲۲)

علامہ خورازمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کے اس قول کے بارے میں کہ (اور نذر میں اکراہ جاری نہیں ہوتا) یہاں تک کہ اگر کسی کو حکم دے کر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر کچھ صدقہ یا روزہ یا پیدل حج لازم کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو تو اس پر اب یہ نذر لازم ہے اور اگر کسی کو ان مذکورہ اشیاء یا کسی اور چیز کے بارے میں قسم پر مجبور کر دیا جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اس لئے کہ نذر ان چیزوں میں سے ہے جو فتح نہیں ہو سکتیں نبی کریم ﷺ کے اس قول ”نذر یکین ہے“ کے مطابق کہ نذر ایک قسم ہے اور یکین ان چیزوں میں سے ہے جو فتح کا احتمال نہیں رکھتی اور جو اشیاء ایک بار واقع ہو جانے کے بعد فتح نہ ہو سکتیں تو ان میں صحت کے اعتبار سے اکراہ بھی موثر نہیں ہوتا، جیسا کہ ”کسی غلام کو آزاد کرنا“ اور یہ اس وجہ سے کہ اکراہ کا اثر رضا مندی کے فوت ہونے میں ہے اور عدم رضا کا اثر لازم نہ ہونے میں ہے اور حق فتح میں ہے تو جو اشیاء فتح کا احتمال ہی نہیں رکھتیں، ان میں اکراہ کا اثر بھی جاری نہیں ہو گا اور ان میں اکراہ موثر نہیں ہو گا۔ صاحب ہدایہ کا یہ قول کہ (دنیا میں کوئی اس کا مطالب نہیں تو دنیا میں اس کا مطالبہ بھی نہیں ہو گا) یہ اس وجہ سے کہ نذر مانے والے نے اپنے اوپر ایسے حکم کو واجب کیا ہے جس کا اس سے آخرت میں مطالبہ کیا جائیگا اور دنیا میں لازم کرنے کے اعتبار سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اگر کمرہ پر ضمان کو لازم کر دیں تو حاکم اس سے ضمان لے گا اور

اس کو قید بھی کرے گا۔ تو نذر مانے والے نے جو اپنے اوپر لازم کیا ہے یہ اس سے زائد ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں۔

آخر میں فرماتے ہیں:

”رہی یہ بات کہ صدقہ اختیاری ہوتا ہے اور اسے لازم کر کے جبری بنا دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہر نذر کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس سے اختیاری عبادت واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔“

(غیرسودی بینکاری ۲۹)

**آقول!** ایک آدمی اپنے اختیار سے فقیر کے لئے نذر مانتا ہے کہ میرے ذمہ فال فقیر کو دس ہزار روپیہ کا صدقہ دینا لازم ہے اور دوسرا آدمی کسی بد معاش کے ڈنڈے اور دھمکا نے سے کسی فقیر کے لئے دس ہزار روپیہ صدقہ کی نذر مانتا ہے کیا ان دونوں میں فرق نہیں؟ پہلی قسم میں اختیاری صدقہ کو اپنے اختیار اور خوشی سے لازم کر رہا ہے اور دوسری صورت میں اختیاری صدقہ کو بد معاش کے ڈر سے بدھوں خوشی، رضاۓ تام کے لازم کرتا ہے .....  
الحاصل ہر نذر میں اختیاری عبادت نادر کی رضاۓ تام اور خوشی سے لازم ہوتی ہے اور بینک میں اختیاری عبادت رضاۓ تام اور دل کی خوشی سے نہیں بلکہ دباؤ سے لازم ہوتی ہے، اگرچہ دباؤ سے بھی شرعاً نذر لازم ہو جاتی ہے (کما مرغی عبارۃ الکفایۃ) لیکن کیا یہ دباؤ ڈالنا اور اس کے ذمہ نذر لازم کرنا جائز ہے؟

**دوسری وجہ:** یعنی غیر نذر جس کا واجب مالکی مذہب سے لیا گیا ہے، سے متعلق درج ذیل گزارشات ہیں۔

**اولاً:** یہ عرض ہے کہ یہ ان کے مذہب میں بھی نذر ہے، ان کے مذہب کی جو عبارت نقل

فرمائی گئی ہے اس کے بعض اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:

وَإِمَّا إِذَا التَّزَمَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْفَ حَقَّهُ فِي وَقْتٍ كَذَا، فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا لِفَلَانَ، أَوْ صَدَقَةً لِلمسَاكِينَ، ..... إِذَا قُلْنَا: أَنَّ الالْتَزَامَ الْمُعْلَقَ عَلَى فَعْلِ الْمُلْتَزَمِ الَّذِي عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ لَا يَقْضِي بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ،

دونوں عبارتوں میں تعلیق ہے، اور تعلیق نذر کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری عبارت میں ”علی وَجْهِ الْيَمِينِ“ کی تصریح ہے اور یہیں باشی عنذر ہی ہے۔  
کما صرخ بہ فی الکفایۃ : وَ كَذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْيَمِينِ بِشَیءٍ  
مِنْ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِهِ لَأَنَّ النَّذْرَ مَا لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ لِأَنَّهُ يَمِين  
لَقْوَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((النذر یمین))

(الکفایۃ علی هامش الفتح / ۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲)

جب اس کا نذر ہونا مدد ہب مالکی میں ثابت ہوا تو اس پر نذر کے احکام جاری ہوں گے اور نذر کے احکام فقه خنفی میں موجود ہیں، لہذا فقہ خنفی کو چھوڑ کر فقہ مالکی کی طرف جانا خروج عن المدد ہب نہیں تو اور کیا ہے؟

ثانیاً: اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ التراجم تصدق کا وعدہ نذر نہیں اور مدد ہب مالکیہ میں بھی اس التراجم کو نذر نہیں کہا گیا تو بھی یہ خروج عن المدد ہب ہے، کیونکہ بینک نے ”التراجم تصدق مال“ کو مشتری اور مستاجر پر جبراً لازم کیا ہے کہ وقت پر عدم ادائیگی کی صورت میں چندہ نذر میں چندہ دینا ضروری ہے اگرچہ اس کی طبی خاطر اور رضاۓ تمام نہ ہو، اور بدلوں طبی خاطر اور رضاۓ تمام کسی سے چندہ وصول کرنے کا حکم قرآن کریم و احادیث مبارکہ اور فقہ خنفی بلکہ دوسرے نداہب میں بھی صراحةً موجود ہے کہ اس طرح چندہ وصول کرنا حرام اور ناجائز

ہے۔ حضرت مفتی عظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مالداروں سے بدوں طیب خاطر چندہ وصول کرنے کو ناجائز فرماتے ہیں:

”آن کل ایک عام دستور یہ ہو گیا ہے کہ اہل خیر کو کسی بہانے سے کہیں جمع کر کے ان سے رقم کا مطالہ کیا جاتا ہے، یہ طریقہ انفرادی طور پر کسی سے سوال کرنے کی بسبت بھی زیادہ قیچ ہے اس صورت میں مجھ میں رسولی سے نچنے کے لئے بادلِ نخواستہ چندہ دینا پڑتا ہے جو بلاشبہ جبر ہے اس لئے یہ طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔“

(رسالہ ”صیانتة العلماء“، حسن الفتاویٰ / ۲۳۷)

قرآن کریم کی متعدد آیات میں کسی کامال اس کی دلی رضا اور خوشی کے بغیر نا حق اور باطل طریقہ پر کھانے کی حرمت صراحتہً ذکور ہے۔

﴿وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: ۱۸۸)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْسَوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَنَّ تجارةً عَنْ ترَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (النساء: ۲۹)

اور حدیث میں صریح الفاظ میں ”أَلَا لَا تظْلِمُوا، أَلَا لَا يَحْلِ مَالُ امْرِءٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ“ (المشکوٰہ ص ۲۵۵) کہ طیب نفس یعنی دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں۔

اور فقہ میں ایسی متعدد جزئیات ہیں جن میں حلت کا مدار طیب نفس اور دلی رضا کو بنایا ہے اور جہاں دلی خوشی نہیں ہوتی وہاں حرمت کا حکم لگایا گیا ہے۔ مثلاً عورت کے مہر کو اس کی اجازت سے والد کے لئے استعمال جائز ہے لیکن صرف زبانی اجازت نہیں بلکہ دل سے بھی راضی ہو۔

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: قوله: (و صح حطها)  
الحط: الاسقط كما في المغرب، و قيد بخطها؛ لأن حط أبيها  
غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها، ولا بد  
من رضاها.

ففى هبة الخلاصة: خوفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح  
لو قادرا على الضرب اهـ (رد المحتار ۲/۲۳۹)

یہاں پر ہبہ اپنے اختیار سے ہے پھر صحیح کیوں نہیں؟ اس لئے کہ جبرا کراہ کی وجہ سے  
طیب نفس اور دل کی خوشی نہیں رہی۔

قال الامام السرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ: ولو أكره بوعيد قتل أو  
حبس حتى تزوج امرأة على عشرة آلاف درهم ومهر مثلها ألف  
درهم جاز النكاح لما بینا أن الجد والهزل في النكاح والطلاق  
والعتاق سواء فكذلك الإكراه والطوعية وللمرأة مقدار مهر  
مثلها لأن التزام المال يعتمد تمام الرضا ويختلف بالجد والهزل  
فيختلف أيضا بالإكراه والطوع فلا يصح من الزوج التزام المال  
مكرها إلا أن مقدار مهر المثل يجب لصحة النكاح لا محالة

(المبسوط للسرخسی ۷۵/۲۳، و نحوه في البدائع)

اس عبارت میں تصریح ہے کہ رضائے تام کے بغیر نکاح کے ذریعے شوہر سے جتنے حصے کا  
زبردستی التزام مال کرایا جاتا ہے، وہ شرعاً واجب ہی نہیں، لہذا بدوں طیب خاطراس کی بیوی  
کے لئے یہ مال حلال نہیں۔ اسی طرح عقد مرابحہ واجارہ کے وقت بینک کے خود ساختہ اور من  
گھڑت قوانین کے ذریعہ مشتری اور مستاجر سے جو التزام تصدق مال کرایا جاتا ہے، واضح  
ہے کہ اس میں بھی رضائے تام نہیں ہوتی لہذا یہ تصدق مال نہ تو شرعاً لازم ہوگا اور نہ ہی مشتری

اور متناجر کی طیب خاطر کے بغیر کسی کے لئے اس کا کھانا اور استعمال کرنا حلال اور جائز ہو گا۔ دیکھئے علامہ سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے التزامِ مال کے لئے رضاۓ تام کی شرط لگا کر التزامِ مال کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک وہ التزامِ مال جو رضاۓ تام کے ساتھ ہو جیسے مثلاً خوشی سے کوئی چندہ دینے کا متعلق وعدہ کرے، یا اپنی خوشی سے بیوی کے لئے مہر میں سے زیادہ مہر مقرر کر لے، تو یہ جائز، لازم اور واجب الاداء ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں رضاۓ تام نہ ہو جیسے مثلاً از بر دستی مہر زیادہ رکھوانا، یا بینک کا مرابحہ واجارہ میں التزامِ تصدقِ مال کی شرط لگانا۔ چونکہ مشتری یا متناجر یہ جانتا ہے کہ بدول اس شرط کو تسلیم کئے مجھے ادھار نہیں ملے گا، لہذا وہ رضاۓ تام کے بغیر اس شرط کو قبول کرتا ہے، اس لئے یہ ناجائز، غیر لازم اور حرام ہو گا، اور اب تک بینکوں نے جتنے لوگوں سے اس عنوان کے تحت مال لیا ہے، سب کو واپس کرنا واجب ہو گا۔

**تعمیہ:** ”رضاۓ تام“ کی نفی اکراہ کے ساتھ خاص نہیں، لہذا اس کی نفی کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بعض اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے خطابِ خاص سے چندہ کو اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ اس صورت میں رضاۓ تام اور طیب خاطر کا یقین نہیں بلکہ ظن غالب ہی ہے کہ مانگنے والے کی وجہ سے شرماشی میں بدoul رضاۓ تام کے دیتا ہے۔

**مثال:** مذہبِ مالکیہ کے جزئیہ سے بوجوہ متعددہ زیرِ بحث مسئلہ میں استدلال درست نہیں، جس کی تفصیل عنوان ”مالکیہ کے مذہب کے جوابات“ کے تحت مذکور ہے۔

التزامِ تصدقِ مال کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”میں پوری طبوزی اور دردمندی کے ساتھ یہ گذارش کرتا ہوں کہ براہ کرم

اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع میں جب

غیر سودی بینکاری کا آغاز ہوا تو اس قسم کا کوئی التزام گاہک سے نہیں لیا جاتا تھا، لیکن چونکہ مراجع میں جب ایک قیمت متعین ہو جائے تو بروقت ادا نیگی نہ کرنے کی صورت میں اس قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لئے لوگوں نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور بھاری رقمیں جو واجب الاداء تھیں، ان کی ادا نیگی میں ٹال مٹول کر کے ادا نیگی میں غیر معمولی تاخیر شروع کر دی۔ واضح رہے کہ یہ صرف بینک کا نہیں، بلکہ ان ہزاروں افراد کا نقصان تھا جن کی رکھوائی ہوئی رقموں سے یہ سارے معاملات انعام پائے تھے،..... (غیر سودی بینکاری ص ۷۷)

**آقول ! اولاً:** اس عبارت میں سوائے عوامِ الناس کی ہمدردی حاصل کرنے کے، مدعی کے کس جزو کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ اور اس پوری عبارت کے کس جزو میں دلیل بننے کی صلاحیت ہے؟

**ثانیاً:** احسن الفتاویٰ کے روئیداد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزومِ التزامِ تصدقِ مال کی تجویز ابتداء سے رہی ہے نہ کہ بعد میں تحریک کے بعد سامنے آئی، کیونکہ اس پر اسی مجلس میں حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کا اس فندک کو بینک سے ہٹ کر کسی تیسرے فرد کے پاس رکھنے کی تجویز اور اہل بینک کا اس سے انکار، اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ بعد کی ایجاد نہیں بلکہ شروع سے ہے، کیونکہ جو کسی دوسرے کے پاس رکھنے کے لئے تیار نہیں وہ سرے سے اس کے عدم اور نہ ہونے پر کیونکر تیار ہو سکتا ہے؟

حسن الفتاویٰ ج ۷ ص ۱۸۱ میں نکتہ نمبر ۱۸ کے حاشیہ پر حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہم کی تجویز ان الفاظ میں نقل فرمائی گئی ہے:

”مجلس کی تجویز تو یہ ہے کہ یہ فنڈ بنک کی بجائے کسی ثالث کی تحویل میں رہے مگر بنک اپنی ہی تحویل میں رکھنے پر مصروف ہے“ ارشید۔  
لہذا کتاب ”غیرسودی بینکاری“ میں جو اس کے خلاف لکھا ہے وہ بہر حال ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

**ثالثاً:** اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے دائن کے حق کے تحفظ کے لئے صرف دو ہی صورتیں بتلائی ہیں کہ شہادت و کتابت سے دائن کے حق کو تحفظ دو یا رہن کے ذریعہ اس کے حق کو محفوظ بناؤ۔ تو ہمیں بھی انہی دو پر اکتفاء کرنا چاہیئے اور جہاں ایسا باغی شخص ہو کہ بظاہر ان دو سے قابو نہیں آتا تو اس سے بینک معاملہ ہی نہ کرے۔  
متکا دبانہ مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی تدابیر پر عمل کرنا چاہیئے، اس کے خلاف نماہب اربعہ سے خروج کر کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔

### ﴿التزامِ تصدقِ مال اور مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ﴾

”لزومِ التزامِ تصدقِ مال“ کو اس حوالہ سے کتاب ”غیرسودی بینکاری“ میں قوت دی گئی ہے کہ مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ نے اسے قبول کیا اور حضرت مفتی رشید احمد قدس سرہ نے احسن الفتاوی میں نقل بھی فرمادیا ہے۔

**آقوال ! اولاً :** یہ عرض ہے کہ احسن الفتاوی میں یہ نقل ایک تجویزی رپورٹ ہے جس میں مالہ و ماعلیہ کی گنجائش ہے۔

حضرت مفتی اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”بینک کو سود سے پاک کرنے اور ” بلاس و تجارتی ادارہ“ قائم کرنے کے نظام پر غور کرنے کے لئے شعبان ۱۴۱۲ھ میں مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ کا

اجلاس دارالعلوم کراچی میں ہوا جس میں حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوانین اسلام کے تحت بحث و تحقیص کے بعد زیرنظر تجاویز تحریر کی گئیں،.....(حسن الفتاویٰ / ۱۱۲ / ۷)

اس تحریر سے دو باتیں معلوم ہو گئیں ایک یہ کہ بینک سود سے تب پاک ہو گا جب اس کو مستقل تجارتی ادارہ بنایا جائے۔

دوسری یہ کہ یہ صرف تجاویز ہیں ایسے حصی فیصلے ہیں جن میں مزید غور کی گنجائش نہ ہو، اور غور کرنا اکابر حرمہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہو۔

**ٹانگی:** حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کو ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے:

”بعض علماء عصر نے اس مسئلے کے حل کے لئے یہ تجویز پیش کی، ”عمیل سے عقد مرا بحکم کرتے وقت یہ لکھوا لیا جائے کہ اگر وہ ادائیگی کی الہیت کے باوجود بروقت ادائیگی نہ کر سکا تو وہ اپنے واجب الاداء دین کا ایک مخصوص فیصد حصہ ایک خیراتی فنڈ میں چندے کے طور پر ادا کریگا“۔ اس غرض کے لئے بینک میں ایک خیراتی فنڈ قائم کیا جائے گا جونہ بینک کی ملکیت ہو گا اور نہ اس کی رقم بینک کی آمدی میں شامل ہو گی، بلکہ اس سے ناداروں کی امداد اور ان کو غیر سودی قرضے فراہم کرنے کا کام لیا جائے گا۔ بعض مالکی فقہاء کے نزد یہ ایسا الترام قضاء بھی نافذ ہو جاتا ہے“

(حسن الفتاویٰ / ۱۲۰ / ۷)

ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بطور تجویز مالکیت کے حوالے سے یہ بات پیش کی گئی ہے، ایسا نہیں کہ اس پر گفتگو منوع ہوا اور مخالفت اکابر کے زمرے میں داخل ہو، میرے خیال کے مطابق اس پوری عبارت میں کوئی ایسا زور دار لفظ نہیں جو اس کے حصی فیصلہ ہونے پر

صراحتاً یا اشارة دلالت کرے۔

**ثالثاً:** یہ بات مسلم ہے کہ مجلس تحقیق میں یہ تجویز پیش ہوئی لیکن اگر اس پر سیر حاصل گفتگو ہوتی اور ان اکابر حبهم اللہ تعالیٰ کی توجہ التزام اور لزوم التزام کے فرق کی طرف مبذول ہوتی تو یقیناً اس فرق کا اعتبار کرتے اور اس تجویز کو رد فرماتے۔

محمد اللہ تعالیٰ بندہ کو اٹھارہ انیس سال حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں افقاء ہی کے شعبہ میں کام کرنے کی سعادت حاصل ہے کئی تحقیقی مسائل ایسے تھے جن کی تحقیق میں گویا حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ منفرد تھے اور آپ کو پوری طرح شرح صدر تھا اور کسی کے اختلاف کرنے سے بدلنے کو تیار نہ تھے لیکن بعض علماء کی مدل تحریر سے کسی خاص مدار کی طرف توجہ دلائی گئی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مسائل سے بھی رجوع فرمایا۔ مثلاً شیعہ کے اہل کتاب ہونے اور مسافت سفر کا مسئلہ۔

**رابعاً:** خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالہا سال کے شاگرد ہونے کے باوجود بینک کے کئی مسائل میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اختلاف فرمایا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیں.....

(۱) بیع الوفاء سے متعلق حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اگر بیع کے اندر یا اس سے پہلے شرط لگائی گئی ہو یا جانبین اس عقد کو غیر لازم سمجھ رہے ہوں تو یہ بیع فاسد ہے“ (حسن الفتاوی ۷/۵۰۷)

جبکہ حضرت مدظلہ شرط قبل العقد کو مفسد نہیں مانتے، بلکہ لازم مانتے ہیں اور وہ بھی قضاۓ (غیر سودی بینکاری ۲۳۸)

(۲) حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ قرض سے استیجار کے فائدے کو سوڈ فرماتے ہیں۔

بلی کے مسئلہ کے تحت فرماتے ہیں:

”تو یہ اس لئے ناجائز ہے کہ وکیل قرض سے استیجار کا نفع حاصل کر رہا ہے جو سودہ ہے،“ (احسن الفتاویٰ ۶/۱۷)

جبکہ حضرت سیکوریٹی ڈپارٹمنٹ جس کو انتہاءً قرض بھی مانتے ہیں پھر بھی استیجار کے نفع کو سودہ نہیں فرماتے ورنہ بینکوں پر پابندی عائد فرماتے۔

(۳) کرنٹ اکاؤنٹ کو حضرت مفتی عظیم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ناجائز فرماتے ہیں۔

سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیے!

سوال: حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم جمع کرنا ناجائز ہے یا نہیں؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بینک میں رقم جمع کرانے تین صورتیں ہیں:

(۱) سودی کھاتہ (سیوگنگ اکاؤنٹ)

(۲) غیر سودی کھاتہ (کرنٹ اکاؤنٹ)

(۳) لا کر

(الی قولہ رحمہ اللہ تعالیٰ) کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں اگرچہ سود لینے کا گناہ نہیں ہے مگر تعادن علی الامم کا گناہ اس میں بھی ہے۔

لا کر میں جمع کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں سود لینے اور تعادن علی الامم کا گناہ نہیں مگر بینک کے حرام پیسے سے بنے ہوئے خانے کے استعمال کا گناہ ہے، شدید مجبوری کے وقت اس میں رقم جمع کرائی جاسکتی ہے کہ اس

میں پہلی دو صورتوں کی نسبت گناہ کم ہے، لیکن پھر بھی استغفار لازم ہے (احسن الفتاویٰ ۱۵، ۱۷/۱۵)

جبکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مظلہ اس کو جائز فرماتے ہیں، لکھتے ہیں:

”اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کو جائز نہ کہا جاتا۔“

(غیر سودی بینکاری/۱۶)

## ﴿”لزوم التزام تصدق مال“ کے تحت مجلس تحقیق کا فیصلہ ﴾

احسن الفتاویٰ کی عبارت اور اس کے علاوہ ایک طویل بحث لکھنے کے بعد فرمایا ہے:

”بہر کیف! یہ مسئلہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ میں اتفاق رائے سے طے ہو گیا

تھا کہ اس مسئلہ میں ان علماء مالکیہ کا قول اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں

ہے،“ (غیر سودی بینکاری ۲۹)

آقول! احسن الفتاویٰ کی عبارت سے یہ مستبط کرنا کہ یہ اتفاق رائے سے طے ہوا تھا کسی بھی طرح درست معلوم نہیں ہوتا۔ پوری عبارت پر غور کرنے سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ابتدائی تجویز کے طور پر لیا گیا تھا جس میں کلام اور رد و قدر ح کی وسیع گنجائش ہے۔ جیسے خود حضرت نے ”مدد و ذمہ داری“ سے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں بلکہ ایک تجویز ہے جس پر بحث و مباحثہ کی گنجائش ہے۔

فرماتے ہیں:

”اس مسئلے کے بارے میں بندے نے جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ بات بھی صاف

صاف لکھی ہے کہ یہ میری طرف سے کوئی حتمی فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ ہے جو

اہل علم کے غور کے لئے پیش کی جا رہی ہے،“ (غیر سودی بینکاری ۳۳۹)

دیکھئے! یہاں دوسروں (یعنی بینک کے مالکوں اور روح روای لوگوں) نے اس ابتدائی سوچ اور تجویز کو حتمی فیصلہ اور فتویٰ قرار دے کر بینکوں میں بطور قانون جاری بھی کر دیا جبکہ خود حضرت ابھی تک اس کو ایک ابتدائی سوچ ہی فرمائے ہیں۔

اسی طرح ڈیجیٹل تصویر سے متعلق حضرت نے بندہ سے خود حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب، مولانا محمد الیاس عادل صاحب، مولانا محمد عرفان صاحب (یہ تینوں صاحبان دارالعلوم کراچی کے فضلاء اور حضرت مدظلہ کے تلامذہ ہیں) اور مولانا امان اللہ مدرس جامعہ خفافائے راشدین ماری پور، غیرہ کی موجودگی میں صراحةً فرمایا کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ اور فتویٰ نہیں ہے بلکہ ابتدائی سوچ اور تجویز ہے..... لیکن لوگوں نے اس کو بھی دارالعلوم کا فتویٰ سمجھ لیا اور عمل بھی شروع کر دیا۔ بعضیہ اسی طرح مجلس تحقیق کی رپورٹ بھی ہے کہ یہ بھی صرف تجاوزہ ہیں جن میں بحث کی گنجائش ہے۔ یا کابر حبهم اللہ تعالیٰ کا حتمی اور اتفاقی فیصلہ نہیں کہ اس کے خلاف لکھنے اور کہنے والے کو کابر حبهم اللہ تعالیٰ کا مخالف کہا جائے۔

## (۱۲) ﴿قبضِ امانت کا قبضِ ضمان میں بدول تجدید تبدیل کرنا﴾

اس عنوان کے تحت ہندوستان کے ایک معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد زید باندوی صاحب مدظلہ کے ایک مقالے، جس میں انہوں نے غیر سودی بینکوں میں مرابحہ پر بحث کی ہے، سے مفصل تحریر جو قبض سے متعلق ہے، نقل فرمائی گئی ہے۔

پہلے پوری تحریر ملا حظہ فرمائیں:

### تجدید قبض کی بحث

البته مذکورہ بالا صورت میں یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ وکیل بالشراء نے جب سامان خریدا اور موکل (ادارہ) کی طرف سے بھی قبضہ کر لیا تو ظاہر

ہے کہ یہ قبضہ بر بناء و کالت موکل کی طرف سے ہوا..... اور یہی وکیل جب اسی سامان کو ادارے سے خریدے گا تو مشتری ہو گا اور ادارے کی حیثیت بالعکس کی ہو گی۔

اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وکیل بالشراء کا میمع پر سابق قبضہ (جو بحیثیت وکیل تھا) حادث قبضہ کے لئے کافی ہو گا یا نہیں جواب بحیثیت مشتری کے ہو گا۔

### ﴿قبضہ کے اقسام﴾

اس سلسلہ میں فقهاء کرام نے جو ضابط خریف مایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قبضہ کی دو قسمیں ہیں: قبضہ امانت، قبضہ ضمان، پھر قبضہ ضمان کی دو قسمیں ہیں: ضمان بنفسہ، ضمان بغیرہ۔ ہر ایک کا حکم جدا گانہ ہے۔

۱۔ مشتری کو اگر میمع پر پہلے سے قبضہ حاصل ہے اور وہ قبضہ ضمان بنفسہ کا ہے، مثلاً غاصب کا قبضہ شے مخصوص پر۔ اس کا حکم یہ ہے کہ میمع موجود ہو یا نہیں، بہر حال سابق قبضہ جدید قبضہ کے لئے کافی ہو گا اور تجدید قبضہ کی ضرورت نہ ہو گی، کیونکہ غاصب کا قبضہ ضمان بنفسہ ہے اور مخصوص شے بہر صورت مضمون بنفسہ ہے۔

۲۔ اور اگر میمع پر مشتری کا قبضہ ضمان بغیرہ کا ہے، مثلاً شے مر ہون پر راہن کا قبضہ، کیونکہ در حقیقت رہن امانت ہوا کرتا ہے البتہ مضمون بالغیر (یعنی قرض کی وجہ سے) ہوتا ہے۔ گویا یہ مضمون بنفسہ نہیں بلکہ بالغیر ہے۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شے مر ہون موجود ہوتا تو یہ قبضہ جدید قبضہ کی طرف

سے کافی ہو گا ورنہ نہیں۔

۳۔ اور اگر میمع پر مشتری کا قبضہ قبضہ امانت ہے مثلاً عاریت، ودیعت، وکالت، اجارہ کا قبضہ، کہ یہ سارے قبضے قبضہ امانت کہلاتے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ یہ امانت والے قبضے ضمان والے قبضہ (یعنی بیع کے لئے) کافی نہ ہوں گے بلکہ تجدید قبضہ شرط ہے۔ یہ ساری تفصیل شرح و بسط کے ساتھ بدائع الصنائع میں منقول ہے۔

وَجُمِلَةُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الشَّرَاءِ إِمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ صَمَانٍ وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةً فَإِنْ كَانَتْ يَدَ صَمَانٍ فَإِمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ صَمَانٍ بِنَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ صَمَانٍ بِغَيْرِهِ ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَإِنْ كَانَتْ يَدَ الْمُشْتَرِي يَدَ أَمَانَةً كَيْدِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا

(بدائع الصنائع ج / ۵ ص ۲۳۸)

مذکورہ بالتفصیل کے پیش نظر جب وکیل بالشراء کا قبضہ کرنا قبضہ امانت ہے نہ کہ قبضہ ضمان، اس کا مقتضی یہ ہے کہ یہ قبضہ (جو بحیثیت وکیل تھا) جدید قبضہ کے لئے کافی نہ ہو جواب بحیثیت مشتری ہو گا بلکہ تجدید قبضہ شرط قرار دیا جائے۔ واللہ اعلم

اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ادارہ کا آدمی خود بیع پر قبضہ کرے اور دوبارہ پھر یہ مشتری جدید معاملہ کر کے بحیثیت مشتری قبضہ کرے۔ واللہ اعلم لیکن اگر ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ مشتری سابق قبضہ پر کفایت کرتا ہے تو یہ معاملہ درست ہو گایا نہیں اس میں کچھ تفصیل ہے۔

## ﴿الْقَبْضَهُ وَالسَّلِيمُ کی حَقِيقَتُ﴾

وہ یہ کہ شرعی قبضہ کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے پکڑ لے یا میمع کو منتقل کر کے اپنے مقام پر لے آئے۔  
قبضہ کی تفسیر دوسرے ائمہ شافعیہ وغیرہ کے یہاں تو ہے۔

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقَبْضُ فِي الدَّارِ وَالْعَفَارِ وَالشَّجَرِ  
بِالْتَّخْلِيَةِ . وَأَمَّا فِي الدَّارِ وَالدَّنَانِيرِ فَسَأُؤْلُهُمَا بِالْبَرَاجِمِ وَفِي  
الشَّيْبِ بِالنَّقْلِ (بدائع ج ۵ / ۲۳۳)

لیکن فقهاء احناف کے نزدیک شرعی قبضہ کا مفہوم وسیع ہے۔ ان کے نزدیک قبضہ کا حاصل صرف تخلیہ ہے، اور تخلیہ کا حاصل یہ ہے کہ بالع اور مشتری کے درمیان باعتبار حقیقت یا باعتبار عرف وعادت کے ایسا کوئی مانع اور حائل نہ ہو جو عرفی قبضہ اور تصرف کرنے سے مانع ہو بلکہ میمع اس حال میں ہو کہ مشتری اگر اس میں تصرف کرنا چاہے تو آزادی کے ساتھ تصرف کر سکے گو میمع ابھی بالع کے پاس ہی موجود ہو۔

وَأَمَّا تَفْسِيرُ السَّلِيمِ وَالْقَبْضِ فَالسَّلِيمُ وَالْقَبْضُ عِنْدَنَا هُوَ  
الْتَّخْلِيَةُ وَالْتَّخْلِيٌّ وَهُوَ أَنْ يُخَالِي الْبَايْعُ بَيْنَ الْمَبِيعِ وَبَيْنَ الْمُشَتَّرِيِّ  
بِرَفْعِ الْحَائِلِ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ يَسْمَكُنُ الْمُشَتَّرِيِّ مِنَ التَّصْرُفِ فِيهِ  
فَيُجْعَلُ الْبَايْعُ مُسَلِّمًا لِلْمَبِيعِ وَالْمُشَتَّرِيِّ قَابِضًا لَهُ .

(بدائع ج ۵ / ص ۲۳۳)

لَأَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخْلِيٌّ وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا  
وَعَادَةً وَحَقِيقَةً (بدائع ج ۵ / ۱۳۸)

وَلَهُدَا كَانَتِ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا وَقَبْضًا فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ .

(بدائع ج ۵ / ص ۲۲۳)

قضہ کی اگر مذکورہ بالاقسیر کو پیش نظر کھا جائے جس کا حاصل باعث کی جانب سے تسلیم اور مشتری کی جانب سے قدرت ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا قضہ مندرجہ بالا صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وکیل بالشراء (جو بعد میں مشتری بن رہا ہے) جس کے قضہ میں میمع موجود ہے (مفروضہ صورت مسئولہ میں) اس کی طرف سے تسلیم تو پائی جاتی ہے، اور ادارہ کو قدرت بھی حاصل ہوتی ہے، اگر ادارہ چاہے تو میمع میں تصرف کرے اور وکیل بالشراء اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس صورت میں ادارہ کا قضہ تو حکماً ہوئی گیا، کیونکہ تخلیہ پایا گیا (گویا حقیقتہ وکیل بالشراء کے قضہ میں ہے) اس کے بعد پھر اس کا قضہ کرنا یہ کویا قضہ ثانیہ ہے جو بحیثیت مشتری کے ہے۔ واللہ اعلم

اور میمع کا وکیل کے پاس ہی موجود رہنا یہ ادارہ کے قضہ کے منافی نہیں، بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک شے باعث کے پاس موجود ہے۔ لیکن معاملہ ہو جانے کے بعد مشتری کو اس پر قابض کہا جاتا ہے، مثلاً ذیل کے مسئلہ میں:

وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ إِنْسَانٍ كُرَّا بِعَيْنِهِ وَدَفَعَ غَرَائِيرَهُ وَأَمْرَهُ بِإِنْ يَكْيِيلَ فِيهَا فَفَعَلَ صَارَ قَابِضًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعِينٌ وَقَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِى بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَصَحَّ أَمْرُ الْمُشْتَرِى ؛ لِأَنَّهُ تَنَاؤلَ عَيْنًا هُوَ مِلْكُهُ فَصَحَّ أَمْرُهُ وَصَارَ الْبَاعِعُ

وَكَيْلًا لَهُ وَصَارَتْ يَدُهُ يَدَ الْمُشْتَرِيِّ . وَكَذَلِكَ الطَّحْنُ إِذَا طَحَنَهُ  
البَائِعُ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِيِّ صَارَ قَابِضًا (بدائع ج ۵ / ص ۲۷)

اس لئے مذکورہ بالا تصریح کے پیش نظر یہ کہنے کی گنجائش نظر آتی ہے کہ  
اگر چیز وکیل بالشراء کے پاس موجود ہے، لیکن تسليم تمکین کی وجہ سے حکما  
(نیا) قبضہ پایا گیا اسلئے یہ صورت بھی جائز ہونا چاہئے۔

جس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقهاء نے قبضہ امانت کو باوجود یہ کہ قبضہ  
ضمان کے لئے کافی نہیں سمجھا، لیکن اس کے بعد ان الفاظ میں اس قسم کی صورتوں  
کا استثناء بھی فرمایا ہے جن میں حکماً قبضہ (قدرت تصرف) پایا جاتا ہے۔

لَا يَكُونُ قَابِضًا إِلَّا إِذَا دَهَبَ السُّمُودُ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى الْعَيْنِ  
وَإِنْتَهَى إِلَى مَكَانٍ يَمْكُنُ مِنْ قَبْضِهَا فَيَصِيرُ الآنَ قَابِضًا بِالْتَّخْلِيَةِ  
(البحر الرائق ج / ۲۶، شامی ج / ۲۷ ص ۱۱۲)

لَا يَصِيرُ قَابِضًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِدَهْبِهِ إِلَى حَيْثُ يَتَمَكَّنُ  
مِنْ قَبْضِهِ بِالْتَّخْلِيَةِ (بدائع ج ۵ / ص ۲۸)

غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانویؒ نے شمن کے ادھار کے ساتھ بمع مرادیت کا  
جو اتجہید قبضہ کے بغیر اس صورت میں تحریر فرمایا ہے جس میں مال لانے  
والے کی حیثیت اجر کی ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ بھی قبضہ امانت  
ہے۔ ملاحظہ ہو:

”عمرو نے زید کو ۹ روپے مال لانے کے واسطے دیئے، اور تین روپے  
خریداری کی اجرت دی۔ زید نے مال خرید کر اپنے ہی مکان یا دکان پر  
اتارا، عمرو کے مکان دکان پر نہیں اتارا۔ عمرو نے مال منگوانے کے قبل شرط

کر لی تھی کہ جس وقت تم ہمارا مال جوڑ وادو گے ہم کو اختیار ہو گا، خواہ ہم تم کو دیں یا اپنے مکان پر لے جائیں اور تم کونہ دیں، عمر نے جوڑ نے کے بعد زید سے دریافت کیا کہ یہ مال تم کس طرح خریدتے ہو؟ زید نے کہا پانچ ماہ کے لئے لیتا ہوں اور اٹھارہ روپے کے منافع سے دونگا۔

جواب: یہ بیع مرآجح بنا جیل لشکن ہے اور بقیوہ مذکورہ سوال درست ہے۔

(امداد الفتاوی ج/۳۹ ص/۴۲، سوال)

### خلاصہ کلام

یہ کہ صورتِ مسئولہ میں وکیل بالشراء کا اس میمع کو مؤکل سے خرید لینے میں کوئی حرج نہیں اور ابتداءً اس کا قبضہ قبضہ وکالت منجاب مؤکل تھا اور ثانیاً اس کا قبضہ بحیثیت مشتری تھا۔ تجدید قبضہ شرط ضرور ہے لیکن حکمی و معنوی طور سے قبضہ ثانیہ پایا جاتا ہے۔

اور جس طریقہ سے باائع مشتری کا وکیل بن سکتا ہے، اور یہ وکیل بنانا ہی قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسا کہ ماقبل کی بدائع کی عبارت میں گزرا، اسی طرح وکیل بالشراء کا مشتری بننا اور مؤکل کا باائع بننا بھی درست ہو گا۔ یعنی جس طریقہ سے وکالت اور بیع و شراء علی سبیلِ تعاقب بغیر کسی فصل و حقیقی تجدید قبضہ کے بغیر جمع ہو سکتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی وکالت اور بیع و شراء بغیر کسی فصل و تجدید قبضہ کے جمع ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔“

(جدید فقہی مباحث، بحث المراءۃ، مقالہ ازمفتی محمد زید باندواری صاحب

ج: ص/۳، ۲۸۸ تا ۲۸۸، طبع: ادارۃ القرآن)

(غیرسودی بینکاری ص/۲۲۸ تا ۲۳۳)

اس تحریر سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وکیل بالشراء کا قبضہ (جس نے پہلے اس شیء پر بحیثیت وکیل اماماً قبضہ کیا تھا اب اس کا اپنے لئے قبضہ ملک بدوں موکل کولوٹا ہے) صحیح ہے۔

**آقوٰ! اولاً:** تو حضرت باندؤی مدظلہ کی تعمیم قبض جو ”قدرتِ تصرف“ کے عام مفہوم سے فرمائے ہیں، یقین ہے کہ مجوزین حضرات کی علمی دیانت بھی اس سے آبی ہوگی۔  
**ثانیاً:** اس تعمیم کے پیش نظر مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مبیع کے ہلاک ہونے کا ضمان عادۃ کبھی بھی باعث پر نہیں آئے گا۔

**ثالثاً:** صفحہ نمبر ۲۳۲ پر بدائع کی جو عبارت علامہ باندؤی مدظلہ نے نقل فرمائی ہے اس میں ”غراڑہ“ اور ”طحن“ کی شرط لغو ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ”قدرتِ تصرف“ کے عام مفہوم سے قبضہ ہو چکا، اگر لغو نہیں تو یہ تعمیم باطل، اور امید ہے کہ حضرت مدظلہ بھی علامہ باندؤی مدظلہ کے لحاظ میں بدائع کی شرط لغو نہیں فرمائیں گے۔

جب بدائع کی عبارت نے ساتھ نہیں دیا تو اس عبارت پر تفریغ کرتے ہوئے یہ فرمانا ”اس نے مذکورہ بالا تصریح کے پیش نظر یہ کہنے کی گنجائش نظر آتی ہے کہ اگر چہ مبیع وکیل بالشراء کے پاس موجود ہے لیکن تسلیم و تکمیل کی وجہ سے حکماً (نیا) قبضہ پایا گیا اس نے یہ صورت بھی جائز ہونی چاہیئے“، کسی طرح بھی درست نہ ہوگا۔

**رابعاً:** صاحب الحجر اور علامہ شامی رحمہما اللہ تعالیٰ کی عبارت سے بھی جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ بھی تسامح ہی تسامح ہے اور ظن غالب ہے کہ مجوزین حضرات میں سے کوئی بھی اس سے انکار نہیں فرمائیں گے۔ اگر صاحب الحجر اور علامہ شامی رحمہما اللہ تعالیٰ کی اس عبارت سے ”قدرتِ تصرف“ کا عام مفہوم ثابت ہوتا تو ”الا اذا ذهب المستعير الى العين“ اور

”انتہی الی مکان“ کی شرط نہ ہوتی کیونکہ ان شرائط کے بغیر بھی تو ”قدرتِ تصرف“ بالمعنى العام پایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ علامہ ابن حکیم اور علامہ شامی رحمہما اللہ تعالیٰ کی عبارت بھی ساتھ نہیں دے رہی، لہذا اس سے بھی اپنے مطلب کا نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں۔

خامساً: آخر میں بداع کی عبارت بھی دعویٰ کے خلاف ہے کیونکہ ”الا ان یکون بحضورته“ اور ”اویذھب الی حیث یتمکن من قبضه“ کی شرط دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ کیونکہ قبض بمعنی ”قدرتِ تصرف“ ان شرائط کے بغیر بھی پایا جا رہا ہے تو بلا وجہ ان شرائط کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ان کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟

ساویساً: حضرت قانونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ کا جو مداربتیاً کیا ہے وہ بھی درست نہیں کیونکہ موکل نے جوڑ نے (شارکرنے) کے بعد زید سے دریافت کیا کہ یہ مالم تم کس طرح خریدتے ہوائی (غیر سودی بینکاری ۲۳۳)

تو موکل کا اپنے لئے شمار کرنا یہ اس کا قبضہ ہے لہذا اس سے اچھر کا امانتاً قبضہ ختم ہو گیا اب بعј کے بعد جو قبضہ ہو گا وہ جدید قبضہ ہو گا۔

اسوں اتنی واضح عبارت اور پھر بھی حضرت قانونی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ دیدہ دانتہ اتنی بڑی غلط بات لگانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟

سابعاً: صفحہ نمبر ۲۳۳ پر ”خلاصہ کلام“ کے تحت جو نتیجہ نکلا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ بالع کا جو وکیل مشتری بنتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بالع کا قبضہ قبضہ خمان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وکیل کی حیثیت سے جب عمل کرے گا یعنی بوروں میں جب غله بھرے گا یا پسوائے گا تو قبضہ شمار ہو گا، جب موکل کے لئے عمل کیا تو اس عمل کی وجہ سے قبضہ ہو گیا۔ اگر صرف وکیل بنانے سے قبضہ تام ہوتا تو عمل کی شرط نہ لگاتے، جبکہ صورت زیر بحث میں

پہلا قبضہ قبضہ امانت ہے نہ کہ قبضہ ضمان اور دوسرا قبضہ ضمان ہے، جو کہ پہلے سے قوی ہے اور بناء الضعیف علی القوی کی تو مثالیں ملتی ہیں جبکہ بناء القوی علی الضعیف کو ہرگز درست کہنا شاید مشکل ہو۔

### ﴿میع کا بینک کے ضمان میں آنا﴾

”میع کا بینک کے ضمان میں آنا“ کے عنوان کے تحت بینک اور خریدار کے مابین مراجحہ ایگر یمنٹ کی وہ شق جس میں خریدار بینک سے مراجھہ خریداری کا وعدہ کرتا ہے، کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم آپ سے وہ اٹاٹے فوراً مراجھہ کی بنیاد پر خرید لیں گے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی ایسے حقیقی نقصان کی ہم تلافی کریں گے“ ”جو وہ اٹاٹے کسی تیسرے فریق کو بیچنے کے نتیجے میں آپ کو پہنچے بشرطیکہ وہ متوقع نفع کا نقصان نہ ہو،“ (غیرسودی بینکاری ص ۲۲۳)

آقوی! یہ شرط کہ ”ہم آپ سے وہ اٹاٹے فوراً مراجھہ کی بنیاد پر خرید لیں گے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی ایسے حقیقی نقصان کی ہم تلافی کریں گے“ مفسد عقد ہے یا نہیں؟ فوراً کی مدت کیا ہے؟ یہ جہالت مفضیہ الی النزاع ہے یا نہیں؟ (بشرطیکہ کوئی حق بات سننے کے لئے تیار ہو ورنہ ظالم کی کوئی شرط بھی مفضی الی النزاع نہیں، کیونکہ مظلوم کو زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں)

آگے فرماتے ہیں: ”اب سننے کے اصل حقیقت کیا ہے؟..... اگر وہ وکیل کی

تعذر کے بغیر ہلاک ہو جائے یا اس میں کمی آجائے تو نقصان بینک کا ہو،“

(غیرسودی بینکاری ۲۲۵)

**آقول!** فرماتے ہیں: کمی ہو جائے تو نقصان بینک کا ہو..... حالانکہ پہلے اصل عبارت میں فوراً خریدنے کی شرط کا حیلہ خود بینک کو اس مقصد کے لئے بتایا ہے تاکہ اچانک کم ہونے کی صورت میں کمی کے نقصان سے بینک کو بچایا جائے۔

### ﴿خریداری کے بعد ایجاد و قبول کے دستاویز کی شرعی حیثیت﴾

”مرا بحکم وقت لاغت اور قیمت کا تعین“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ وکالتہ خریداری کے بعد باقاعدہ مشتری کی طرف سے ایجاد بیع کے کاغذات جاتے ہیں اور پھر بینک سے قبول کر کے فروخت کرتے ہیں اور دستخط ثبت کرتے ہیں اور پھر یہ کاغذات مشتری کو ملتے ہیں (ملخصاً من غیرسودی بیکاری ۲۲۱، ۲۲۲) (۲۲۲، ۲۲۱)

**آقول!** اولاً: تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کاغذات بائی ڈاک جاتے ہیں یا دستی ہوتے ہیں؟

ثانیاً: اس دستاویز کی تکمیل کے لئے کوئی مدت شرط ہے یا نہیں؟

ثالثاً: اگر شرط ہے تو کمی بیشی کی صورت میں بیع اور بیع کے ضمان پر کچھ اثر پڑیگا یا نہیں؟

رابعاً: وکالتہ خریداری کے ایجاد کے دستاویز کے جانے اور قبول کے دستاویز کے واپس آنے کے زمانے میں بیع کہاں، کس کے قبضہ اور کس کے ضمان میں ہوتا ہے؟

خامساً: بینک نے جس بائع سے بواسطہ وکیل مال خریدا ہے، بینک کے بائع بنے کے بعد یہ مال بائع اول کے گودام اور شوروم میں الامانہ ہوتا ہے یا ضمانتاً؟ ان تمام تفصیلات کے بعد ایجاد و قبول کے دستاویز کی شرعی حیثیت صحیح طور پر معلوم ہو سکے گی۔

### ﴿مرا بحکم بنوکیہ اور مرا بحکم شرعیہ میں واضح فرق﴾

مرا بحکم شرعیہ شروع نہ فاسدہ سے پاک اور ابتداء تا انتہاء شرعی جواز سے آراستہ اور حقیقی

تراضی جانبین پرمنی ایک اسلامی عقد ہے، جبکہ مراجعہ بنو کیہ شروط فاسدہ سے آلوہ، شرعی جواز سے محروم اور جرمی تراضی پرمنی ایک غیر اسلامی عقد ہے۔

”مراجعہ کا عملی طریقہ کار“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بینک کے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس جس چیز کا گاہک آتا ہے اسے خرید کر گاہک کو بیچا ہے ظاہر ہے کہ اگر خرید کر اپنی ملکیت اور رضمان میں لا کر بیچ جو اس پر کوئی فقہی اشکال نہیں ہو سکتا، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند میں یہی سوال پوچھا گیا تھا۔ یہ سوال و جواب درج ذیل ہیں:

سوال (۳۵) موجودہ وقت میں تجارت کا عام طور پر یہ قاعدہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے کوتا جر بتلاتے ہیں اور کسی کسی چیز کی تجارت بھی کر لیتے ہیں لیکن با قاعدہ دکان وغیرہ نہیں رکھتے جب کوئی فرماں شکس کی آتی ہے تو بازار سے مال خرید کر اس پر اضافی قائم کر کے خریدار کو بھیج دیتے ہیں، کیا یہ منافع جائز ہیں؟

الجواب: اگر اس میں کوئی دھوکہ نہ کیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہاں کے بازار کا یہی نرخ ہے تو منافع جائز ہیں، البتہ بہت زیادہ نفع اس پر لگا کر بہت گراں فروخت کرنا مردود کے خلاف ہے اس لئے اچھا نہیں اور فتاویٰ برازی میں بعض ائمہ حنفیہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) سے زیادہ گراں فروخت کرنے کی کراہت نقل کی ہے۔“

(امداد الحفظین، ۸۲۳، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۰۹)

**آقول!** حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس سوال کا جواب دیا ہے اس سوال میں اور مرا بحث بنوکیہ میں زین و آسمان کا فرق ہے، تجھب ہے کہ اتنے بڑے فرق کو کیسے نظر انداز کیا گیا؟ مرا بحث بنوکیہ کا جواب امداد الفتاوی میں ہے، ذرا سوال وجواب دونوں ملاحظہ فرمائیں:

”سوال (۳۲): عمر و نے زید سے کہا تم مجھ کو یک صدر و پیہ کا مال جنت پاپوش منگادو، میں تم سے ..... کامناف دے کر ادھار ایک ماہ کے واسطے خرید کرلوں گایا جس قدر مدت کے واسطے تم دو گے اسی حساب سے مناف دوں گا یعنی پانچ روپے یک صدر و پیہ کامناف ایک ماہ کے واسطے ہے، جب مال آجائے گا اس وقت مدت ادھار اور مناف کی معین ہو جاوے گی۔ اس کے جواب میں زید نے کہا کہ میں منگادوں گا مگر طمیان کے واسطے بجائے یک صد کے دو صد کار قعہ لکھاؤں گا تاکہ تم خلاف عہدی نہ کرو، عمر و نے منظور کیا؟

الجواب: اس میں دو مقام قابل جواب ہیں ایک یہ کہ زید و عمر و میں جو گفتگو ہوئی یہ وعدہ مخصوصہ ہے کسی کے ذمہ بخکم عقد لازم نہیں اگر زید کے منگانے کے بعد بھی عمر و انکار کر دے تو زید کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں پس اگر عرف و عادت میں عمر و مجبور سمجھا جاتا ہو تو یہ معاملہ حرام ہے ورنہ حلال اخ“، (امداد الفتاوی ۳/۲۰)

**آقول!** مرا بحث بنوکیہ ایسے وعدوں میں جکڑا ہوا ہے جن کا پورا کرنا بقول حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ لازم نہیں، بلکہ پورا کرنے کو لازم سمجھنا حرام ہے۔ مشتری کو نہ لینے کا حق

ہوتا ہے، منافع میں کمی زیادتی کا اختیار ہوتا ہے اور من واقعی سے زیادہ لینا حرام ہوتا ہے۔

**نتیجہ:** امداد مقتبن کے سوال و جواب میں نہ اس قسم کی شروط کا ذکر ہے اور نہ ان کے حکم کا، جبکہ بینکوں کے مراجحہ میں یہ ساری شرطیں موجود ہیں۔

## ﴿مراجحہ اور سودی قرض میں فرق﴾

اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:

”دونوں میں متعدد فرق ہیں جو درج ذیل ہیں۔

”(۱) سودی قرض میں بینک کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ قرض لینے والا اس قرض کو کہاں استعمال کرے گا۔ یہ قرض کسی بھی مقصد کے لئے لیا جا سکتا ہے چنانچہ بسا اوقات یہ قرض اپنے واجب الاداء بلouں کی ادائیگی کے لئے کبھی اپنے ملازمین کو تجوہ اہیں دینے کے لئے اور کبھی اپنی ذاتی ضروریات میں خرچ کرنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مراجحہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب بینک کے گاہک کو واقعی کوئی چیز خریدنی ہو لہذا مراجحہ نہ بلouں کی ادائیگی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے نہ تجوہ اہیں دینے کے لئے نہ اور ڈرافٹ کے لئے یہ اسی صورت میں استعمال ہو گا جب واقعی کوئی خریداری مقصود ہو،“

(غیرسودی بینکاری ص ۲۳۵)

**آقو!** مراجحہ ان مقاصد کے لئے کیوں استعمال نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ بینک سے کوئی چیز مراجحہ پر لے اور جس سے بینک کا وکیل بن کر لیا تھا اسی کو واپس کر کے بینک کا دیا ہوا پیسہ لے کر ان مقاصد کے لئے استعمال کرے جیسے بیع عینہ والے کرتے ہیں بینک کو تو عینہ

وغیرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں بلکہ بینک کو تومال کے کاغذات کے علاوہ اصل مال دیکھنے اور اس کے موجود ہونے کی بھی نہ ضرورت نہ حاجت۔

نیز یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی فیکٹری میں مال پڑا ہوا موجود ہو لیکن تنخوا ہوں کی رقم موجود نہ ہوا اور اس کے کئی شریک ہوں جن میں سے بعض عارضی طور پر بینک سے رقم وصول کرنے کے لئے پوری فیکٹری کے مالک بن چکے ہوں اور بعض مال کے مالک، اسی طرح وہ بینک سے پیسے نکلا کر تنخوا ہوں وغیرہ دوسری ضرورتوں میں استعمال کریں..... فرق صرف اتنا ہو گا کہ سودی بینک ان کاموں کے لئے براہ راست رقم دیتے ہیں اور یہ بالواسطہ..... اور اس فرق کا اثر جواز اور عدم جواز پر کتنا پڑتا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک مستقل بات ہے، اگر اس کو سود سے نبچنے کا حیلہ کہا جائے تو جائز اور سود کھانے کا حیلہ کہا جائے تو حرام! جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اس لئے سود حاصل کرنے کے لئے کوئی حیلہ اور تمدید بر اختیار کرنا ممنوع ہے، اور سود سے نبچنے کے لئے تدبیر اختیار کرنا درست ہے“

(فتاویٰ محمودیہ ۲۲۷ تا ۲۲۶ ط: قدیم، غیر سودی بینکاری ۲۰۷، ۲۰۶)

”(۳) مراجع میں چونکہ بینک کوئی چیز خرید کر بچتا ہے، اس لئے وہ چیز پہلے اس کے ضمان میں آتی ہے، اور آگے بیچنے سے پہلے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو نقصان بینک کو اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ سودی قرضوں میں بینک اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ عام طور سے بینک کے قبضہ میں اس چیز کے رہنے کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے“، (غیر سودی بینکاری/ ۲۳۶)

**آقو!** دونوں میں عادۃ ہلاکت کا خطرہ نہیں ہوتا صرف امکانی احتمال کے درجہ میں اسلامی بینک میں ہلاکت کا خطرہ ہو گا کیونکہ یہ اختصار اتنا ہوتا ہے جس میں عادۃ ہلاکت کا

احتمال نہیں ہوتا، اور شاید شرعاً یہ معتبر ہی نہ ہو۔

آگے فرماتے ہیں:

”لیکن بعض صورتوں میں یہ وقہ کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے اور ایسی صورتیں عملاً پیش آتی ہیں کہ بینک کو اس چیز کی تباہی کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے،“ (حوالہ بالا)

**آقول!** مجوزین حضرات نے بینک کو ہر چھوٹے بڑے نقصان سے بچانے کے لئے جو تدابیر بتائی ہیں ان کے پیش نظر تو عملاً ایک بار بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے..... جب چھوٹے نقصان سے بینک کو مکمل تحفظ دے چکے تو بڑے نقصان سے تو بطریق اولیٰ تحفظ دے چکے ہونگے، بلکہ دے چکے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ”تکافل“ کے نام سے یہ کہ کو قائم فرمایا۔ بینک ”تکافل“ کا پورا خرچہ مع نفع / سود، گاہک ہی کے ذمہ ڈالتا ہے اور ہلاکت کی صورت میں تکافل سے وصول کرتا ہے تو بینک کو نقصان کب ہوتا ہے؟

”(۲) سودی قرضوں میں اگر مقروض شخص اپنا قرض ادا نہ کرے تو اس کا سود بڑھتے رہنے کی وجہ سے بینک کی آمدنی مسلسل بڑھتی جاتی ہے غیر سودی بینکاری میں اگرچہ مقروض تنگ دستی کی وجہ سے بروقت ادا یگی نہ کر سکے تو اسے کوئی اضافی رقم دینی نہیں پڑتی البتہ اگر مالدار ہونے کے باوجود بروقت ادا یگی نہ کرے تو اسے تاخیر کے مطابق رقم صدقہ کرنی پڑتی ہے مگر اس سے بینک کی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا،“

(غیرسودی بینکاری/ ۲۳۶)

**آقول!** یہ بھی درحقیقت نام ہی کا فرق ہے کسی مذہب میں لزوم التزام صدقہ بوقت

مرا بحث و اجارہ جائز نہیں۔ یہ طبیخ خاطر کے بغیر صرف صدقہ کے نام سے لوگوں پر ڈاکہ ڈالنا اور جبراً ان کے مال کو باطل طریقہ پر ہڑپ کرنا ہے نیز یہ کہنا کہ اس سے بینک کی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا محل کلام ہے کیونکہ علماء نے جب بینک کو مشورہ دیا تھا کہ ”یہ فنڈ بینک کی بجائے کسی ثالث کی تحویل میں رہے“، تو بینک نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور اپنی ہی تحویل میں رکھنے پر مصروف رہا۔

علماء کی اس تجویز کو رد کرنا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اس میں بینک کا نفع ضرور ہے ورنہ جمع کرنے اور پھر خیراتی کاموں میں صرف کرنے کا بوجھ ہرگز ہرگز نہ اٹھتا۔۔۔۔۔ لہذا یہ فرق صرف زبانی جمع خرچ ہی لگتا ہے۔

”(۵) سودی بینکوں میں ایک شخص سودی قرض لے کر جو ناجائز اور حرام کام کرنا چاہے، کرسکتا ہے سودی بینک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن غیرسودی بینکاری میں مرا بحث اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب خریدی جانے والی چیز شرعاً حلال ہو چنانچہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت مرا بحث کے ذریعے ممکن نہیں ہے جن کو ملکیت میں لانا شرعاً حرام یا ناجائز ہے، مثلاً سینما، لاٹری کے ٹکٹ، سودی اداروں کے حصص یا سودی بانڈو غیرہ

(غیرسودی بینکاری/ ۲۳۶)

**آقو! اولاً:** پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مقرض مطلق کو مستقرض کے ان منکرات کی وجہ سے گناہ ہوگا؟

**ثانیاً:** دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرا بحث کو عینہ یا جعلی کارروائی کے ذریعہ لفڑ قلم کے وصول کا ذریعہ بنانا کر پھر ان لفڑ کو خلاف شرع امور میں استعمال کرنا جائز ہے؟ کان ادھر سے پکڑ دیا

اُدھر سے.....

”(۶) سودی بینکوں میں جو قرضے جاری کئے جاتے ہیں چونکہ ان کا حقیقتی اثاثوں سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس لئے وہ اس مصنوعی زربیدا کرنے کا بہت بڑا سبب ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقی مالیت نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت ایک غبارہ کی شکل اختیار کر گئی ہے، مرا بحکم میں یہ ممکن ہی نہیں ہے“، (غیرسودی بینکاری / ۲۳۷)

آقول! بے شک!..... لیکن اس مرا بحکم میں ممکن نہیں جو سود کھانے کے لئے بطور حیلہ استعمال نہ ہوتا ہوا اور جس مرا بحکم کو سود کھانے کے لئے بطور حیلہ کے استعمال کیا جاتا ہواں میں اور سودی قرضوں میں سارا کاسار ابو جھگا ہے اور خریدار پر برادر پڑتا ہے۔

اگر آج کوئی اسلامی اسکالر مرا بحکم سے ہٹ کر کوئی اور آسان صورت سود کھانے کی بتا دے تو یقیناً بینک فوراً الیک کہے گا اور مرا بحکم کو تھوک پھینک دے گا..... کیونکہ اس کا مقصد تجارت اور مرا بحکم واجارہ ہے ہی نہیں بلکہ بینک بے چارہ تو بوجہ مجبوری ان مرا بحکم واجارات کے حیلوں کے بکھیریوں میں گرفتار ہے۔

الحاصل حقیقی اور اصلی مرا بحکم اور سودی قرض میں تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن مرا بحکم بخوبیہ اور سودی قرض میں فرق بتانا شاید کہ قول نہ افتد۔

”(۷) سودی قرضوں میں ہر وقت یہ بات ممکن ہے کہ بینک اپنے واجب الوصول قرضے کسی دوسرے کو بیچ دے اور سودی اداروں میں قرضوں کی خرید و فروخت کا عام چلن ہے، لیکن مرا بحکم میں جو رقم واجب الاداء ہوتی ہے، وہ شرعاً کسی اور کو فروخت نہیں کی جاسکتی اور اس طرح قرضوں کی خرید و فروخت سے جو نگین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو موجودہ

معاشی بحران کا بہت بڑا سبب ہیں، مراجع کے عقود ان سے پوری طرح  
محفوظ ہیں، ”غیر سودی بینکاری/ ۲۳۷“ (۲۳۷)

**آقول!** مراجح بلکہ اجارہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی اشیاء اور ان کی اقساط کا، بنک  
کے ناقص نظام کی وجہ سے دوسرے پر فروخت کرنا اور اس کے ذمہ کی طرف منتقل کرنا عام  
معمول ہے بلکہ اس کے سد باب کے لئے بنک کے پاس کوئی نظام اور تدبیری نہیں ہے۔

”(۸) سودی بنکوں میں قرض لینے والے سرمایہ دار اپنی سہولت کے لئے  
بنک سے دن رات یہ معاملہ کرتے رہتے ہیں کہ قرض کی میعادیں اور  
قطیں بدل کر ہمارے سود میں کمی اور اضافہ کر دو جسے  
Rescheduling کہا جاتا ہے۔ مراجح میں جو قیمت ایک مرتبہ  
متعین ہو گئی، وہ ہمیشہ کے لئے متعین رہتی ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں  
ہو سکتی..... (غیر سودی بینکاری/ ۲۳۷)

**آقول!** مراجح اور اجارہ میں وہ مجبور لوگ جن کے پاس پہلے رقم نہیں تھی بعد میں آگئی  
اس وجہ سے وہ اپنی قطیں جلدی ختم کروانا چاہتے ہیں ان کو اجازت دینا چاہئے نیز اس کے  
جو از کی کوئی صورت بھی مخت کر کے ڈھونڈ لانا چاہئے۔

### ﴿مفروضہ شخص قانونی﴾

شخص قانونی کے تصور کی شرعی حیثیت کی بحث کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی تقی عنانی  
مدظلہ نے اپنی کتاب ”اسلام اور جدید میں ایشت و تجارت“ میں چار ناظائر پیش فرمائے ہیں، پہلے  
حضرت والا کے الفاظ میں وہ ناظائر ملاحظہ فرمائیں:

”پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شرکت کا الگ سے کوئی قانونی وجود نہیں ہوتا، مگر کمپنی کا

اپنا مستقل قانونی وجود ہوتا ہے جس کو ”شخص قانونی“ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شخص قانونی کا تصور شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ..... جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں گو ”شخص قانونی“ کی اصطلاح موجود نہیں، لیکن اس کے نظائر موجود ہیں۔

### ”شخص قانونی“ کے نظائر

۱۔ وقف: اس کے لئے اگرچہ شخص قانونی کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، مگر حقیقت میں یہ ایک شخص قانونی ہے، اس لئے وقف مالک ہوتا ہے، مسجد یا وقف کو چندہ دیا جائے یا کوئی اور چیز دی جائے تو وہ چندہ یا دیگر عطیات وقف نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے وقف ہونے کی تصریح نہ کر دی جائے، بلکہ وقف کے مملوک ہوتے ہیں اور وقف مالک ہوتا ہے۔ وقف دائن بھی ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص وقف کی زمین کرایہ پر لیتا ہے تو یہ کرایہ وقف کا دین ہے اور وقف دائن ہے۔ ایسے ہی وقف مدیون بھی ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص وقف کا ملازم ہے تو اس کی تنخواہ وقف کے ذمے دین ہے، عدالت میں مقدمہ ہو تو وقف مدعی اور مدععاً علیہ بھی ہو سکتا ہے، اور متولی اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ مالک ہونا، دائن ہونا، مدیون ہونا، مدعی یا مدععاً علیہ ہونا شخص کے اوصاف میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وقف میں ”شخص قانونی“ کی خصوصیات تسلیم کی گئی ہیں، گو نفہاء نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی۔

۲۔ بیت المال: بیت المال کے مال سے پوری قوم کا حق تو متعلق ہے، مگر ہر شخص اس مال میں مالک کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس مال کا مالک بیت المال

ہی ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال بھی ایک ”شخص قانونی“ ہے، بلکہ فقہاء کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال کی ہر مراد ایک مستقل ”شخص قانونی“ ہے۔ بیت المال کے دوالگ الگ حصے ہیں، بیت المال الصدقہ، اور بیت مال الخراج، امام زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک حصے میں مال نہ ہو تو بوقتِ ضرورت دوسرے حصے سے قرض لیا جاسکتا ہے۔ تو اس صورت میں جس حصے سے قرض لیا گیا وہ دائن اور جس حصے کے لئے قرض لیا گیا وہ مدیون ہوگا۔ دائن یا مدیون تو شخص ہوا کرتا ہے، معلوم ہوا کہ بیت المال کو بھی ”شخص“، فرض کر لیا گیا ہے۔

۳۔ ترکہ مستغرقة بالدین : کسی میت کا سارا ترکہ دیون سے مستغرق ہو تو اس صورت میں دائنین کا مدیون نہ میت ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص مدیون نہیں ہوتا، اور نہ ورش مدیون ہیں، اس لئے کہ ان کو تو میراث ملی ہی نہیں، لہذا یہاں مدیون ترکہ ہوگا جو ”شخص قانونی“ ہے۔

۴۔ خلطۃ الشیوع : یہ ظییر حفیہ کے نہب کے مطابق نہیں، بلکہ ائمہ ثلاشؒ کے نہب کے مطابق ہے، ان کے ہاں مالِ زکوٰۃ کی شخصوں میں مشاع طور پر مشترک ہو تو زکوٰۃ انفرادی حصوں پر نہیں، بلکہ مجموعے پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاشؒ کے ہاں مجموعہ ایک ”شخص قانونی“ ہے..... یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ”خلطۃ الشیوع“، اور کمپنی کے نظام میں یہ فرق ہے کہ ”خلطۃ الشیوع“، میں ائمہ ثلاشؒ کے ہاں مجموعے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر ہر شریک کی انفرادی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور کمپنی پر

الگ ٹیکس ہوتا ہے، اور شیرز ہولڈرز پر الگ ٹیکس ہوتا ہے۔

ان نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ ”شخص قانونی“ کا تصور فی نفسہ کوئی ناجائز تصور نہیں ہے، اور نہ فقہ اسلامی کے لئے کوئی اجنبی تصور ہے، البتہ یہ اصطلاح ضروری ہے۔

(اسلام اور جدید معيشت و تجارت ص ۸۱۸۰، طکتبہ معارف القرآن کراچی)

**آقول!** بینک کی عمارت کے لئے شخص قانونی کا فرض کرنا اساسی اور بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ کئی خلاف شرع امور کا جواز ثابت کیا گیا ہے حتیٰ کہ ان شورنس اور قمار جیسے حرام کو بھی اس کی بنیاد پر جائز کہا گیا ہے نیز اس فرضی شخص کو اخذ و عطا وغیرہ افعال و تصرفات جو فاعل مختار و حقیقی موجود کے افعال و تصرفات ہیں، کی طرف منسوب کر کے اصل شرعاً کو ان سے سبکدوش کیا ہے۔

### ﴿شخص قانونی کے ثبوت کے نظائر کے جوابات﴾

شخص قانونی کے ثبوت پر جن نظائر سے استدلال کیا گیا ہے، ان کا تفصیلی جواب ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

### نظیر نمبر (۱-۲) : وقف اور بیت المال

کہا گیا ہے کہ جس طرح وقف اور بیت المال کی طرف اخذ و عطا، اور دائن و مدیون بننے کی نسبت کی جاتی ہے اور شریعت نے اس کو درست تسلیم کیا ہے اسی طرح شخص قانونی کو بھی تسلیم کیا جائے۔

**جواب:** دونوں میں کئی اساسی اور بنیادی فرق موجود ہیں لہذا دونوں کو ایک حکم دینا درست نہیں۔

**فرق نمبر (۱) :** وقف اور بیت المال میں اموال کسی انسان ذی روح کے مملوک نہیں ہوتے، جیسا کہ خود حضرت مدظلہ نے لکھا ہے۔ جبکہ بینک میں شرکاء بقدر رأس المال بینک کے اثاثوں اور دوسرے اموال کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کامی کی صورت میں اٹاٹے اور جملہ اموال ان شرکاء میں بقدر حصہ تقسیم ہوتے ہیں۔ جبکہ خراب وقف میں یہ حکم نہیں۔

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : (قوله : و عندھما هو حبسها على) حکم (ملک الله تعالیٰ) قدر لفظ حکم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملک الواقف و لا انتقل الى ملک غيره بل صار على حکم ملک الله تعالیٰ الذى لا ملک فيه لأحد سواء والا فالكل ملک لله تعالیٰ .

(الشامية ۳/۳۳۸، ایج ایم سعید)

وقال رحمہ اللہ تعالیٰ أيضاً : (قوله : ولو خرب ما حوله و استغنى عنه يبقى مسجداً عند الاماں و الثنائی و به يفتني و عاد الى الملك) أى ملک البانی او ورثته (عند محمد) ..... لكن عند محمد انما يعود الى ملکه ما خرج عن الانتفاع المقصود ولو اوقف بالکلیه ، کھانوت احترق و لا يستأجر بشیء و رباط و حوض محلة خرب ، و ليس له ما يعمر به ، و أما ما كان معداً للغلة فلا يعود الى الملك الا نقضه و تبقى ساحتہ و قفا توجر ،

ولو بشیء قليل (الشامية ۹/۳۵۹، ایج ایم سعید)

**فرق نمبر (۲) :** وقف جب اتنے مساکین کے لئے ہو جن کا احصار ممکن نہ ہو تو اس وقف میں کسی خاص مسکین کا حق نہیں بلکہ متولی کو اختیار ہے جس کو چاہے اور جتنا چاہے دے

جبکہ بینک میں شخص قانونی کو یہ اختیار نہیں، البتہ اگر واقف نے مخصوص گئے پنچ فقراء کے لئے وقف کیا تو وقف بکم وصیت ہے اور اس کو وصیت کی طرح نافذ کیا جائے گا۔

قال فی الهندية : ان كان الوقف على فقراء قرابته و قرينته و هم لا يحصلون أو يحصلون أو أحد الفريقين يحصلون و الآخر لا يحصلون ففي الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لقراء قرابته و نصفها لقراء قرينته ثم يعطى من كل فريق من شاء منه و يفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة و في الصدقة الحكم كذلك و في الوجه الثاني يصرف الغلة الى الفريقين بعدهم و ليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية و في الوصية الحكم كذلك و في الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولاً فيصرف الى الذين يحصلون بعدهم و الى الذين لا يحصلون سهماً واحداً ثم يعطي هذا السهم من الذين لا يحصلون من شاء و يفضل البعض في هذا السهم كما بینا و هذا التفریع على قولهما و أما على قول محمد فلا يتائق كذا في الوجيز .

(الهندية ۶/۲ ، رشیدیہ)

**فرق نمبر (۳) :** وقف اور بیت المال کے بعض شعبوں کا مقروظ و مدیون اور دائن و مقرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وقف اور بیت المال کا چونکہ کوئی حقیقی مالک نہیں جس کی طرف ان امور کی نسبت کی جائے اسی بناء پر ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جبکہ بینک میں حقیقی مالک موجود ہیں لہذا حقیقتاً دائن و مدیون وغیرہ یہیں مالک ہیں اور کمپنی کی طرف نسبت صرف مجازاً ہے، جیسا کہ ٹرانسپورٹر گاڑی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گاڑی مقروظ ہو گئی ہے، یادوکاندار دوکان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوکان مقروظ

ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان تمام معاملات میں لوگ خود مقروض ہو چکے ہوتے ہیں مگر مجازاً نسبت کرتے ہوئے دوکان وغیرہ کا نام لیتے ہیں۔

قال العلامہ الحصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ : و علی الامام أن يجعل لکل نوع بیتا یخصه و له أن یستقرض من أحدھا لیصرفه للآخر و یعطی بقدر الحاجة و الفقه و الفضل فان قصر کان اللہ علیه حسیباً ، زیلعنی

قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ : (قوله : بیتا یخصه)  
فلا یخلط بعضه ببعض لأن لکل نوع حکماً یختص به ، زیلعنی  
(قوله : لیصرفه للآخر) أى لأهله قال الزیلعنی رحمہ اللہ تعالیٰ ثم اذا حصل من ذلك النوع شیء رده في المستقرض منه الا أن یكون المتصروف من الصدقات أو من خمس الغنیمة على أهل الخراج و هم فقراء فانه لا يرد فيه شيئاً لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر و كذا في غيره اذا صرفه الى المستحق اهـ

(الشامیہ ۲۱۹ ، ایج ایم سعید)

﴿علامہ حکیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام پر لازم ہے کہ وقف کی ہر فتحم کے لئے ایک الگ مد بنائے جو اس کے لئے خاص ہو اس کو یہی حق حاصل ہے کہ ایک مدد سے قرض لے کر دوسرا کے لئے صرف کر دے اور لوگوں کو بھی ان کی حاجت، فقہت اور فضیلت کے اعتبار سے دیا کرے اگر اس نے اس میں کوتا ہی کی تو اللہ تعالیٰ ہی اس سے حساب لیں گے۔﴾

علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ الگ الگ مد کی تخصیص کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض بعض کے ساتھ خلط نہ ہو اس لئے کہ ہر ایک فتحم کا

حکم علیحدہ ہے جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہے زیلیعی (دوسری مدد کے مستحقین پر صرف کرے) علامہ زیلیعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر اس دوسری مدد میں کچھ آجائے تو جس مدد سے قرض اٹھایا ہے اسی میں واپس کر دے، ہاں اگر صدقات یا غیمت کے خمس میں سے اہل خراج جو کہ فقراء ہیں، کو دیا گیا ہو تو پھر واپس کرنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ یہ لوگ اپنے فقر کی وجہ سے صدقات لینے کے مستحق ہیں اور یہی حکم دوسری مدد میں بھی ہے بشرطیکہ امام اس کو اس مدد کے مستحق کے حوالے کر دے۔

**فرق نمبر (۲) :** وقف و بیت المال کا نگران متریع ہوتا ہے جیسے مسجد کا متولی وغیرہ اگر اس کے لئے واقف نے کچھ وقف کیا ہے تو صرف وہی لے گا اور اس، ورنہ عرف و عادت کے مطابق وقف کی جن بعض اشیاء کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے ان کو استعمال کرے گا، جبکہ بینک کا نگران بہت بھاری اجرت لیتا ہے اور مقصد کمائی ہی ہوتی ہے۔

قال العلامہ ظفر احمد العثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ : ( قوله : وفيه حدیث عمر أنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه وبؤكل صديقا غير متمول مالا ) قال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستفتح منه ذلك وفي روایة لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة،

..... قلت : وهذا اذا لم يعيّن له الواقف قدرًا معلوما فان عين شيئا فهوله و الا فله القدر الذي جرت به العادة ( اعلاء السنن ۱۳ / ۱۸۷ )

﴿علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ..... علامہ قرطبی رحمہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات عادت اور تعامل سے ثابت ہے کہ عامل وقف کے پھل سے کھاتا ہے یہاں تک کہ وقف کرنے والے نے (اس عادت و تعامل کے خلاف) یہ شرط لگا دی کہ کام کرنے والا اس سے نہیں کھائے گا تو اس کی یہ شرط قبیح سمجھی جاتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ وقف کے متولی کے لئے اس میں سے معروف اور اچھے طریقے سے لکھانے میں کوئی گناہ نہیں اور المعروف سے مراد اتنی مقدار کھانا ہے جس کی عادت ہو، قلت : یہ اس وقت ہے جب وقف کرنے والے نے کوئی مقدار معین نہ کی ہوا گر کوئی چیز معین کر دی تو وہ اس متولی کا ہو گا البتہ جہاں واقف نے کچھ بھی معین نہیں کیا تو پھر اس کو صرف اتنی مقدار کی اجازت ہو گی جس کی عادت اور تعامل ہے ॥

ان فروق کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ وقف اور بیت المال میں حقیقی مالک نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے جبکہ بینک میں حقیقی ملاک ہیں، لہذا حقیقتہ دائن و مدین آخذ و معطی وغیرہ یہی ملاک ہیں اور بینک کی طرف ان امور کی نسبت صرف مجاز ہے۔

### نظیر نمبر (۳) : ترکۃ مستغرقة بالدین

یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ احادیث میں ترک کو مدیون و مقروض نہیں کہا گیا بلکہ میت کو باعتبار ماکان کے مقروض کہا گیا ہے جیسے ﴿وَأَنْوَا الْيَتَامَى أُمَوَالَهُم﴾ میں بالغ کو باعتبار ماکان کے یتیم کہا گیا۔

عن سلمة بن الأكوع رض : أن النبى ص أتى بجنازة ليصلى عليها

فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا ، فصلى عليه ، ثم أتى بجنازة

آخری فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم ، قال : فصلوا على  
صاحبكم . قال أبو قتادة : على دينه ، يا رسول الله ، فصلى عليه  
(البخاري ، باب من تكفل عن ميت ، ۱/۳۰۶)

﴿حضرت سلمہ بن اکو عرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے پاس جنازہ لا یا گیا کہ آپ ﷺ اس پر نماز پڑھیں، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس پر کوئی قرضہ ہے؟ حاضرین نے جواب دیا: نہیں، پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز پڑھائی، پھر ایک دوسری جنازہ لا یا گیا آپ ﷺ نے فرمایا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ حاضرین نے عرض کیا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی نمازِ جنازہ پڑھو، حضرت ابو قتادة ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے تب آپ ﷺ نے اس کی نماز پڑھائی﴾

و عن أبي هريرة ﷺ قال : من ترك مالا فلورته و من ترك  
كلا فالينا (البخاري ۱/۳۲۳)

﴿حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثے کے لئے ہو گا اور جس نے کوئی بھی نہ چھوڑا اس کے ولی ہم ہیں﴾

جواب کا حاصل یہ ہے کہ باعتبار ما کان مدیون میت ہی ہے اور شرعاً اس کا اعتبار بھی کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ترک سے پہلے دین ادا ہو گا پھر باقی سے ورثہ کا حق متعلق ہو گا، مقدارِ دین کے ساتھ ورثہ کا حق ہی متعلق نہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میت کو باعتبار ما کان مدیون بھی کہا

گیا ہے اور اس دین کا اعتبار بھی کیا گیا ہے۔

رہی یہ بات کہ استغراق کی صورت میں اس کا دین و رشہ کی طرف منتقل کیوں نہیں ہوتا، تو اس کو جواب یہ ہے کہ شرعاً ورشہ کی طرف وجودی چیزوں منتقل ہوتی ہیں جبکہ دین عدمی چیز ہے۔

## نظیر نمبر (۲) : خلطہ الشیوع

یہ بھی درج ذیل وجودہ کی بناء پر درست نہیں۔

(۱) ائمہ ثلاشعہ حبہم اللہ تعالیٰ نے مال کو شخص نہیں قرار دیا بلکہ خلطہ کی وجہ سے ہر ایک مالک کو مجازاً پورے نصاب کا مالک تصور کیا ہے جیسے شرکت ملک میں متون کے مسئلے کے مطابق شریک اجیر چونکہ اپنے عمل کو خلطہ کی وجہ سے خالص اور جدا نہیں کر سکتا اس لئے اجرت کا مستحق بھی نہیں ہوتا، اس لئے اس زکوٰۃ کا ثواب، اموال اور فرضی شخص کو نہیں ملے گا بلکہ اموں کو ملے گا جبکہ شخص قانونی کو اموں سے الگ فرض کیا گیا ہے۔

(۲) خلطہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم ﴿وَأَتُوا الزَّكُوٰة﴾ کی وجہ سے اس کا مال مساکین کو کھلایا جاتا ہے عندہم، جبکہ زیر بحث مسئلہ میں شخص قانونی کے اختیارات کسی نص سے ثابت نہیں؟

(۳) یہ حکم احتیاط پر مبنی معلوم ہوتا ہے اور عبادات میں احتیاط پر عمل واجب ہو جاتا ہے جبکہ زیر بحث مسئلہ میں احتیاط کا پہلو اس کے مقابل ہے، کیونکہ جب شخص قانونی کو مستقل نہ سمجھا جائے گا تو دائنین کے اموال کی حفاظت ہوگی۔

(۴) وجوب زکوٰۃ دیانت اور عبادات کے قبل سے ہے جبکہ شخص قانونی کی وضع معاملات میں دوسروں کے اموال اور حقوق کو غصب کر کے ہڑپ کرنے کے لئے کی گئی ہے

(۵) ائمہ ثلاثہ حبّم اللہ تعالیٰ کا اس خلطہ پر اتفاق، شخص قانونی کے تسلیم پر اتفاق کو تسلیم

نہیں۔

قال العلامہ العینی رحمہ اللہ تعالیٰ: فعلی قول أبي حنیفۃ رحمہ  
الله تعالیٰ لا یجب علی أحد من الشرکیین أو الشرکاء فيما  
یملک الا مثل الذى کان یجب علیه لو لم یکن خلط، و ذکر  
فی المبسوط و عامۃ کتب أصحابنا أن الخلیطین یعتبر لکل  
واحد نصاب کامل کحال انفراد و لا تأثیر للخلطة فیها سواء  
کانت شرکة ملک بالارث، و الھبة، و الشراء، و نحوها او  
شرکة عقد كالعنان، و المفاوضة ذکرہ الوبری، و قال ابن  
المنذر: اختلفو فی رجلین بینهما ما شاء نصاب واحد قال  
الطائفة: لا زکوة علیهما قال: هذا قول مالک و الثوری و أبي  
ثور و أهل العراق و قال ابن حزم فی (المحلی) : و به قال  
شريك بن عبد الله و الحسن بن حی و قال الشافعی و الليث  
وابن حنبل و اسحاق تجب علیهما الزکوة و لو کانوا أربعین  
رجالا لکل واحد شاة تجب علیهم شاة و قال ابن المنذر : الأول  
أصح يعني عدم وجوب الزکوة و قال ابن حزم فی (المحلی) :  
الخلطة لا تحيل حکم الزکوة و هو الصحيح و قال الطرطوشی :  
لاتصح الخلطة الا أن يكون لکل واحد منهما نصاب کامل  
(عمدة القاری ۲/۲۳۲، بیروت)

”علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول  
کے مطابق دو یادو سے زیادہ شرکیوں میں سے ہر ایک پر مملوکہ چیز میں اتنا

ہی واجب ہوگا جتنا کہ خلط ہونے سے پہلے اس پر واجب تھا اور ہمارے اصحاب کی عام کتابوں میں مذکور ہے کہ دو شرکیوں میں سے ہر ایک کے لئے کامل نصاب کا اعتبار کیا جائیگا جس طرح بغیر شرکت کے انفرادی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں شرکت کا کوئی اثر نہ ہوگا، خواہ وہ شرکت ملک ہو جو وراثت، حصہ، شراء وغیرہ سے حاصل ہو یا شرکت عقد ہو جیسا کہ شرکت عنان و مفاوضہ وغیرہ، وبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ دو آدمیوں میں ایک ہی نصاب کے جانور مشترک تھے، ایک جماعت کا تو یہ کہنا ہے کہ ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور فرمایا کہ یہ قول امام مالک، ثوری، ابوثور اور اہلی عراق رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے اور ابن حزم ”المحلی“ میں فرماتے ہیں یہی قول شریک بن عبد اللہ اور حسن بن حی کا بھی ہے، اور شافعی، لیث، ابن حنبل اور اسحاق رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگرچہ چالیس آدمی ہوں اور ہر ایک کی ایک ایک بکری ہو تو بھی ان پر ایک بکری واجب ہوگی۔ ابن منذر فرماتے ہیں کہ قول اول (یعنی عدم وجوب زکوٰۃ) صحیح ہے، ابن حزم رحمہم اللہ تعالیٰ ”المحلی“ میں فرماتے ہیں کہ خلط (شرکت) زکوٰۃ کے حکم کو متغیر نہیں کر سکتا اور یہی صحیح قول ہے، اور طریقہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلط (شرکت) اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ ہر ایک کے لئے ایک نصاب نہ ہو یعنی ہر شریک ایک پورے نصاب کا مالک نہ ہو۔

و قال الحافظ رحمہ الله تعالى : ( قوله : و قال سفيان : لا تجب

حتیٰ یتم لهذا أربعون شاہ و لهذا أربعون شاہ) قال عبد الرزاق عن الشوری : ”قولنا : لا يجب على الخليطين شيء الا أن يتم لهذا أربعون و لهذا أربعون“ انتهى و بهذا قال مالک ، وقال الشافعی وأحمد وأصحاب الحديث : اذا بلغت ما شيتهمما النصاب زكيا (فتح الباری ۳/۳۰۲)

﴿حافظ ابن حجر رحمه اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ قول کہ (سفیان نے کہا زکوٰۃ واجب نہیں یہاں تک کہ دونوں کے لئے چالیس چالیس پورے ہو جائیں) عبد الرزاق، ثوری کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارا قول یہ ہے کہ ”دونوں شریکوں پر کوئی چیز واجب نہیں یہاں تک کہ دونوں کے لئے چالیس چالیس پورے ہو جائیں“ اور ایسی بات امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، شافعی، احمد اور اصحاب حدیث رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب ان دونوں کی کبریاں نصاب تک پہنچ جائیں تو دونوں زکوٰۃ دیں گے﴾

وقال فى المبسوط : و الاحتياط فى العبادة ليؤديها بكمالها واجب (المبسوط ۲۱۸/۱۲)

”مبسوط میں فرمایا: عبادت میں یہ احتیاط ملحوظ رکھنا کہ عبادت کامل طور پر ادا ہو جائے واجب ہے“

وقال المحدث السهارنفوری رحمہم الله تعالیٰ : فان لم تبلغ سائمه الرجل من الغنم أربعين فليس فيها شيء واجب من الزكوة الا ان شاء ربها أى مالكها فيتبرع متطوعا .

(بذل المجهود ۱۳/۳)

”محمد سہارنپوری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کی کبریاں

چالیس تک نہیں پہنچیں تو اس میں کچھ زکوٰۃ واجب نہیں، ہاں اگر اس کا  
مالک چاہے تو تمرع کر سکتا ہے“

وقال ملک العلماء الكاسانی رحمه اللہ تعالیٰ : و قال الشافعی  
رحمه اللہ تعالیٰ : اذا كانت أسباب الاسامة متحدة و هو أن  
يكون الراعی و المرعی و الماء و المراح و الكلب واحدا و  
الشريكان من أهل وجوب الزکوة عليهما يجعل مالهما كمال  
واحد و تجب عليهما الزکوة و ان كان كل واحد منهمما لو انفرد  
لا تجب عليه (البدائع ۲/۲۹)

وقال العلامہ ابن عابدین رحمه اللہ تعالیٰ : الا أن أكثرهم قادموا  
الزکوة عليه اقتداءً بكتاب الله تعالیٰ و لأنها أفضل العبادات بعد  
الصلوة ، قهستانی (الشامیة ۲۰۲/۳ ، رشیدیہ )

﴿اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ کی تائید کن کو حاصل ہے!﴾

ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بینک کے کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں مجوزین حضرات کی تحقیق اکابر  
رحمہم اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، اور وہ جہور علماء جو اسلامی نامی بینکوں کے معاملات کو غیر شرعی سمجھتے  
ہیں، کی تحقیق اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ کے موافق ہے۔  
ذیل میں چند نمونے ملاحظہ فرمائیے!

(۱) مرا بحکم واجارہ میں عقد سے پہلے وعدہ کو مجوزین حضرات صرف دیایہ نہیں بلکہ قضاء  
بھی لازم فرماتے ہیں اور پورانہ کرنے کی صورت میں گاہک کو بعض نوعیتوں کے نقصانات کا  
ضامن اور ذمہ دار بھیقرا دیتے ہیں (غیر سودی بیکاری ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۲۲).....  
جبکہ اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کو مفسد عقد اور لازم سمجھنے کو حرام فرمایا ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

سوال (۳۵): عمر نے زید کو مبلغ سورو پے واسطے خریدنے جفت پاپوش کے دیئے اور کوئی اجرت بطور معاوضہ خریداری کے قرار نہیں پائی متعاقدین میں اجرت کی نسبت ذکر بھی نہیں آیا اور قبل خریداری مال اور دینے زر کی قیمت کے باہمی یہ امر طے ہو چکا تھا کہ یہ مال سوا چھرو پے سیکڑہ کے منافع سے بسیعا د ایک مہینے کے تم کو دے دیں گے مال دساور سے خرید کر زید اپنے گھر لے آیا اور عمر و کو بلا کر مال دکھلا کر جوڑ دیا یعنی شمار کر دیا اور دونوں نے سمجھ لیا کہ یہ مال مبلغ سورو پے کا ہے اس کے بعد عمر نے زید سے دریافت کیا کہ تم یہ مال ہم سے کس قدر مدت کے واسطے بشرح منافع مذکورہ بالا لیتے ہو زید نے کہا کہ ایک ماہ کے واسطے لیتا ہوں عمر نے اس کو قبول کیا، بعد ختم ہونے مدت ایک ماہ کے عمر نے زید سے اصل روپیہ مع منافع طلب کیا زید نے صرف منافع مبلغ سوا چھرو پے عمر و کو دے کر اصل روپیہ کی نسبت عذر کیا کہ میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ مال موجود ہے، کچھ نقد ہے اور کچھ ادھار میں ہے، عمر نے کہا کہ اگر تمہارے پاس زرا صل م موجود نہیں ہے تو تم اس کے عوض میں اس قدر کامال آئندہ کے لئے مجھ کو دے کر اور جوڑ وا کر پھر ہم سے اس کو خرید لو، زید نے مبلغ سورو پے کامال اپنے پاس دکھلایا اور عمر و کو دے کر جوڑ دادیا اور پھر بشرح منافع بالا عمر سے خرید لیا اور مدت کبھی ایک ماہ تراضی طرفین سے قرار پاتی ہے اور کبھی زائد۔

الجواب: یہاں دو یعنیں علی سبیل التعاقب ہیں ایک وہ کہ زید نے عمر سے

مال خرید اس کا حکم یہ ہے کہ اگر زید عمر و کو اور عمر و زید کو بیع و شراء پر بنا بر وعدہ سابقہ مجبور نہ کرے تو جائز ہے اور اگر مجبور کرے، ناجائز ہے۔ دوسرے بیع وہ جو سور و پیہ بقیہ زرثمن کے عوض میں زید نے عمر و کو دیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں یہ شرط ٹھہری کہ پھر عمر و سے زید اس کو خریدے گا تو حرام ہے اور اگر یہ شرط نہ ٹھہری پھر اگر خریدے آزادی سے جدید رائے سے خریدے تو جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ ۳/۲۰)

نیز ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

سوال (۳۲): عمر و نے زید سے کہا تم مجھ کو یک صدر و پیہ کا مال جفت پاپوش منگا دو، میں تم سے ..... کامنا فع دے کر ادھار ایک ماہ کے واسطے خرید کر لوں گا یا جس قدر مدت کے واسطے تم دو گے اسی حساب سے منافع دوں گا یعنی پانچ روپے یک صدر و پیہ کا منافع ایک ماہ کے واسطے ہے، جب مال آ جاوے گا اس وقت مدت ادھار اور منافع کی متعین ہو جاوے گی۔ اس کے جواب میں زید نے کہا کہ میں منگا دوں گا مگر اطمینان کے واسطے بجائے یک صدر کے دو صدر کا رقہ لکھاؤں گا تاکہ تم خلاف عہدی نہ کرو، عمر و نے منظور کیا؟

الجواب: اس میں دو مقام قابل جواب ہیں ایک یہ کہ زید و عمر و میں جو گفتگو ہوئی یہ وعدہ محسنه ہے کسی کے ذمہ بھکم عقد لازم نہیں اگر زید کے منگانے کے بعد بھی عمر و انکار کر دے تو زید کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں پس اگر عرف و عادت میں عمر و مجبور سمجھا جاتا ہو تو یہ معاملہ حرام ہے ورنہ حلال اخ (امداد الفتاویٰ ۳/۲۰)

اسی طرح حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیع الوفاء سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

سوال: کوئی چیز کسی سے اس شرط پر خریدی کہ جب بالع رقم واپس دے گا تو یہ چیز اس کو واپس دے دی جائے گی، کیا یہ معاملہ جائز ہے؟

الجواب باسمِ ہم الصواب

اگر بیع کے اندر یا اس سے پہلے شرط لگائی گئی ہو یا جانبین اس عقد کو غیر لازم سمجھ رہے ہوں تو یہ بیع فاسد ہے اور اگر بیع کے بعد واپسی کا وعدہ کیا تو یہ بیع صحیح ہے اور اس وعدہ کا ایقاء لازم ہے۔

قال في العلانية: و قيل بيع يفيد الانتفاع به و في اقالة شرح المجمع عن النهاية و عليه الفتوى، و قيل ان بلفظ البيع لم يكن رهنا ثم ان ذكرها الفسخ فيه او قبله أو زعماء غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز و لزم الوفاء به (رد المحتار ۲۷۳/۳) والله سبحانه و تعالى اعلم (احسن الفتاوى

(۶/۵۰۷)

(۲) سودی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کو یہ حضرات جائز فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کو جائز نہ کہا جاتا“، (غیر سودی بینکاری/۱۶)

جبکہ اکابر حبہم اللہ تعالیٰ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کو بھی ناجائز لکھتے ہیں۔

حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں

اسے ناجائز لکھا ہے۔

سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیے!

سوال: حفاظت کی غرض سے بینک میں رقم جمع کرانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب باسم ملهم الصواب

بینک میں رقم جمع کرنے تین صورتیں ہیں:

(۱) سودی کھاتہ (سیوگنگ اکاؤنٹ)

(۲) غیر سودی کھاتہ (کرنٹ اکاؤنٹ)

(۳) لاکر

(الی قولہ رحمہ اللہ تعالیٰ) کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانا بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں اگرچہ سود لینے کا گناہ نہیں ہے مگر تعاون علی الامم کا گناہ اس میں بھی ہے۔

لاکر میں جمع کرانا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس میں سود لینے اور تعاون علی الامم کا گناہ نہیں مگر بینک کے حرام پیسے سے بنے ہوئے خانے کے استعمال کا گناہ ہے، شدید مجبوری کے وقت اس میں رقم جمع کرائی جاسکتی ہے کہ اس میں پہلی دو صورتوں کی نسبت گناہ کم ہے، لیکن پھر بھی استغفار لازم ہے (احسن الفتاویٰ، ۱۵، ۱۲/۷)

**آقول!** دیکھئے حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس صراحت سے اس کو تعاون علی الامم قرار دے کر اسے ناجائز فرمایا ہے۔

(۳) یک طرفہ وعدہ کو حضرت قضاءً لازم فرماتے ہیں، جبکہ آپ کے والد محترم حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مگر یک طرف وعدہ کو عدالت کے ذریعے جبراً پورا نہیں کرایا جا سکتا ہے، ہاں! بلا عذر شرعی کسی سے وعدہ کر کے جو خلاف ورزی کرے گا وہ شرعاً گناہ گار ہو گا، حدیث میں اس کو عملی نفاق قرار دیا گیا ہے

(معارف القرآن ۲۸۰/۵، بحوالہ غیر سودی بینکاری ص ۱۵۷)

اسی طرح حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فتویٰ ہے۔

سوال: معابدہ یا وعدہ کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟

الجواب باسمِ ہم الصواب

معابدہ جانبین سے ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے، وعدہ جانب واحد سے ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وعدہ کرتے وقت ہی ایفاء کی نیت نہ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر ایفاء کی نیت تھی، بعد میں بدل گئی تو بلا عذر خلاف کرنا مکروہ تنزیہ ہے اور عذر کی وجہ سے ہوتا مباح ہے، بشرطیکہ اس سے دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، ایذا پہنچانا بہر حال حرام ہے۔ (احسن الفتاویٰ ۳۲/۹)

(۳) قسطِ مرآۃ واجارہ میں تا خیر کی صورت میں مجوزین حضرات نے ”لزومِ التزامِ تصدقِ مال“ کا مشورہ دے کرتا خیر کرنے والے پر تصدق کو لازم قرار دیا ہے..... جبکہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ”لزومِ التزامِ تصدقِ مال“ کے خلاف لکھا ہے۔

سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں:

”سوال (۳۸): عمر واپسے عہد کے موافق ایک ماہ کے بعد زید کو روپیہ نہیں دیتا اور روپیہ جمع کر کھا ہے اور اس روپیہ سے خود مال لاتا ہے اور فروخت کرتا رہتا ہے منافع اٹھاتا ہے کبھی ڈیر ڈھنہ ماہ میں کبھی دو ماہ میں۔ غرض

خلاف عہد زیادہ مدت میں روپیہ اصل مع منافع کے دیتا ہے مگر جس قدر  
مدت عہد سے زیادہ ہوتی ہے نہ اس کا منافع طلب ہوتا ہے نہ دیا لیا جاتا  
ہے۔

**الجواب:** جب زیادہ نہیں لیا جاتا زیاد پر کوئی گناہ نہیں، عمرو پر وعدہ خلافی کا  
گناہ ہوگا، (امداد الفتاویٰ ۲۲/۳)

**آقول!** حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ”جب زیادہ نہیں لیا جاتا زیاد پر کوئی گناہ  
نہیں“، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ لینے میں گناہ ہے، نیز حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصدق  
کے التزام کے لزوم کا مشورہ بھی نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا۔

## ﴿سودی نظام کا مقابل﴾

مقابل کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) شرعی مقابل

(۲) غیر شرعی مقابل

**﴿شرعی مقابل﴾** ایسا مقابل جس میں سودی نظام کا بنیادی تصور ذبح کیا گیا ہو  
اور مضارب اور شرکت کی بنیاد پر رقم کا لین دین ہوا اور دوسرا تے تا جروں کی طرح بازاروں میں  
ان کے پاس مال و سامان تجارت ہوا اور ہر خاص و عام کے ذہن میں وضاحت کے ساتھ یہ  
بات ہو کہ یہ ایک تجارتی ادارہ ہے جس میں جس طرح نفع حاصل ہوتا ہے اسی طرح نقصان  
بھی ہو سکتا ہے اور نقصان پورا کا پورا ہم ہی کو اٹھانا پڑے گا اور عقود مایہ کے ساتھ بکثرت  
عقول نقد یہ بھی ہوں۔ ایسے مقابل کے علماء مکلف بھی ہیں اور اس کا پیش کرنا ضروری بھی ہے  
اور ایسے ہی مقابل کی حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمنا فرمائی تھی اور ایسے کو سارے

علماء ضروری اور حق سمجھتے ہیں۔ (یہ کہنا کہ بینک مخالف علماء کرام دامت برکاتهم شرعی تبادل کے قائل نہیں، بڑی تہمت ہے)

علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں: ”بینک کارچ نظام بغیر“ ربوا، چل نہیں سلتا، اس لئے آپ کو بینک کے تبادل نظام مضاربہ، وکالت اور شرکت پر غور کرنا ہوگا جو بلا سود کے چل سکے اور جس سے جدید معاشرے کے مسائل اور مشکلات حل ہو سکیں اخ (بینات، بحوالہ غیرسودی بینکاری صفحہ ۱۶، ۱۷)

جنی الفاظ پر غور کیجیے، حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مضاربہ، وکالت اور شرکت کے نظام کو تبادل فرمایا ہے جس میں نفع و نقصان دونوں کا تصویر عادةً لازم ہے جبکہ موجودہ اسلامی نامی بینکوں کے خاکے اور ڈھانچے میں عادۃ نقصان کا تصور ہی نہیں، جیسے سودی بینکوں کے خاکے میں نہیں ہوتا، لہذا حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جامعہ کے رفقائے افقاء اور دوسرا وہ تمام علماء جو موجودہ اسلامی نامی بینکوں کے مخالف ہیں سب اس تبادل کے قائل ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور موجودہ اسلامی بینکاری نظام کو غیرشرعی تبادل سمجھنے کی وجہ سے، مخالف ہیں۔ کیونکہ اصلی مضاربہ اور شرکت میں مضارب اور شریک کا زیادہ تر نفع کا مدار عقول نقد یہ پر ہوتا ہے نہ کہ مدائینت پر، اور مدائینت بھی ایسا جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں، کیونکہ مجوزین حضرات نے اس کا پورا ڈھانچہ مر جو، ضعیف اور غیر معمول بہاؤ وال پر قائم فرمایا ہے، جس کی تفصیل گزگزی، اور شاید کسی کو بھی اس سے انکار نہ ہوگا۔

اگر کوئی مسلمان تاجر شرعی تبادل پر سو فیصد عمل کرنے کی ہمت رکھتا ہے، تو تشریف لائیے، مجوزین کے ہاں شرعی تبادل حاضر ہے۔

﴿غیرشرعی تبادل﴾ ایسا تبادل جس میں سودی نظام کے بنیادی تصور (جو ”خرما

ہی خرماء ہے اور ثواب برائے نام، اور زر کے عوض زر اور نفع ہی نفع کے حصول پر مشتمل ہے اور جس میں نقصان کا عادۃ تصور ہی نہیں ہے) کالحا ظار کھا گیا ہو۔

چونکہ ایسے تبادل میں پورے طور پر اسلامی اصول پر عمل کرنا مشکل بلکہ ناممکن کے درجے میں ہے اس لئے ایسے تبادل کے نہ ہم مکلف ہیں اور نہ ہی ایسا تبادل جائز ہے۔ (اس وقت اسلامی نامی بینک ایسے ہی تبادل ہیں، اس لئے علماء کی حجہ غیرنے اس کو رد کر دیا ہے)

خود حضرت مفتی صاحب مظلہ لکھتے ہیں:

”البتہ جیسا کہ میں نے ”اسلام اور جدید معیشت و تجارت“ میں پوری وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے، ہم ہر اس کام کا تبادل پیش کرنے کے مکلف نہیں ہیں جو سودی بینک انجام دیتے ہیں، مثلاً قرضوں کی خرید و فروخت، مستحقات (derivatives) مستقبلیات (futures) وغیرہ وغیرہ۔ وہاں میں نے عرض کیا ہے کہ:(۱)

”(۲) چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے، اس لئے یہ موقع کرنا بھی غلط ہو گا کہ سود کے شرعی تبادل کو برسر کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تنااسب وہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک روبرہ کار لایا جائے تو اسی تنااسب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں آسکتی ہیں بلکہ یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کے لئے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں (غیرسودی بینکاری/ ۱۸)

**آقول!** درج ذیل وجہ کی بناء پر آج کے اسلامی نامی بینک شرعی تبادل نہیں۔

اولاً: جلی جملوں کو بار بار پڑھیے، پھر موجودہ اسلامی بینکوں کو دیکھئے اور فیصلہ کیجیے..... کیا نفع کے تناسب میں کوئی بنیادی فرق ہے؟ کیا بنیادی تبدیلیاں آچکی ہیں؟ اس کا فیصلہ خود حضرت کی درج ذیل عبارت میں ملاحظہ فرمائیے۔

تحریر فرمایا ہے:

”اس سلسلے میں بندے نے اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل گفتگو کی ہے: اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال منافع کے تعین کے لئے سود کی شرح کا استعمال پسندیدہ نہیں اور اس سے یہ معاملہ کم از کم ظاہری طور پر سودی قرضے کے مشابہ بن جاتا ہے اور سود کی شدید حرمت کے پیش نظر اس ظاہری مشابہت سے بھی جہاں تک ہو سکے پھنا چاہئے“

(اسلامی بینکاری کی بنیادیں، بحوالہ غیر سودی بینکاری ۲۶۸)

معلوم ہوا کہ نفع میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں، بلکہ ابھی تک وہی سود کی شرح استعمال ہو رہی ہے۔

ثانیاً: جس طرح سودی بینکوں کے کوئی شوروم اور مال تجارت کے گودام وغیرہ نہیں ہوتے اسی طرح اسلامی نامی بینکوں کے بھی نہیں ہیں، دونوں قسم کی بینکوں میں جائیے آپ کو کرنی ہی کرنی گھومتی ہوئی نظر آئے گی، البتہ یہاں درمیان میں مرا بح و اجارہ کا حلیہ ہے وہاں بغیر حلیہ کے ہے ..... اور حلیہ مرا بح و اجارہ میں چونکہ بینک کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، صرف گاہک ہی کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے کہ وہ خریداری بھی خود کرے پھر بینک کے پاس کاغذات لے جانے اور لانے کی مشقت بھی اٹھائے اور بینک کے ہاں صرف نقد کرنی ہی جمع کرتا رہے، بہر حال نتیجہ کے لحاظ سے دونوں میں نقود ہی گھومتی رہتی ہیں اور بس۔

**ثالثاً:** آج تک ہمیں تو کوئی ایسا گاہک نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میزان وغیرہ بینکوں میں مضاربہ یا تجارت پر رقم لگاتا ہوں، ہاں! ایسے کئی ملے ہیں جنہوں نے بتایا کہ سودی بینک زیادہ نفع دیتا ہے مثلاً لاکھ پر تیرہ سو روپیہ دیتا ہے اور میزان وغیرہ اسلامی بینک کم نفع دیتا ہے مثلاً آٹھ سو روپیہ دیتا ہے، یعنی اسلامی بینک دوسرے سودی بینکوں سے بھی عوام کا خون زیادہ چھوستے ہیں۔

**رابعاً:** اگر حضرت مولانا واقعی فرق اکاؤنٹ ہولڈر کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو دو کام بینک سے کروالیا جائے۔

**پہلا کام:** صرف ایک صفحہ اردو زبان میں تحریر کروائیں جس میں مضاربہ سے متعلق چند ضروری امور نمبر واراً واضح طور پر لکھے ہوں۔

**مثلاً:** (۱) رقم جمع کرنے والا رب المال ہے اور بینک مضارب ہے یعنی کام کرنے والا۔

(۲) نفع اس نسبت سے تقسیم ہوگا مثلاً ۸۰ فیصد بینک لے گا اور ۲۰ فیصد رب المال۔

(۳) اگر نقصان ہوا تو وہ اولاً نفع سے پورا کیا جائے گا جو اس سے بڑھ جائے تو وہ بینک کے ذمہ نہ ہوگا بلکہ سارا کام سارا رقم جمع کرنے والے پر ہوگا۔

**دوسرا کام:** اس تحریر پر دستخط کے وقت زبانی یہ وعدہ نہ کریں کہ یہ صرف مسئلہ کو درست کرنے اور جائز و مسلمان بنانے کے لئے لکھا گیا ہے، واقعہ ایسا نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو نفع ہی ملتا رہے گا اور کبھی نقصان ہوا بھی تو بھی وہ دوسروں کا ہوگا، آپ کا نہ ہوگا، ہم ہدیہ وغیرہ کے نام سے آپ کو تجھیں طے شدہ نفع دیتے ہی رہیں گے۔ ..... کیونکہ اس زبانی وعدہ سے تحریر سابق کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور زبانی معاملہ اصل بن جائے گا جبکہ

اس طرح معاملہ ناجائز اور خلافِ شرع ہے۔ یہ دو کام کروادیں لیکن..... مشکل ہے کہ بینک ان دونوں کاموں کے لئے آمادہ ہو جائیں۔

**خامساً:** تحریر فرماتے ہیں:

”(۳) آج کل بینک جو خدمات انجام دیتا ہے (الی قوله) لیکن ان پچھوں کو صنعت و تجارت میں مصروف کرنے کے لئے جو راستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا ہے، وہ قرض کا راستہ ہے، چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کے لئے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے، اور سرمایہ کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کما حقہ موقع نہیں سکے۔“

(اسلام اور جدید معيشت و تجارت، بحوالہ غیرسودی بینکاری/۱۹)

**آقو!** جو حال حضرت نے مروجہ بینکوں کا (اوپر جملی الفاظ میں) لکھا ہے اس سے بدتر حال آنحضرت کے ادارے کے بہت بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدد ہم نے ان اسلامی نامی بینکوں کا لکھا ہے۔

فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص مجھ سے ذاتی طور پر دریافت کرتا ہے کہ میں اسلامی بینکوں سے مالی معاملہ کروں یا نہ کروں؟ تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ سودی بینکوں سے معاملات کرتا ہے یا نہیں؟

(الف) ..... اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے سودی بینکوں سے کبھی کوئی معاملہ نہیں کیا اور میں اس کے بغیر بھی کام چلا سکتا ہوں تو میں اسے یہی کہتا

ہوں کہ وہ غیرسودی بینکوں سے بھی دور رہے اور ان سے معاملہ نہ کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو غیرسودی بینکوں میں بھی تمویل کے جتنے معاهدے ہوتے ہیں وہ بہر صورت ماینت پیدا کرتے ہیں جو قوی ضرورت کے بغیر اختیار کرنا اچھا نہیں۔

دوسرے یہ کوئی عوامی فلاح کے ادارے نہیں ہیں جن کے پیش نظر عوامی فلاح ہو، یہ خالص تجارتی ادارے ہیں۔ ان کے مالکان اور ذمہ داران میں سے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی نشوونما سرمایہ داری پر مبنی سودی بیدکاری کے ماحول میں ہوئی اور وہ اسلامی نظام عدل سے کما حقہ واقف نہیں، تجارتی ادارے ہونے کی بناء پر ان کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے اور اپنی ٹھاٹھ بائٹھ کی زندگی، غیر معمولی تنخوا ہوں اور دیگر غیر معمولی سہولیات کو تحفظ دینا ہے اور بسا اوقات خواہ جائز عقود ہی کے ذریعے یہ عوام کے روپے سے ان کو نفع تو کا لعدم دیتے ہیں اپنے نفع کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔

تاہم ان میں سے جو بینک مستند اور محتاط علماء کرام کی نگرانی میں چل رہے ہوں انکی مذکورہ بالا کوتا ہیوں کے باوجود اتنی بات قبل تحسین ہے کہ انہوں نے عوام اور تاجروں کو حرام سے بچنے کا موقع فراہم کر دیا ہے، اور جو لوگ اپنی تجارت یا اپنے روپے کی حفاظت کے لئے بینکوں سے معاملہ کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے سود کے حرام معاملات میں بچنے کے بجائے ان غیر سودی بینکوں کے ذریعے حرام سے بچنے کا ایک راستہ نکال کر علماء کرام نے ایک قبل قدر اور قبل ستائش کوشش کی ہے..... لیکن ان کو اسلامی بینک کہنے کی بہت نہیں ہوتی، کہیں سبقت قلم سے لکھ دیا ہو یا شہرت کی بناء

پر کہہ دیا جاتا ہو تو اور بات ہے۔ بہر حال انہوں نے اسلامی بینکاری کا مثالی نمونہ ابھی تک پیش نہیں کیا، (جواب تحریر حضرت مولانا عبدالرحمن کوثر صاحب مدینہ منورہ والے ص ۲)

**آقول!** حضرت مفتی محمود اشرف صاحب زید مجید ہم کی پوری عبارت خصوصاً جملوں پر بار بار نظر ڈالیئے اور فیصلہ کیجیے کہ جن بینکوں کے دفاع میں لمبی چوڑی خیم جلدوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کے مقاصد اور مروجہ بینکوں کے مقاصد میں سرِ مو بھی فرق نہیں، دونوں عوام کو گند چھری سے ذبح کرنے پر کمر بستہ ہیں بلکہ یہ اسلامی نامی بینک اس کا رخیر میں چند قدم آگے ہی ہیں۔

سادساً: غیرسودی بینکاری صفحہ ۱۹ پر تحریر فرماتے ہیں:

”چنانچہ مرجبہ نظام بینکاری میں بینک کی حیثیت محض ایک ایسے ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے، اسے اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس روپے سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا منافع کتنا ہے؟ اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟

اسلامی احکام کی رو سے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو۔ اس کے بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکھٹا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے، اور وہ سارے لوگ جن کی پچیں اس نے جمع کی ہیں، براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار نہیں، اور ان کا نفع و نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جوان کے سرما یہ سے

بالآخر انعام دیا جا رہا ہے۔ لہذا سودی بیکاری کے مقابل جو نظام تجویز کیا جائیگا، اس پر یہ اعتراض نہ ہونا چاہئے کہ بینک نے اپنی سابقہ حیثیت ختم کر دی ہے اور وہ بذات خود ایک تجارتی ادارہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے مقابل نظام کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ”(اسلام اور جدید میഷت و تجارت، بحوالہ غیر سودی بیکاری صہ ۲۰، ۱۹)

**آقول!** مذکورہ عبارت، خصوصاً جلی جملوں پر غور کیجیے جن سے صاف واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مقابل اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب بینک اپنی سابقہ حیثیت ختم کر دے اور عام تاجروں کی طرح مضاربہ اور شرکت کے تحت اکثر عقود نقدی اور کچھ عقود مداریہ سے کام چلانے، اور مارکیٹوں میں سامان تجارت رکھیں اور شور و مزبانیں۔

### ﴿مرا بحہ واجارہ، اصل تجارت یا حیلہ!﴾

بندہ کو اس سلسلہ میں دواشکال تھے، جو محمد اللہ تعالیٰ حضرت زید مجدد کی کتاب ”غیر سودی بیکاری“ کے مطالعہ سے حل ہو گئے۔

**اشکال نمبر ا:** حضرت مدظلہ کا مختلف مجالس میں اس پر زور دینا کہ بینکوں کو مرا بحہ اور اجارہ پر قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ مضاربہ اور شرکت کی طرف بڑھنا چاہیے۔

حضرت کے اس ارشاد سے بندہ کو دو طرح اشکال تھا، ایک یہ کہ بینک جس سے رقم لیتا ہے، مضاربہ اور شرکت ہی پر لیتا ہے، تو مضاربہ اور شرکت کی طرف بڑھنے کا کیا معنی؟ دوسرا یہ کہ اور مضاربہ اور شرکاء بھی توبازاروں میں مرا بحہ وغیرہ ہی کی صورت میں تجارت کرتے ہیں تو اگر بینک بھی یہی کرے تو کونسا کمال کیا؟ اس میں بینک کی کوئی نمایاں اور امتیازی کا کردار نہیں۔

**اشکال نمبر ۲:** بنوی ٹاؤن سے شائع ہونے والی کتاب میں مرا بحہ و اجارہ بنو کی کمی کو محض (سود کھانے کا) ایک حیلہ بتایا گیا ہے۔

بندہ کو اس عبارت میں یہ اشکال تھا کہ مرا بحہ و اجارہ تو عام تا جر بھی کرتے ہیں اور یہ مال کمانے کے ذریعہ ہیں، پھر ان کو حیلہ کیوں کہا گیا ہے؟ کتاب ”غیرسودی بینکاری“ کے مطالعہ سے بحمد اللہ تعالیٰ دونوں اشکال ختم ہو گئے کیونکہ حقیقت سامنے آگئی۔

﴿اصل حقیقت کیا ہے؟ رفع اشکالات کیونکر؟ اور ہمارے

### تحفظات کیا ہیں؟﴾

**رفع اشکال نمبر ۱:** اس کتاب سے حضرت کے ارشاد کی اصل حقیقت معلوم ہوئی کہ مرا بحہ و اجارہ بھی تجارت ہی کی ایک قسم ہے لیکن اس میں منافع کم حاصل ہوتے ہیں، اگر بینک لوگوں سے مضاربہ یا شرکت کے طور پر لی ہوئی رقم کو آگے مضاربہ یا شرکت پر کسی کارخانے یا فیکٹری میں لگاتے تو نفع بہت زیادہ آتا جس کی وجہ سے رقم جمع کرانے والے تمام افراد کو زیادہ نفع مل جاتا۔ گویا عوام کو زیادہ نفع دلانے کی خاطر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ مرا بحہ و اجارہ کے بجائے آگے مضاربہ یا شرکت پر رقم لگاتا کہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو اور بینک کی ایک نمایاں کارکردگی بھی سامنے آئے۔

**رفع اشکال نمبر ۲:** علامہ بنوی ٹاؤن سے شائع ہونے والی کتاب کی عبارت کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بینک کو نہ مرا بحہ سے سروکار ہے اور نہ ہی اجارہ سے۔ بینک کو تو نقدر رقم کے عوض دوسرے بینکوں کی طرح سود درکار ہے اس سود کے حاصل کرنے کے لئے یہ مجبوراً مرا بحہ و اجارہ کا سہارا لیتے ہیں، گویا بینک مرا بحہ و

اجارہ بطور تجارت کے نہیں کرتا بلکہ سود کھانے کے لئے بطور حیلہ کے مجبوراً کرتا ہیں۔ لہذا مرابحہ و اجارہ بنوکیہ کو عام تجارتی مرا بحات و اجرات پر قیاس کرنا قیاس مع الفرق ہے۔ کیونکہ بازاروں میں دوسرے تاجر جو مرابحہ و اجارہ کرتے ہیں، تجارت سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ مرابحہ بنوکیہ اور اجارہ بنوکیہ ایسا نہیں۔

## ﴿ہمارے تحفظات!﴾

- (۱) سودی بینکوں کا جو شخص ہے مجاز یعنی حضرات نے اسلامی نامی بینکوں میں اسی کو برقرار رکھنے کی انتہک کوشش فرمائی ہے، حتیٰ کہ اس کو برقرار رکھنے کے لئے مرجوح اقوال پر عمل اور خروج عن المذہب بلکہ خروج عن المذہب الاربعہ جیسے امور سے بھی درفع نہیں فرمایا۔
- (۲) بینک کا شخص کیا ہے؟....زر سے زر کمانا....اور....اس طور پر پفع ہی پفع حاصل کرنا جس میں نقصان کا عادۃ تصور ہی نہ ہو۔

حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدد تحریر فرماتے ہیں:

”یہ (بینک) کوئی عوامی فلاح کے ادارے نہیں ہیں جن کے پیش نظر عوامی فلاح ہو، یہ خالص تجارتی ادارے ہیں ان کے مالکان و ذمہ داران میں سے ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کی نشوونما سرمایہ داری پر مبنی سودی بینکاری کے ماحول میں ہوئی ہے اور وہ اسلامی نظام عدل سے کما حقہ واقف نہیں۔ تجارتی ادارے ہونے کی بناء پر ان کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے اور اپنی ٹھاٹ باٹھ کی زندگی غیر معمولی تنخوا ہوں اور دیگر غیر معمولی سہولیات کو ”تحفظ دینا ہے“ اور بسا اوقات خواہ جائز عقود ہی کے ذریعے یہ عوام کے روپے سے ان کو نفع تو کا لعدم دیتے ہیں اپنے نفع کا خاص اہتمام

کرتے ہیں۔

تاہم ان میں سے جو بنک مستند اور محتاط علماء کرام کی گمراہی میں چل رہے ہوں انکی مذکورہ بالا کوتا ہیوں کے باوجود اتنی بات قابل تحسین ہے کہ انہوں نے عوام اور تاجر و مردم سے نپھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے، اور جو لوگ اپنی تجارت یا اپنے روپ کی حفاظت کے لئے بنکوں سے معاملہ کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے سود کے حرام معاملات میں پھنسنے کے بجائے ان غیر سودی بنکوں کے ذریعے حرام سے نپھنے کا ایک راستہ نکال کر علماء کرام نے ایک قابل قدر اور قابل ستائش کوشش کی ہے..... لیکن ان کو اسلامی بینک کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، کہیں سبقت قلم سے لکھ دیا ہو یا شہرت کی بناء پر کہہ دیا جاتا ہو تو اور بات ہے۔ بہر حال انہوں نے اسلامی بینکاری کا مثالی نمونہ ابھی تک پیش نہیں کیا، ”جواب تحریر مولانا کوثر صاحب مدینہ طیبہ والے، ص ۲)

(۳) اگر مجوزین حضرات بینک کے اس شخص کا انکار کرتے ہیں تو ہم ”چھوٹا منہ بڑی بات“، انتہائی ادب سے عرض کرتے ہیں کہ اس شخص کا انکار بذاہت کا انکار ہے۔  
 بینک کے ماکان اُس وقت تک آپ کے تشکیل دیئے ہوئے نظام کو ماننے کے لئے تیار ہیں جب تک معاملہ ”ہم خرما ہم ثواب“ تک محدود ہے۔ اور بقول حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدد ان کا اصل مقصد ”خرما“ ہی ہے۔ چونکہ آپ کے تشکیل دیئے ہوئے نظام سے ان کے ”خرما“ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کے نظام نے ہر لحاظ سے اُس کے خرم کو تحفظ دیا ہے اس لئے آپ مدظلہ کو وہ بڑا بنائے ہوئے ہیں اور آپ کے نظام کو قبول کئے ہوئے ہیں۔

مجوزین حضرات کا ہر وہ مشورہ اور نظام جس سے ان کے ”خرما“ پر زد پڑتی ہو، کو یہ ہرگز ہرگز نہ قبول کرتے ہیں اور نہ قبول کریں گے۔ اس لئے اس دعویٰ میں بینک کے مخالف علمائے کرام دامت برکاتہم حق بجانب ہیں کہ مجوزین حضرات ہر مجلس میں اور ہر تحریر میں بینکوں کو مضاربہ اور شرکت کا مشورہ دیتے رہیں، قیامت آجائے گی، یہ کبھی بھی اس موجودہ شخص کے ساتھ مضاربہ یا شرکت کی بنیاد پر تجارت نہیں کریں گے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کے ”خرما“ کو ”بیمه“ جس کا نام ”تکافل“ رکھا ہے، کے ذریعہ تحفظ دینے کے باوجود، عادۃ کئی ایسے معتمد ہبہ انقصانات درپیش ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں۔

(ہاں! مرابحہ اور اجارہ کی طرح اگر مر جوہ اور ضعیف اقوال کے سہارے سے مضاربہ شرکت کی اصل صورت مسخ کر کے ان کو کوئی جدید ایسی صورت دی جائے جس سے ان کے ”خرما“ پر زد نہ پڑے اور نقصان کا معتمد ہبہ تصور ختم ہو جائے تو پھر بینک اس کے لئے کبھی تیار ہو جائے گا)

نقصان کے معتمد ہبہ تصور کی وجہ سے بینک کا مضاربہ و شرکت پر نہ آنا اور اس سلسلے میں حضرات مجوزین کے مشوروں پر عمل نہ کرنا اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ کسی طرح بھی بینک کے تحضن اور ”خرما“ کے خلاف کرنے کو تیار نہیں۔

اس بات کو (کہ میزان بینک وغیرہ کا شخص بھی نفع ہی نفع اور ”خرما ہی خرما“ ہے، اسلام کا نام صرف تحفظ کے لئے ہے ٹواب کے لئے نہیں) اور زیادہ وضاحت اور آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم مجوزین حضرات کی خدمت میں گذارش کرتے ہیں کہ بینک کے علاوہ کتنے ہی تاجر ہیں جن کے ہاں شور و مز، گودام اور مارکیٹوں میں مال موجود ہوتا ہے اور بوقت مرابحہ و اجارہ ان کو مر جوہ ضعیف اور خارج عن المذہب اقوال کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی..... اگر میزان بینک وغیرہ زر کے بد لے زر اور نفع ہی نفع کی پالیسی اور تحضن پر

قائم نہیں بلکہ ایک تجارتی شخص جس میں نفع اور نقصان دونوں کا مساوی یا نفع کا راجح اور نقصان کا مرجوح تصور لے کر قائم ہوئے ہیں تو آپ حضرات ان کے مالکان کو اس پر تیار کریں کہ وہ دوسرے تاجریوں کی طرح مال تجارت گاہک آنے سے پہلے خریدیں اور شوروم، گودام اور مارکیٹ بنائیں تاکہ المواعید قد تکون لازمہ، قدر اتنے تقاضی کو تکشیر بلکہ عموم کے لئے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور راجح قول کہ وعدہ قبل عقد اربع و فی صلب العقد دونوں مفسد بیچ ہیں، کاترک لازم نہ آئے۔

لیکن یہ حضرات کتنا ہی اس پر زور لگادیں، نہ بینک شوروم کھولے گا اور نہ ہی دوسرے اموال پہلے سے خریدے گا (حالانکہ سالوں کے تجربہ سے بینک جانتا ہے کہ ہم سے لوگ مردھت کو ناسامان خریدتے ہیں اور اجارہ کو نہ لیتے ہیں) یہ حضرات بینک سے یہ کام کیوں نہیں کرو سکتے؟..... اس لئے کہ اس میں بینک کے شخص اور ”خرما“ کے نقصان کا قوی اور عادۃ تصور موجود ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ہمارے اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ جس شخص کا بینک قائم کرنا چاہتے تھے، موجودہ میزان وغیرہ بینکیں اس شخص کے حامل نہیں ہیں لہذا نہ تو ان کو اسلامی بینک کہا جا سکتا ہے اور نہ سود وغیرہ امور غیر شرعیہ سے پاک کہا جا سکتا ہے۔

الحمد للہ تعالیٰ اتنی بات تو خود دارالعلوم کے بڑے مفتی حضرت مفتی محمود اشرف صاحب زید مجدد ہم نے بھی تسلیم فرمائی ہے کہ یہ اسلامی نہیں۔ لکھتے ہیں:

”لیکن ان کو اسلامی بینک کہنے کی بہت نہیں ہوتی، کہیں سبقت قلم سے لکھ دیا ہو یا شہرت کی بناء پر کہہ دیا جاتا ہو تو اور بات ہے۔ بہر حال انہوں نے اسلامی بینکاری کا مثالی نمونہ ابھی تک پیش نہیں کیا“ (جواب تحریر حضرت مولانا عبدالرحمن کوثر صاحب مدینہ منورہ والے ص ۲)

﴿بینکنگ کے مسئلہ پر اجتماعی غور و فکر کی کوشش ناکام کیوں ہوئی؟﴾

جس مجلس میں ملک کے مختلف اطراف سے آنے والے مفتیان کرام متفقہ فتوی دے رہے تھے، اس مجلس میں بنہ خود بھی موجود تھا۔ اس مجلس میں یہ بات بھی زیر غور آئی کہ فتوی دینے سے قبل مجوزین حضرات خصوصاً دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام جن کا کردار کم از کم پاکستان کی حد تک بنیادی ہے، ان کو بھی بلا یا جائے یا نہیں؟ اہل مجلس نے اتفاق رائے سے ان کے ساتھ اس مسئلے پر بات کرنے کو قطعاً غیر مفید قرار دیا اور وجہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ ان سے بحث و مباحثہ میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اجتماعی غور سے ان کا مقصد ایسے مسائل میں اغلب یہ ہوتا ہے کہ خلاف کو اختلاف بنا دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد ان کے فیصلے اکثر اصول کے خلاف ہوتے ہیں۔

علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی مسائل میں غور اور بحث و تحقیص کے بعد فیصلہ کرنے کے جو اصول تحریر فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی مسائل میں غور و فکر کرنے کے بعد اکثریت کی رائے عوام کو بتا دی جائے، اور کسی کی انفرادی رائے ہوتو وہ اپنی ذات کی حد تک رکھے، عوام کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے تاکہ عوام میں انتشار اور افتراق کا سبب نہ بنے۔

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں: ”شورائی اجتہاد کا اہتمام ہو، شخص رائے کی کمی کو اجتماعی آراء سے پورا کیا جائے، حضور ﷺ نے جدید مسائل میں انفرادی رائے کی بجائے فقهاء و عابدین سے مشاورت کا حکم دیا ہے، ادھرام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہی مجلس بھی اسی کا مصدق و مظہر تھی باوجود یہ کہ اس میں ہر فرد دیکتائے زمانہ تھا،“..... ایک اور مقام پر فرمایا: ”اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مزایا اور خصوصیات جو فراواں علم، عظیم اخلاص اور شدت خیلت اللہ کے ساتھ ہمارے سلف صالحین کے اندر موجود تھیں اس دور میں کسی بڑی

سے بڑی شخصیت میں بھی جمع نہیں ہو سکتیں لہذا اس کی تلافی اس طرح کی جائے کہ جہاں تک ہو کسی ایک فرد کی شخصی رائے پر اعتماد اور اس کو قبول کرنے سے اجتناب کیا جائے خواہ وہ کتنا ہی وسیع النظر اور کثیر المعلومات عالم کیوں نہ ہو، بلکہ اس ذمہ داری کا باراٹھانے کے لئے ایک جماعت سامنے آئے جس میں بحیثیت مجموعی وہ تمام ممیزات و خصائص موجود ہوں جن کا تذکرہ کیا جا چکا،“ (مرجہ اسلامی بینکاری ۳۰)

بندے نے اس وقت ان اکابر زید مجدد ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اُن کی ان باتوں کی جو اپنے تحریبات کی بنیاد پر فرمائے تھے (خصوصاً بنوری ٹاؤن و جامعہ فاروقیہ کے مفتیانِ کرام زید مجدد ہم جودا رالعلوم کی تقریباً ہر مجلس تحقیق میں شریک ہوتے رہے) حمایت کی۔

لیکن بندہ کی چونکہ ہمیشہ کے لئے اپنی بساط کے مطابق کوشش رہی ہے کہ علماء حق کے مابین اختلاف بالکل نہ رہے یا قلیل سے قلیل تر رہے، اس لئے اس کوشش کا آغاز کرتے ہوئے ”غیرسودی بینکاری“ نامی کتاب کی تصنیف اور طباعت سے قبل چند احباب سمیت دارالعلوم حاضر ہوا، اگرچہ اس سے قبل ایک مشاہدہ منی کے مسئلے کے عنوان سے میرے سامنے آچکا تھا کہ واقعی دارالعلوم کے مفتیان کرام اپنی رائے کو اکثریت کی مخالفت کے باوجود حق الامکان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

مسئلہ منی کی مختصر روایت یہ ہے کہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے احباب نے ملک بھر کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے دارالاوقاء سے اور بعض غیر مملک سے بھی ارباب افتاء کو مدعو کرتے ہوئے تین روزہ اجتماع رکھا اور بلاشبہ انھوں نے لاکھوں کے اخراجات کئے۔

اس اجتماع میں اکثریت کی رائے یہی تھی کہ منی اور مکہ مکرمہ الگ الگ مواضع ہیں لیکن پھر بھی دارالعلوم کے خلاف کا لحاظ کرتے ہوئے ایک وفد مشاہدے کی غرض سے مکرمہ عمرے کے لئے روانہ کیا گیا، اس وفد میں دارالعلوم کے بھی ایک مفتی حضرت مولانا مفتی

حسین احمد صاحب زید مجدد ہم شامل تھے لیکن دارالعلوم نے (اپنی رائے کو تحفظ دینے کے لئے) اپنے خرچ پر ایک زائد مفتی صاحب (مفتی تفضل علی شاہ صاحب زید مجدد) کو بھی وفد کے ساتھ بھجنے کا فیصلہ کیا، ارکان وفد نے اس مزید کو اکابر کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیا لیکن اتفاق (بلکہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فضیلے جس میں خاص حکمتیں ہوتی ہیں) سے اس پورے وفد کا سوا مفتی تفضل علی صاحب کے ویزہ لگ گیا۔

وفد وہاں پہنچ کر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے تمام تر احتیاط پر مبنی مشاہدات اور اتفاقی تحریر اور اس پر مستخطوں سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مفتی تفضل صاحب کا ویزہ آیا اور وہ بھی پہنچ گئے۔

انھوں نے وفد سے دوبارہ مشاہدات کے لئے کہا لیکن وفد نے صاف کہہ دیا کہ چونکہ آپ وفد کے ارکان میں شامل نہیں اس لئے آپ کے ساتھ دوبارہ مشاہدات کے ہم مکفّ نہیں۔ چونکہ مفتی حسین احمد صاحب دارالعلوم ہی کے نمائندہ تھے اس لئے ان کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ مشاہدات کئے۔

مشاہدات کے بعد جو تحریر انھوں نے مرتب کی وہ وفد کی اجتماعی تحریر کے خلاف تھی۔ دارالعلوم کراچی کے اکابر نے اجتماعی، اور پورے پاکستان، اور سہ روڑہ اجتماع میں شریک مفتیانِ کرام کے نمائندہ وفد کی مشاہداتی تحریر (جو ان کی رائے کے خلاف تھی) کو رد کر دیا اور مفتی تفضل علی صاحب کی تحریر کو قبول کرتے ہوئے اپنی رائے پر جمع رہے۔ پھر اُسی سال حج پر شریف لے جا کر منی میں جمعہ بھی پڑھایا۔

حجاج کرام جانتے ہیں کہ اس مسئلہ کی وجہ سے ہر خیسے میں کتنے جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں، کوئی دور کعات کی جماعت کرواتے ہیں اور کوئی چارکی، دور کعات والے چار پر اور چار والے دوپر اعتراض کرتے ہیں اور بعض اوقات تو زبان سے بڑھ کر با تھا پائی کی نوبت

بھی آجاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ جزاً خیر عطاء فرمائے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے احباب کو جنہوں نے امت کے اس انتشار کے خاتمے اور وحدت و یگانگت پیدا کرنے کے لئے بھاری مصروف برداشت کئے، بہت بڑا جماعت بلوایا اور انہائی افسوس اور توجہ ہے دارالعلوم والوں پر جنہوں نے اپنی رائے کو بقادیتے ہوئے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے احباب کی ان تمام کوششوں کو اکارت اور رضائی کیا۔

تتبیہ: وفر کی اجتماعی روئیداد طوالت کے خوف سے نقل نہیں کی گئی جن علماء کرام کو ضرورت ہو وہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا مفتی عبدالجید دین پوری زید مجدد ہم سے وصول کر سکتے ہیں۔

اس تلخ مشاہدے کے باوجود بندہ کئی احباب سمیت حضرت مولانا مفتی نقی عثمانی صاحب زید مجدد ہم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت اگر انہوں نے غور و فکر کی دعوت نہیں دی..... آپ انھیں ضرور دعوت دیجئے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ بتلا کر کہا کہ ذرا جھکا و پر اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں اگر دعوت غور و فکر دوں گا تو نہ معلوم کیا کیا باقی تیں بنائی جائیں گی۔ اس پر بندے نے عرض کیا کہ جو باتیں آپ کو پہنچائی گئی ہیں خالص جھوٹ ہیں، جن کی طرف یہ باتیں منسوب کی گئی ہیں ان سے ایسی باتوں کا ہونا ناممکن ہے، درحقیقت ایسی باتیں شریر اور مفسد لوگ نفترتیں اور دوری پیدا کرنے کے لئے بنایا کرتے ہیں۔

اس مجلس میں حضرت کو بعض اسی قسم کی بنائی ہوئی کچھ باتیں بتلائی گئیں جو حضرت زید مجدد ہم کی طرف منسوب تھیں، فرمایا ہمیں تو اس کا علم نہیں۔

بندے نے کہا کہ حضرت ان گھڑی ہوئی باتوں پر توجہ نہ فرمائیں بلکہ ضرور انھیں دعوت دیجئے، حضرت نے فرمایا کہ آپ ٹاشی کا کردار ادا کرتے ہوئے مجوزین اور مانعین کو جمع

کریں، بندے نے عرض کیا: میں اس کے لئے تیار ہوں، لیکن مانعین کا کہنا ہے کہ اختلافی مسائل میں دارالعلوم کے احباب کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دارالعلوم والے اجتماع بلواتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں لیکن فیصلہ اصول کے خلاف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مدظلہ نے فرمایا وہ کس طرح؟ بندے نے عرض کیا: وہ فرماتے ہیں کہ علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول تحریر فرمائے ہیں ان میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اجتماعی غور و فکر کے بعد عوام کو اکثریت ہی کی رائے بتائی جائے اقلیت اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھے عوام کو نہ بتائے، اس پر حضرت شیخ زید مجدد نے فرمایا کہ کیا پھر میں اپنی رائے کسی کو نہیں بتاؤں گا؟ جس پر بندے نے عرض کیا میں کچھ نہیں کہتا ہوں، کتاب ”مروجہ اسلامی بینکاری“ کے شروع میں حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو اصول لکھے ہوئے ہیں، ان میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے، لہذا آپ اس کتاب کے مقدمے کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور اکابر حرمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو تحقیقی نشیں ہوئی ہیں اس مشاہدہ اور تجزیہ کو بھی سامنے رکھئے، اور دونوں کی روشنی میں ایک تو تحقیقی مجلس میں گفتگو کے لئے ضابط، اخلاق، دوسرا غور و فکر کے بعد فیصلہ کے اصول تحریر فرمائے جائیں، بندہ دوسری جانب کے حضرات سے بات بھی کر لے گا۔ جب اصول متفقہ طور پر طے ہو جائیں تو اجتماع بلوایا جائے گا۔

اس کے بعد دوسرے تیرے دن بندہ مع احباب مانعین کے مرجع یقینیہ السلف شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مغرب تا عشاء اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوئی، حضرت دامت برکاتہم نے کھلے دل سے فرمایا کہ اچھی بات ہے، جب اصول طے ہو جائیں تو بات کری جائے۔ حضرت کی رضا اور خوشی کے بعد بندہ نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد کو بھی اور مفتی تفضل علی شاہ صاحب کو بھی اس کی اطلاع کر دی کہ اصول اور ضابط اخلاق مرتب فرمائے

جائیں، مانعین حضرات مل بیٹھ کر غور و فکر کے لئے تیار ہیں۔

بندہ کئی مہینوں تک اس انتظار میں رہا کہ بس آج کل میں اصول مرتب کر کے بندہ کو بلوایا جائیگا، یا کسی کے واسطے سے محررہ اصول بھجوائے جائیں گے، لیکن کئی مہینے گزر گئے اور اصول کا پچھ پتا نہ چل سکا۔ پھر ایک دن اس امید پر بندہ مع احباب دارالعلوم پہنچا کہ شاید بالمشاف ملاقات میں اجتماعی غور کی بات پکجھ آگے بڑھے گی، لیکن اس ملاقات نے تو مایوس ہی کر دیا۔ جب حضرت کے سامنے گذشتہ مجلس اور اصول و ضوابط کی بات کی تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے جواب میں یہ شعر پڑھا۔۔۔۔۔

”مشتے کہ بعد از جنگ یادی آید  
باید کہ بر کلمہ خود می زند“

یعنی وہ مگا جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے ہی جہڑے پر مارنا چاہئے، اور فرمایا کہ اب تو جوابی کتاب چھپ کر باہم نگ کے مراحل میں ہے..... جبکہ اس سے پہلے کی مجلس میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد نے بڑی قوت سے فرمایا تھا کہ ایک غلطی ہو گئی، اب دوسری نہیں ہو گی..... بلکہ مفتی تفضل علی شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت نہ تو خود جواب دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت جواب کے حق میں نہ تھے۔ حضرت جواب کے لئے کیونکر آمادہ ہوئے؟ واللہ تعالیٰ اعلم ارباب علم و دانش! اس تفصیلی روایت کو ملاحظہ فرمائ کر خود فیصلہ فرمائیں کہ ہماری اس اجتماعی غور و فکر کی کوشش کی ناکامی کا سبب مانعین ہیں یا مجوزین؟ اور آپس میں نہ مل بیٹھنے کا انعام مانعین پر لازم آتا ہے یا مجوزین پر؟

آج بھی مانعین اس بات کے لئے تیار ہیں کہ جب بھی مجوزین حضرات کی طرف سے اس مسئلے پر یا اور کسی بھی مسئلے پر اجتماعی گفتگو کا ارادہ ہو تو مانعین حضرات حاضر ہیں، بشرطیکہ غور و فکر اور اجتماع نفع بخش، مفید اور نتیجہ خیز ہو اور یہ اس وقت ممکن ہے جبکہ اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ

کے تحقیقی مسائل سے متعلق ان کی تحریرات کی روشنی میں فیصلے کے اصول اتفاق رائے سے  
متعین کئے جائیں۔

### کتاب ”غیرسودی بینکاری“ کا خلاصہ

ہماری سمجھ کے مطابق پوری کتاب ”غیرسودی بینکاری“، تین اہم حصوں پر مشتمل ہے۔

(۱) بینک مخالفین کے اعتراضات غلط معلومات پر مبنی ہیں (جس میں کئی اعتراضات کا ذکر ہے)

(۲) بظاہر ”نزاع لفظی“ پر مشتمل ایک بہت ہی ضخیم حصہ (جس میں مرابحہ موجلہ وغیرہ کی تفصیلی بحث ہے)

(۳) اسلامی معيشت و تجارت اور بینکنگ سے متعلق مسائل شرعیہ

نمبر (۱) سے متعلق ہم حضرت مدظلہ کے اعلان ”کہ بعض تحریروں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے متعلقہ عقود کے کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ حاصل نہ ہو سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کوشش تھی جو متعلقہ کاغذات حاصل کرنے کے لئے کی گئی، جبکہ اس کا آسان ترین راستہ یہ تھا کہ مجھ نیاز مند ہی کو اس خدمت کا موقع دے دیا جاتا“ (غیرسودی بینکاری ص ۵۵، ۵۶) پر درج ذیل فہرست آنچنان سے طلب کی ہے۔

(۱) اسٹیٹ بینک کا غیرسودی بینکوں کو سودی قرضہ لینے دینے سے مستثنی کرنے کی سند، جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کی گئی ہو۔

(۲) اسٹیٹ بینک غیرسودی بینکوں کو شرکت و مضاربہ کی بنیاد پر جو سرمایہ فراہم کرتا ہے اس شرکت میں اگر نقصان ہو جائے تو کیا اسٹیٹ بینک اس نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے؟ اگر تیار ہے تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کی تحریر مطلوب ہے جس میں نقصان کی

ذمہ داری اٹھانے کا اقرار ہو۔

- (۳) اسٹیٹ بینک نے غیرسودی بینکوں کے لئے سودی بینکوں سے علیحدہ جو قوانین مقرر کئے ہیں اس کی تفصیلی دستاویز مطلوب ہیں۔
- (۴) غیرسودی بینکوں میں جو اجرہ و مرابحہ راجح ہے اس کی تفصیلی دستاویز مطلوب ہے، جس میں مکمل طریقہ کارڈ کو رو ہو۔
- (۵) ماسٹر مرابحہ ایگر یمنٹ کی دستاویز
- (۶) مضاربہت و شرکت کے طریقہ کارکی دستاویز
- (۷) مکانات میں شرکت متناقصہ کی دستاویز
- (۸) سیکوریٹی ڈیپاٹ کے نام پر جمع کی جانے والی رقم کو اسٹیٹ بینک میں بلا سود جمع کرانے کا تحریری اور عملی ثبوت

نمبر (۲) چونکہ ہماری نظر میں محض نراع لفظی ہی ہے لہذا اس سے بالکل یہ احتراز اور صرف نظر کیا گیا ہے۔

نمبر (۳) میں جن مسائل میں کلام تھا، ان پر تبصرہ کر کے اپنے تخفیفات نقل کر دیئے ہیں، البتہ ایک بات بطورِ خاص یہاں لکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔

## اس کتاب سے بندہ کو کیا فائدہ ہوا؟

الحمد للہ تعالیٰ اس کتاب ”غیرسودی بینکاری“ کے مطالعہ سے کافی ایہماں اور شکوہ و شبہات دور ہو گئے اور اب بندہ اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ موجودہ اسلامی نامی بینکنگ غلط عقیدہ فاسدہ اور کئی دوسرے خلاف شرع امور کا مجموعہ ہے، لہذا ان بینکوں میں سرمایہ لگانا اور اس پر نفع لینا ناجائز، حرام اور حکم سود ہے، اور سود پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد

ہوئی ہیں۔ جن میں سے بعض ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

نیز ہر ایسا کاروبار جس میں سود کا شہہ بھی ہواں سے بھی ہر پچے اور دین دار مسلمان کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے اور کاروبار کی وہ صورتیں جن پر علماء کا اتفاق ہے، کو اختیار کرنا چاہئے۔ و ما علینا الا لبلغ الْمُبِين

### ﴿سود پر وعدید میں﴾

قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں سودخوروں کے لئے سخت ترین وعدید میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) سودخوروں کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

قالَ اللَّهُ أَعْزُزُ وَجْهَهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبْوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ . (البقرة ۲۸ / ۲۹)

ارشاد باری تعالیٰ ہے : اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقايا  
ہے اس کو چھوڑو، اگر ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نہ کرو گے تو اعلان سن لو  
جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔

(۲) سود کھانا کبیرہ اور تباہ کن گناہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اجتَبِوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ  
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ : الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ  
النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبْوَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ  
وَالْتَّوْلِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (متفقٌ عَلَيْهِ،  
المشکوٰۃ ۱ / ۱)

”حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا : سات مہلک گناہوں سے بچو ! صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا : یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا : اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک شہراً، جادو کرنا، اس جان کو ناجی قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر جائز طور پر (بِحَكْمَةِ شَرِيعَةِ) سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اللہ تعالیٰ کے ذمتوں سے گھسان کی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن بے خبر مومنہ یہیوں پر تہمت لگانا۔“

(۳) سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے سب ملعون ہیں۔

عن جابر رض قال : لعنة رسول الله ﷺ اكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواء (مسلم ۲/۲۷)

”حضرت جابر رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی تحریر لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔“

(۴) اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ سود خوروں کو جنت میں داخل نہ کرے۔

عن أبي هريرة رض قال : قال رسول الله ﷺ : أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ، ولا يذيقهم نعيمها : مدمون الخمر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بغير حق ، والعاق لواليديه (المستدرک للحاکم ۲/۳۳۸)

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چار شخصوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہے کہ انھیں جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ اس کی نعمتیں چکھائیں گے۔

۱۔ شراب کا عادی ۲۔ سود خور ۳۔ ناحق یعنی کامال اڑانے والا ۴۔ والدین کا نافرمان“

(۵) سود میں ادنیٰ ترین گناہ جیسے کوئی اپنی سگی ماں سے بدکاری کرے۔

عن عبدالله بن علی عن النبي ﷺ قال : الربا ثلاثة وسيعون بابا ،  
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وان أرببي الربا عرض الرجل  
المسلم (المستدرک للحاكم ۳۳۸/۲)

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سود میں تہتر گناہ ہیں جن میں ادنیٰ ترین گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور بدترین سود کسی مسلمان کی آبروریزی ہے۔

(۶) ایک درہم سود کا چھتیس زنا سے بدتر ہے۔

عن عبدالله بن حنظلة غسليل الملائكة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة و ثلاثين زنية . (مسند الإمام أحمد ۲۹۶/۲)

”ابن حنظله غسليل الملائكة ﷺ فرماتے ہیں: رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم جسے کوئی جانتے ہوئے استعمال کرے چھتیس زنا سے بدتر ہے۔“

(۷) سود کی ترویج اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔

عن ابن مسعود رض عن النبي ﷺ فذكر حديثاً و قال فيه : ما ظهر  
فی قوم الزنا والرiba الا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. (مجمع  
الزواائد ۲۱۳/۳)

”حضرت ابن مسعود رض فرماتے ہیں : نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا :  
جس قوم میں زنا اور سود کا ظہور ہوا اس قوم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی  
جانوں پر اتار لیا۔“

خویدم العلماء

احمد ممتاز

۲۳/شعبان المعظم ۱۴۳۰ھ

دارالافتاء جامعۃ الرشید کی کتاب

”غیرسودی بینکاری“

فقہی تصور، ضرورت و اہمیت،

اہم مسائل کی تحقیق،“

اور

مولانا مختار الدین شاہ صاحب کی کتاب

” بلاسود بینکاری کے خلاف بعض علماء کے فتویٰ کی حقیقت“

اس کا پس منظر و پیش منظر،“

پر مختصر تبصرہ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد ہم کی کتاب ”غیرسودی بینکاری“ پر تبصرہ بیہاں تک مکمل ہو چکا۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد پر جامعۃ الرشید کی کتاب کا بھی مطالعہ کر کے اپنے تحسنات لکھ چکا تھا، لیکن اس کی ترتیب ابھی باقی تھی، احباب نے یہ مشورہ دیا کہ اگر جامعۃ الرشید سے شائع ہونے والی کتاب اور حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب مظلہ کی کتاب، دونوں کا مختصر جواب بھی ساتھ شائع ہو جائے تو زیادہ مناسب ہو گا۔

احباب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بندہ نے دونوں پر مختصر تبصرہ لکھ کر اس کتاب کا جزء بنادیا اور اب یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، بجائے ایک کے تین کتابوں کا جواب ہے۔

احمد ممتاز

## دارالافتاء جامعۃ الرشید کی کتاب ”غیر سودی بینکاری“

### پر مختصر سرسری تبصرہ

”غیر سودی بینکاری“ کے نام سے ایک کتاب ”حضرات رفقاء دارالافتاء والارشاد کراچی“ کے حوالے سے ”جامعۃ الرشید کراچی“ سے شائع ہوئی ہے (معلوم نہیں جامعۃ الرشید کی بجائے دارالافتاء والارشاد کیوں لکھا گیا ہے؟ حالانکہ آج کل فتاویٰ اور تحقیق کا سارا کام ہماری معلومات کے مطابق جامعۃ الرشید میں ہو رہا ہے) جس میں ایک تومذہب غیر پر عمل کے دائرے کو وسیع تر سے وسیع تر باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا یہ تأثیر دیا گیا ہے کہ گویا بینک کا موجودہ خاکہ حضرت مفتی عظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات ہی میں مجلس تحقیق نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا جس کی تفصیل خود حضرت مفتی عظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے احسن الفتاویٰ میں تحریر بھی فرمائی ہے۔

بقیہ السلف استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب سے متعلق بھی تبصرہ کا حکم دیا تھا، جس بنا پر بندہ نے تعمیل حکم میں یہ پوری کتاب پڑھی اور اپنے تحفظات لکھنا شروع کر دیئے، چنانچہ اس کتاب کے مندرجات سے متعلق نمبروار چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔

﴿۱﴾ اس کتاب میں فتویٰ بہذہب غیر کی تین شرطیں لکھی گئی ہیں۔

(الف) ضرورت شدید ہوا وہ اپنے نہ ہب میں پوری نہ ہو سکتی ہو۔

(غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید ۲۶)

(ب) حکم واحد میں تنقیق لازم نہ آئے۔

(غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید ۳۵، ۳۶)

(ج) فتویٰ دینے والوں میں اجتہادی صلاحیت ہو یا مسائل میں بصیرت تامہ ہو۔

(غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید (۳۶)

اقول: شرط نمبر ایک سے معلوم ہوا کہ اس کے تحقیق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ”وہ ضرورت اپنے مذہب میں پوری نہ ہو سکتی ہو“، جبکہ رہنم اور وثیقہ کے ذریعے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ممکنہ طالع کے شرط سے بچنے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے لہذا اس کے لئے خروج عن المذہب جائز نہ ہوگا اور یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ امر واقعی ہے۔

دیکھئے مرا جات و اجارات ان اسلامی نامی بینکوں کے وجود میں آنے سے قبل بھی جاری تھے اور آج بھی بازاروں میں جاری ہیں، لیکن مسلمان تاجر و میانگین اس التزام کی ضرورت نہیں تھی، اگر مجوزین حضرات اس کے خلاف کے مدعا یہ ہیں تو ان حضرات کے ذمہ دوバتوں کا ثبوت پیش کرنا لازم ہے۔

ایک یہ کہ دس بارہ سال قبل جب یہ بینک وجود میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی تجارت دھار معاملات کے لئے التزامِ تصدق اور الازامِ وعد جیسے خلافِ شرع شرائط لگا کر معاملات کیا کرتے تھے۔

دوسری بات یہ کہ آج کل بازار میں ادھار کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں وہ لوگ بھی ان خلافِ شرع شرائط کے ساتھ کرتے ہیں۔

اگر مجوزین حضرات اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے (اور یقین ہے کہ پیش نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس التزام کو ان مجوزین علماء کرام سے پہلے ضروری سمجھنا تو درکنار کوئی جانتا تک نہ تھا اور نہ ہی آج عام تاجر اس سے واقف ہیں) تو آئیے ہم مشاہدہ کراتے ہیں کہ ان بینکوں کے وجود سے قبل بدؤں التزام کے لوگ ادھار معاملات کیا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذہب غیر پر فتویٰ دینے کی پہلی شرط یہاں مفقود ہے

لہذا ”اذفات الشرط فات المشروط“ کے ضابطہ کے مطابق بینک کے لئے ادھار معاملات میں مذہب غیر پرفوٹی اور عمل جائز نہیں اور یہ خروج عن المذہب ناجائز اور شرعاً بوجاز سے محروم ہے۔

تتبیعیہ: یہ التزام ہے یا لزومِ الترام؟ اس کی تفصیل مالہ و ماعلیہ کے ساتھ مسبق میں ملاحظہ فرمائیے۔

شرط نمبر ۲ کے آخر میں لکھتے ہیں:

”صرف چند مسائل عیسیٰ الزام الوعد، الترامِ تصدق وغیرہ میں بضرورت  
مالکیہ کا نہ ہب لیا گیا ہے۔“ (صہ ۳۲، ۳۵)

آقوٰل: الزام الوعد میں بقول مجوزین جب حفیہ، شافعیہ، حنبلہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وعدہ کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور مکارم اخلاق میں سے ہے، بعض مالکیہ کا بھی یہی قول ہے۔ دیکھئے غیر سودی بینکاری ۱۳۸ پر بحوالہ عمدة القاری ۱۲/۶۵۳، مرقاۃ ۲/۲۱، مذکور ہے۔

اب مذہب غیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟... تو خود حیله ناجزہ کے لکھنے والے

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ یہ الزام حرام اور ناجائز ہے۔

زیر نظر کتاب میں عنوان ”اکابر حبہم اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں“ کے تحت آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے، ملاحظہ فرمایا جائے۔ اگر ضرورت ہوتی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جواز کا فتویٰ دیتے، اسکے خلاف حرام کا فتویٰ دینا عدم ضرورت کی واضح دلیل ہے۔

شرط نمبر ۳ کے تحت لکھتے ہیں:

”اس لئے متنبد اہل افتاء کو اس کا ادراک ہونا چاہئے کہ جوانج الناس کی تحقیقیں و تفتیش اہل افتاء کی ذمہ داری ہے اور اگر کسی جگہ حرج و ابتلاء

شدید پیش آئے تو کسی بھی مذہب کے مطابق اس کا حل پیش کرنا بھی ان  
کے فریضے کا حصہ ہے، (صہ ۳۶)

اقول: مستند اہل افتاء کون ہیں؟

جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے حضرت مفتی عبدالجید دین پوری زید  
مجد ہم، جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے مفتی منظور احمد میٹکل، مفتی سمیع اللہ زید  
مجد ہم (یہ حضرات مفتیانِ کرام ہیں جن کو تحقیقی مسائل میں دارالعلوم کراچی مدعو کیا جاتا  
ہے) جامعہ اشرفیہ لاہور کے حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب زید مجد ہم، جامعہ مدنیہ لاہور  
کے مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب زید مجد ہم، جامعہ خیرالمدارس ملتان کے حضرت مفتی عبداللہ  
صاحب زید مجد ہم، جامعہ اشرفیہ سکھر کے حضرت مفتی عبدالغفار صاحب زید مجد ہم، جامعہ  
اسلامیہ دارالعلوم رحیمیہ کوئٹہ کے مفتی گل حسن صاحب زید مجد ہم، مدرسہ تعلیم القرآن دار  
الافتاء ربانیہ کوئٹہ کے مفتی روزی خان صاحب زید مجد ہم وغیرہ وغیرہ، حضرات مفتیانِ کرام  
مستند اہل افتاء میں داخل ہیں یا نہیں؟

ان مستند اہل افتاء کی تعین کون کرے گا؟

اس کی تعین کا معیار کیا ہے؟

ان مستند اہل افتاء کا آپس میں اختلاف ممکن ہے یا نہیں؟  
اگر ممکن ہے تو اختلاف کی صورت میں فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہو گایا دلائل پر؟  
اکثریت پر فیصلے کی کیا دلیل ہے؟

دلائل پر فیصلہ کرنے کی صورت میں قوت دلیل کا فیصلہ کون کرے گا؟

﴿۲﴾ متکا بانہ گزارش ہے کہ جہاں سودی نظام کے خاتمے کی اہمیت ہے وہاں سود میں  
ابتلاء کے خطرات سے ہوشیار رہنے کی اہمیت بھی اس سے کچھ کم نہیں۔

لہذا سودی نظام کو حاجات الناس اور ضرورت الناس کے جاذب عنوانات کے ذریعے مذہب غیر اور اقوالی مرجوحہ، ضعیفہ کے سہارے ختم کرنے کے جذبہ سے کہیں زیادہ یہ جذبہ اور فکر ہونا چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری ان رخصتوں کی وجہ سے امت کے سود سے بچ ہوئے افراد بھی سودا اور حرام کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں۔

﴿۳﴾ مکملات و موزونات میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ سے متعلق لکھتے ہیں:

”وَهُنَّاَنْتُمُغُورِكُمْجُوْلُوْلَوْحَرْمَتُكُمْتَعَارِضُكُمْتَرْجِيْحُكُمْمُطْلَقُكُمْتَبَيْنُهُمْ(غیر سودی بینکاری، جامعۃ الرشید ۳۸)

آقوال: اولاً: حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجیح دینے والے (بقول شہاب الدین گیر فقہاء) حضرات فقہاء حرمہم اللہ تعالیٰ ہیں جو دلائل اور مرجحات سے خوب واقف تھے ثانیاً: حضرات فقہاء کرام حرمہم اللہ تعالیٰ نے مظہورات و حاجات کے علاوہ نص کے اصل بنی کو بیان کر کے پہلے نص کو عرف کی وجہ سے مقید کیا تاکہ نص کی مخالفت لازم نہ آئے، جیسا کہ خود لکھتے ہیں:

”اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ نص حدیث کے خلاف ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نص کے خلاف نہیں، بلکہ نص کی تفسیر و تاویل ہے، کیونکہ نص خود میں بر عرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرف یہی تھا، اس لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور اگر اس کے خلاف عرف ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے“ (غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید ۳۷)

اس تعین کے بعد حاجات و مظہورات سے ترجیح دی۔

تقید نص کے بغیر نص (موجب سود) کی مخالفت کے لئے تنہا مظہورات اور حاجات

الناس کافی نہیں۔

آج ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کی رقمیں سودی بینکوں میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ سود جیسے حرام میں بتلا ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فاسق، حرام خوار اور گمراہ ہو رہے ہیں..... دیکھئے یہاں مظہر اور حاجت ہے۔

اب میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ان کو اس فشق و گمراہی سے بچانے کے لئے یہ جائز ہوگا کہ سود کی دو قسمیں بنائی جائیں؟ تجارتی سود، غیر تجارتی سود۔ پھر تجارتی سود کو اس تاویل سے جائز کہا جائے کہ یہ سود نہیں بلکہ بینک کی عمارت، فرنچر، رجسٹر، بھاری تجوہ دار ملازمین وغیرہ وغیرہ کی اجرت اور فیس ہے، لہذا جائز ہے۔ جیسے کریڈٹ کارڈ کے جواز کا مجوز یعنی حضرات نے فتویٰ دے کر اس کارڈ کے اضافے کو سود سے نکال کر فیس میں داخل کر کے حلال کہا ہے۔ چونکہ یہاں ہزاروں مسلمانوں کا فشق و ضلالت میں وقوع کا مشکلہ ہے لہذا ان لاکھوں کو فشق سے بچانے کے لئے جواز کا فتویٰ دینا چاہئے۔

یہاں فتویٰ نہ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تنہا مظہرات کسی نص کی مخالفت کے لئے کافی نہیں اور نص موجب رنج و سود کی تقيید کسی ماہر سے ثابت نہیں لہذا نصِ حرمت ربا، تجارتی و غیر تجارتی دونوں قسموں کو شامل ہوگی۔

**الحاصل:** تنہا مظہرات اور حاجات الناس کو حرمت کے مقابل لا کران کے ذریعے مرجوح قول کوتر جیج دینا اور نص کی مخالفت کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔

نیز امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ جو مشہور امام ہیں ان کے قول کے مطابق توڑا کو، چور، غاصب، راشی، سود خوار اور ہر قسم کا حرام خور، حلال خور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے ہاں بیچ لعین بالدین میں دین ذمہ پر آتا ہے، لہذا بعد میں اگرچہ وہ مالِ حرام سے ادا کرے لیکن یہ خریدا ہوا کھانا اور سامان ان کے قول کے مطابق حلال ہے۔

آنحضرات کو امت کے چوروں، ڈاکوؤں، رشوت خوروں اور سب حرام خوروں پر حرم کھا کر جمہور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے قول کو چھوڑ کر امام کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر مخطوطات اور حاجات الناس کی وجہ سے جواز کا فتویٰ دینا چاہئے۔

اس فتویٰ کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سارے حرام خور، حلال خور بن جائیں گے، ان کی نمازیں دوسری عبادتیں حرام کھانے کی وجہ سے اکارت اور ضائع نہ ہوں گی۔  
دوسری فائدہ یہ ہوگا کہ کتنے حلال کھانے کا اہتمام کرنے والے اپنے قربی رشتہ داروں کے ہاں اس وجہ سے کچھ کھاتے پیتے نہیں کہ ان کا مال حرام ہے اور مال حرام سے خریدا ہوا کھانا بھی حرام ہوتا ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے یہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، اور یہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں کے ہاں خوب کھاپی سکیں گے اور حرام سمجھتے ہوئے نہ کھانے کی وجہ سے جو آپس کی منافرت اور دوری تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔

لیکن فتویٰ دینے سے پہلے یہ بھی پیش نظر ہے کہ اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان مخطوطات اور حاجات الناس کی وجہ سے اس مشہور امام کے قول پر فتویٰ نہیں دیا۔  
حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسالہ بنام ”حلال و حرام سے مخلوط مال کا حکم“ میں جگہ جگہ بعض عباراتِ جواز کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ یہ قول کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ پر منی ہے۔

جامعۃ الرشید کے احباب سے گزارش ہے کہ حاجات الناس کی وجہ سے حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف فتویٰ دیں، کیونکہ حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فتویٰ کی وجہ سے کتنے لوگ حرام خور بنے ہوئے ہیں، اور کتنے خاندانوں میں اس بنیاد پر آئے دن لڑائیاں اور جھگڑے جنم لے رہے ہیں۔

﴿۲﴾ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان بیکنوں میں کئی خلاف شرع امورا یہیں ہیں جن کے ناجائز

ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مجوزین حضرات ائمہ ار بعده حبیب اللہ تعالیٰ کے مذاہب میں سے کسی ایک کے مذہب کا کوئی مضبوط اور اتفاقی قول جواز کا نہیں دکھا سکتے، اور کتنے ایسے امور ہیں جن کو اپنے مذہب کے راجح اور قوی اقوال سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ان امور میں سے بعض یہ ہیں۔

- (۱) یومیہ پیداوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریق کار۔
- (۲) بنام سیکورٹی ڈپاٹ اور ایڈوانس قرض کی بنیاد پر مراجعہ و اجارہ کا نفع حاصل کرنا۔
- (۳) محدود ذمہ داری کے تصور پر بیع و شراء کرنا۔
- (۴) کل رأس المال کی جہالت کے باوجود شرکت و مشاربہ کا صحیح ہونا۔
- (۵) بدول تجدید، قبض امانت کا قبض ضمان بننا۔
- (۶) شرکت عقد میں شریک کو اور مشاربہ میں رب المال کو ملازم رکھنا۔
- (۷) اجارہ میں بعض مدت کی اجرت کا مجہول ہونے کے باوجود اجارہ کا صحیح ہونا۔
- (۸) پہلے اجارہ کا وعدہ کیا، پھر وعدے کے مطابق اجارہ کیا، ایک ماہ بعد غدر کی وجہ سے اجارہ فتح کرنا چاہا تو نقصان کے بغیر فتح نہیں کر سکتا، یہ کس مذہب میں ہے؟

﴿۵﴾ صفحہ ۲۰ پر لکھتے ہیں:

”احسن الفتاویٰ میں جو غیر سودی بینکاری کا خاکہ ہے، اس کی تصدیق اس وقت کے چوٹی کے اصحاب افتاء نے کی ہے، اس زمانے کے کسی ایسے عالم سے اس بارے میں اختلاف سامنے نہیں آیا جو فقهہ فتویٰ میں معروف ہو۔ لہذا بینکاری کے فتویٰ میں مذہب غیر پرفتوی دینے کے سلسلے میں جو اجتماعیت کی شرط ہے وہ یقیناً حاصل تھی اور اس وقت اہل افتاء کے اجتماع یا اکثریت کی واحد صورت یہی تھی۔“ (غیر سودی بینکاری، جامعۃ الرشید ۲۰)

**آقوٰل:** جامعۃ الرشید کے احباب کا یہ کمال ہے کہ انھوں نے احسن الفتاویٰ کے حوالے سے اس انداز میں بات پیش کی ہے کہ گویا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجہد ہم کا پیش کردہ پورا خاکہ مکمل تفصیلات کے ساتھ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ان اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آج کل جو کچھ ان بینکوں میں ہو رہا ہے ان سب معاملات کی گویا ان اکابر مفتیان کرام نے اجازت دی ہے۔  
عام اور سادہ لوح مسلمان تو یقیناً جامعہ کی اس کتاب اور اس قسم کے جملوں سے یہی تاثر لیں گے لیکن اہل علم خصوصاً جن کے پیش نظر احسن الفتاویٰ کا یہ خاکہ ہے وہ کبھی یہ تاثر قبول نہیں کر سکتے۔

دیانت داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ حضرات نشانہ ہی فرماتے اور عوام کو بتلاتے کہ اس وقت ان اکابر کے سامنے صرف یہ چند امور اجمالاً زیر بحث آئے تھے اور بس، اور ان موجودہ بینکوں میں احسن الفتاویٰ کے خاکے میں ذکر کردہ کئی امور کے خلاف ہو رہا ہے۔  
نیز یہ بھی بتلاتے کہ جو خاکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجہد ہم نے پیش کیا ہے یہ نہ احسن الفتاویٰ میں ہے اور نہ اُس وقت اکابر مفتیان کرام کے سامنے پیش ہوا تھا۔  
آئیے! ہم دونوں خاکوں کا موازنہ کرتے ہیں اور جامعۃ الرشید کے احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے موجودہ خاکے کو حضرت مفتی اعظم رحمہم اللہ تعالیٰ کے سرخوپا ہے لہذا ہر خاکے کا ہر ہر جزء دوسرے خاکے میں دکھانا آپ کے ذمہ لازم ہے۔

### ﴿دونوں خاکوں کا موازنہ﴾

(۱) موجودہ خاکے میں یومیہ پیدوار کی بنیاد پر منافع کی تقسیم کا طریقہ کارند کور ہے... یہ احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہے؟

(۲) محدود ذمہ داری کی تجویز کو کون مفتیان کرام نے قبول کیا ہے؟..... اور احسن الفتاویٰ کے خاکے کے کس جملے میں اس کا ذکر ہے؟

(۳) عقد سے قبل وعدہ کا مفسد عقد نہ ہونا اور دیانتہ و قضاء دونوں طرح لازم ہونا اور خلاف کی صورت میں کسی درجے میں مشتری اور مستاً جر کو نقصان کا ذمہ دار اور ضامن قرار دینا..... احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہے؟ بلکہ احسن الفتاویٰ میں تو پنج الوفاء کے ضمن میں ایسے وعدوں کے مفسد عقد ہونے کی تصریح ہے۔

(۴) اجارہ اور مرا بھ کے عقد سے پہلے سیکورٹی ڈپاٹ کی شرط لگانا اور اجارے کی صورت میں پلگ، ٹائر، بیٹری، وارنگ، رنگ و رونگ وغیرہ مرمت کے خرچ کا مانتا جر کو ذمہ دار ٹھہرانا..... احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہے؟..... اس میں تو صرف یہ ہے کہ:

”ایسے موقع پر بینک مشینری خرید کر عملی کو کرائے پر دیدے، عموماً اسکا کرائے مکمل کرنے میں اس بات کا لاحاظہ رکھا جاتا ہے کہ ایک معین مدت میں کرائے کے ذریعے مشینری کی کل لاگت منافع کے ساتھ وصول ہو جائے کرائے داری کی اس مدت میں مشینری بینک کی ملکیت میں ہوگی اور بینک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگی۔“ (حسن الفتاویٰ ۷/۱۲۳)

اس عبارت میں سیکورٹی ڈپاٹ کا ذکر کہاں ہے؟..... جبکہ بلوچی کے مسئلے میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرض کی بنیاد پر ایجاد کو صراحةً سو فرمایا ہے۔

نیز اس عبارت میں صراحت ہے کہ کرائے داری کی اس مدت میں مشینری بینک کی ملکیت ہوگی اور بینک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگی، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرمت کا خرچ مستاً جر اور عملی پر ہوگا؟

(۵) شرکت متناقصہ کے عنوان کے تحت جو مکانات کے معاملات ہوتے ہیں وہ احسن

الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہیں؟

احسن الفتاویٰ میں جن دو صورتوں کا ذکر ہے ان میں بیچ مرابحہ موَجلہ ہے، ایک صورت میں کل مکان کا اور دوسری صورت میں بینک کے حصے کا، اس میں اجارے والی صورت کا اتنا پتا ہی نہیں..... حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:

”مکان وغیرہ کی خریداری کے لئے جو قرض دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا ہے۔

وہ بھی ”مرا بحکم موَجلہ“ کی بنیاد پر ہو یعنی ابتداءً مکان بینک خریدے اور اس غرض کے لئے عميل ہی کو وکیل بنادے اس کے بعد جب مکان بینک کی ملکیت میں آجائے تو وہ عميل کو مرا بحکم کی بنیاد پر فروخت کر دے۔ اگر مکان تعمیر کرنا ہے تو تعمیر کی تکمیل کے بعد مکان عميل کو مرا بحکم فروخت کیا جائے۔

اگر عميل خریداری یا تعمیر میں اپنا بھی کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی لگائی ہوئی رقم کو پیشگی بیانہ کے طور پر سمجھا جائے (نہ کہ سیکورٹی ڈیپاٹ، احمد ممتاز)

دوسری صورت یہ ہے :

”عميل کا حصہ بطورِ شرکت کے ہوا اور ملکیت مکان میں دونوں شریک ہوئے، بعد میں بینک اپنا حصہ عميل کو ”مرا بحکم موَجلہ“ کے طور پر فروخت کر دے گا۔

ابتداءً یہ صورت شرکتِ املاک کی ہوگی اور ثانیاً ”مرا بحکم موَجلہ“ کی۔

دستاویز میں مرابحہ کا ذکر بطورِ وعدہ کے ہوگا۔“ (حسن الفتاویٰ ۷/۱۲۳، ۱۲۴)

نیز اس میں خریداری کے وعدہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کہاں ہے کہ اس وعدہ کی بنیاد پر اسے

مجبوہ بھی کیا جائے۔ اور یہ وعدہ بکنزلہ شرط کے ہوگا پھر بھی یہ مفسد عقد اور صفقہ فی صفقہ نہ ہوگا؟ اور مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بینک کا حصہ بطور اجارہ یا بیع نہ لے سکتا ہو تو اس کو کسی حد تک نقصان کا ضامن بھی بنایا جائے گا؟

(۶) بدول تجدید، قبض امانت کا قبض ضمان میں تبدیل ہونے کا تذکرہ احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کس جگہ ہے؟ ..... بلکہ اس میں تو اس کے خلاف کی تصریح ہے۔ صفحہ ۱۱۹ پر مرادکہ موجلہ کے عنوان کے تحت نمبر ۱۲ کی عبارت پر حاشیہ میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

”مجلس میں یہاں یہ اضافہ بھی کیا تھا جو غالباً سہواً تحریر سے رہ گیا ہے:  
بینک عمریل کے قبضے کی تصدیق کے لئے اپنا کوئی نمائندہ بھیج گا، قبضہ ثابت ہونے پر اس کا سٹیفیکیٹ دے گا۔ رشید، (حسن الفتاویٰ / ۱۱۹)

چونکہ خریداری کے بعد وکیل کی طرف سے بینک کو تصرف کا مکمل اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے بیع لے لے لہذا نمائندہ کا بیع کے پاس پہنچنے کی صورت میں اب یہ اختیار تصرف تنخیل کی وجہ سے حکماً قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بینک اگر چاہے تو اپنے نمائندہ کے واسطے سے اسی وقت اپنے قبضہ میں حقیقتہ لے سکتا ہے، لہذا یہ تنخیلہ معترہ ہوگا البتہ نمائندہ بھیجے بغیر اختیارات تصرف کو شرعاً تنخیلہ اور قبضہ نہیں کہا جا سکتا۔ جس کی تفصیل عنوان ”قبض امانت کا قبض ضمان میں بدoul تجدید تبدیل کرنا“ کے تحت لکھ دی گئی ہے۔

(۷) موجودہ خاکے میں خریداری کے بعد وکیل اور عمریل کا بینک سے ہر صورت میں لینا ضروری ہے، اور اس کو خیار عیب وغیرہ کی وجہ سے رد کرنے کا حق نہیں، جبکہ شرعاً موقل کے قبضے میں جانے اور قبول کرنے کے بعد موقل کا عیب کی وجہ سے رد کرنے کا حق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن عمریل کو شرعاً یعنی حق حاصل ہے کہ اگر کسی عیب کی وجہ سے وہ خریداری سے انکار کر دے

تو کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اس کو خریداری پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاویٰ میں صراحةً فرمایا ہے۔

”سوال (۳۶) : زید نے عمر و سے کہا میں تم کو روپیہ دیتا ہوں اور تمہارے لانے کی اور بار برداری کی اجرت اور کرایہ دیتا ہوں تم میرے اجیر بن کر مال لادوتا کہ پھر تم اس مال میں نقص نہ بتاؤ۔

الجواب : اس کہنے سے عمر و کا حق مال کو ناقص بتلانے کا وقت بیچ مرد بھی فیما یعنی ہمہ زائل نہیں ہو اعمرو کو مثل مشتری اجنی کے تمام حقوق حاصل ہیں البتہ زید کو یہ اختیار ہے کہ جس وقت عمر و اجیر وکیل ہونے کی بحیثیت سے مال لایا ہے اگر ناقص مال لانے سے منع کر دیا تھا تو ناقص ہونے کی صورت میں عمر و سے بوجہ خالفت کرنے کے روپیہ لے لے مگر جب مال کو قبول کر لیا تو زید کو تو کوئی حق نہیں رہا مگر عمر و کو یہ حق حاصل ہے۔“

(امداد الفتاویٰ ۳۱/۳)

آنحضرات بتلا میں کہ :

احسن الفتاویٰ کے خاکے میں تکمیل بیچ سے پہلے عملی سے یہ حق چھیننے کا ذکر کہا ہے؟ اس میں تو تکمیل بیچ بشرط البراءۃ من کل عیب کے بعد تو یہ حق ثابت نہیں مانا گیا..... اور شرعاً بھی ثابت نہیں، لیکن تکمیل سے پہلے اس کے عدم ثبوت کا ذکر کہا ہے؟ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے :

”پونکہ ٹریکٹر عملی نے بحیثیت وکیل خود خریدا ہے، اور اس کے جملہ مطلوبہ اوصاف سے وہ خود واقف ہے اس لئے جب بینک اس کو ٹریکٹر فروخت کرے گا تو اسے ”جیسا ہے جہاں ہے“ کی بنیاد پر فروخت کرے گا، جسے

فقہی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”بیع بشرط البراءة من كل عيب“، ہوگی، لہذا عميل بیع کی تکمیل کے بعد کسی عیب کی بنیاد پر بینک کو وہ ٹریکٹر نہیں لوٹا سکتے گا۔“ (حسن الفتاوى / ۱۲۰)

(۸) موجودہ خاکے میں جامداثاںوں مثلاً مشینزی وغیرہ کے اجارے کی صورت میں جو صفقہ فی صفقہ کا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اس میں کہیں تو صراحتہ اور کہیں عرفایہ بات مشروط ہوتی ہے کہ مستقبل میں یہ چیز عميل و متناجر کی ہوگی۔ خواہ بصورت ہبہ ہو یا قلیل ایڈوانس کے عوض میں بصورت بیع۔ جبکہ حسن الفتاوى کے خاکے میں اس صورت کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں، وہاں جو صورت لکھی ہوئی ہے اس میں صفقہ فی صفقہ کا اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔

حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیے:

”ایسے موقع پر بینک مشینزی خرید کر عميل کو کرایہ پر دیدے، عموماً اس کا کرایہ مقرر کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایک متعین مدت میں کرایہ کے ذریعہ مشینزی کی کل لاگت منافع کے ساتھ وصول ہو جائے۔ کرایہ داری کی اس مدت میں مشینزی بینک کی ملکیت میں ہوگی اور بینک پر ہی اس کی ذمہ داری ہوگی۔“ (حسن الفتاوى / ۱۲۳)

(۹) ویٹچ کا اختراع اور اس کی بنیاد پر وقت سے پہلے رقم نکالنے والے کے حصے کو ویٹ کے حساب سے کم میں فروخت کرنے پر مجبور کرنا حسن الفتاوى کے خاکے میں کہاں ہے؟  
 (۱۰) شرعاً صحتِ شرکت و مضاربت کے لئے اپنے رأس المال کے تناسب سے نفع کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور یہ موقوف ہے کاروبار کی پوری مدت میں استعمال ہونے والے سرمائے کے معلوم ہونے پر جبکہ بینکوں میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹے کا سرمایہ الگ ہوتا ہے۔

اس طرح کے غیر معلوم، بکھرے ہوئے، مجہول سرمائے کا جواز احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہے؟

### ﴿احسن الفتاویٰ کے خاکے میں کیا ہے؟﴾

(۱) ”نکات متعلقہ مشارکہ“ کے عنوان کے تحت تین صفحات پر مشتمل گیارہ نکات میں بینک کا آگے شرکت و مضاربہ پر کاروبار کرنے کی صورتوں کا ذکر ہے۔

جامعۃ المرشید کے احباب بتلاعیں کہ بینک نے اس پر آج تک لکھا ہوا ہے؟

(۲) احسن الفتاویٰ کے خاکے میں صفحہ ۱۲۰ تجویز نمبر ۱۵ میں صراحةً یہ لکھا ہوا ہے کہ عميل عقد و کالات کے وقت جو خریداری کا وعدہ کرتا ہے، وہ صرف یقین دہانی کرانے کے لئے کرتا ہے۔ یہ وعدہ بطور شرط کے نہیں ہوتا، جیسے آج کل کے خاکے میں ہوتا ہے۔

آپ حضرات ہی بتلاعیں کہ دونوں وعدوں میں فرق ہے یا نہیں؟

حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبارت یہ ہے:

”وکالت کا عقد کرتے وقت عميل بطور وعدہ اس بات کی یقین دہانی

کرائے گا کہ جب ٹریکٹر بک کی ملکیت اور حضان میں آجائے گا تو وہ یہ

ٹریکٹر بک سے پہلے سے طے شدہ قیمت پر خرید لے گا۔“

(احسن الفتاویٰ ۷/۱۲۰)

(۳) احسن الفتاویٰ کے خاکے میں ہے:

”اس نظام کی نگرانی کے لئے“ رقبہ شرعیہ“ کا شعبہ قائم کرنا ناجائز ہے اس

کے بغیر شرعی حدود کی رعایت نہیں ہو سکے گی، یہ شعبہ جو ایسے ماہرین

شریعت پر مشتمل ہوگا جن کو تدریس و افقاء کام از کم پندرہ سالہ تجربہ ہو،

بنک کے یومیہ معاملات و معابرداری کا نقشی نقطہ نظر سے عمیق جائزہ لیگا اور

فاسد و باطل معاملات کا سدہ باب کریگا۔ (حسن الفتاویٰ ۱۲۷/۷)

اس عبارت میں حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”رقابہ شرعیہ“ کے لئے ایسے ماہرینِ شریعت کی شرط لگائی ہے جن کو مدرس و افتاء کام از کم پندرہ سالہ تجربہ ہو۔

اب ہم آپ حضرات سے دریافت کرتے ہیں کہ اس وقت ان بیکوں میں ”رقابہ شرعیہ“ کے ارکان اس معیار پر ہیں؟

کتنے شرعی ایڈ وائز رایسے ہیں جن کو تنا طویل تجربہ حاصل ہے؟

(۲) موجودہ خاکہ میں وکیل کو فوراً خریداری کا پابند بنایا گیا ہے تا خیر کرے گا تو نقصان کا ضامن ہوگا..... یا حسن الفتاویٰ کے خاکے میں کہاں ہے؟ حسن الفتاویٰ میں تو یہ ہے کہ:

”بینک کے لئے اخذ و تمام اشیاء کی خریداری برداشت مشکل ہے، اس لئے وہ مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے لئے خود عميل کو اپنا وکیل بنادے گا اور یہ عميل پہلے وہ چیز مثلاً ٹرکیٹر بینک کے وکیل کی بحیثیت سے خرید کر قبضہ میں لے لے گا اور خریداری کی تکمیل پر بینک کو مطلع کر دے گا، کہ میں نے وکالت کی بنیاد پر آپ کے لئے ٹرکیٹر خرید کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب میں وہ ٹرکیٹر اپنے لئے خریدنا چاہتا ہوں۔“

بینک اس موقع پر وہ ٹرکیٹر عميل کو فروخت کر دے گا۔

عملی کے بحیثیت وکیل خریدنے سے لے کر بینک سے اپنے لئے خریدنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہوگا اس میں ٹرکیٹر بینک کی ملکیت اور بواسطہ وکیل اس کے تقدیری قبضے میں رہے گا اور بینک کے ضمان میں ہوگا، پھر جب عميل اور بینک کے درمیان بیع منعقد ہو جائے گی اس وقت ٹرکیٹر کا ضمان

عمیل کی طرف منتقل ہوگا۔“ (احسن الفتاویٰ ۱۱۹، ۱۲۰)

نیز اس عبارت میں عمیل کے لئے یہ کہاں لکھا ہے کہ فوراً خریدے ورنہ تاخیر کی صورت میں کسی حد تک نقصان کا ضامن ہوگا؟

﴿۶﴾ عنوان ”اکابر کے فتاویٰ میں افقاء بمد ہب الغیر کی مثالیں“ کے تحت تین چار صفحات میں مذہب غیر پر فتاویٰ کی متعدد مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن ہر جگہ ابتلاء عام، ابتلاء شدید اور ضرورت کی قید کا ذکر ہے، جبکہ الترام کی ایسی ضرورت نہیں جس کے لئے خروج عن المذہب کو جائز کہا جائے۔ کیونکہ یہ ضرورت اور ابتلاء عام ان بیکوں کی پیداوار ہے، ان بیکوں کے وجود سے قبل بلکہ آج بھی موجودہ دور میں تقریباً سارے تاجر ادھار معاملات کرتے ہیں، اور بدؤں الترام کرتے ہیں، اور سب کی تجارتیں محمد اللہ تعالیٰ اس کے بغیر چل بھی رہی ہیں..... معلوم ہوا کہ ایسا ابتلاء اور ضرورت نہیں جس کی خاطر خروج عن المذہب ناگزیر ہو۔

﴿۷﴾ اس اعتراض کہ ”ارباب الاموال کی طرف سے مال بینک کو مکمل حوالے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب چاہتے ہیں اپنے اموال اکاؤنٹ سے نکال سکتا ہے اخ“ کے جواب میں فرماتے ہیں:

”قال فى البدائع تحت فصل فى شرائط ركن المضاربة : و منها

تسليم رأس المال الى المضارب؛ لأنَّه أمانة فلا يصح الا بالتسليم وهو التخلية ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال.

(بدائع ۱۳/ ۱۶۷)

اس عبارت میں ”ولا يصح مع بقاء يد الدافع“ والا جملہ تسليم کی تفسیر ہے جس سے معلوم ہوا کہ ”تسليم“ جس کا تحقیق نفس تعلیم سے ہو جاتا ہے اس تسليم کے

تحقیق کے لئے جس قسم کے تخلیہ کی ضرورت ہے یعنی بقاء یہ دافع کے منافی ہے۔ بینکوں میں ارباب الاموال جب رقم جمع کرتے ہیں تو اس بات کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ”تخلیہ“ کا تحقیق بہر حال ہو جاتا ہے کیونکہ بینک جب چاہے اس رقم کو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے، لہذا ارباب الاموال کا ”جب چاہے رقم نکلوانے کی اجازت“ کو ان کے یہ کے بقاء کی علامت قرار دینا درست نہیں، کیونکہ تخلیہ و بقاء یہ میں اجتماع ممکن نہیں۔ سو ارباب الاموال کے ”جب چاہیں رقم نکلوانے کی اجازت“، کو تخلیہ و تسلیم کے منافی قرار دینے کے بجائے ”جب چاہیں شرکت ختم کرنے کی اجازت“ پر محظوظ کیا جائے گا اور یہ شرط نہ صرف یہ کہ شرط فاسد نہیں بلکہ مطلق مضاربہ اور مطلق عقد شرکت کا عین مقتضی ہے کہ مطلق مضاربہ و مطلق شرکت میں جو چاہے جب چاہے عقد ختم کر سکتا ہے۔“

(غیرسودی بینکاری، جامعۃ الرشید ۱۲۵، ۱۲۷)

آتوں:

(۱) حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ بینک کے خاکے میں تحریر فرماتے ہیں:

”(۱) مشارکہ کے آغاز سے متعلق یا اصول طے ہوا:

ابتداء میں بینک اپنے عميل سے یہ وعدہ کرے گا کہ مددتِ مشارکہ مثلاً چھ ماہ کے دوران وہ مجموعی طور پر کتنی رقم مشارکہ کی بنیاد پر عميل کو فراہم کریگا جس سے عميل کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ طے شدہ مدت کے دوران منظور شدہ رقم کی حد تک وقفاؤ قائمًا مختلف رقم مشارکہ کی بنیاد پر لیتا رہے۔ عميل کے اس حق کا آغاز اس وقت سے ہوگا جس وقت معاهده کی

دستاویزات تیار ہوئیں۔

البته نفع و نقصان کی تقسیم کے اعتبار سے عملاً مشارک کہ کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب پہلی بار وہ عملاً مشارک کی بنیاد پر رقم بینک سے نکلوائے گا۔  
(احسن الفتاویٰ ۷/۱۱۶)

اس عبارت میں مشارک کی کل مدت کا ذکر بھی ہے اور مجموعی رقم یعنی کل سرمایہ کی مقدار کا ذکر بھی ہے (مثلاً چھ ماہ کے لئے شرکت ہے اور کل سرمایہ ایک کروڑ ہے، گویا ان چھ ماہ میں کاروبار سے جتنا نفع ہو گا وہ کل رأس المال یعنی ایک کروڑ کے حساب سے تقسیم ہوگا) نیز اس عبارت میں اس کا ذکر بھی ہے کہ کل سرمایہ بینک میں ہوگا اور عميل و شریک کو معاملہ کے دستاویزات مکمل ہونے کے بعد مدت شرکت میں وقتاً فوتاً نکلوانے کا حق ہوگا، اور پہلی بار نکلوانے سے شرکت کی مدت شروع ہوگی۔

یہ بات معلوم ہے کہ جو شریک عمل کرتا ہے اس کے پاس دوسرے شرکاء کا مال حکماً مضاربہ ہوتا ہے..... یہاں بینک گویا رب المال ہے اور عميل مضارب، اور بینک نے عميل اور اموال کے درمیان تخلیہ کر دیا ہے کہ مدتِ مشارک میں جب چاہے رأس المال کی مقدار تک اموال وقتاً فوتاً نکال سکتا ہے، البته باقی ماندہ رقم پر بینک کا یہ باقی ہے مثلاً عميل نے ایک کروڑ رأس المال میں سے دس لاکھ پہلی بار نکال دیے تو باقی نوے لاکھ بینک رب المال کے قبضہ اور یہ میں ہے، جبکہ پہلی بار دس لاکھ نکالتے ہی ایک کروڑ سرمایہ کے تناسب سے کاروبار شروع ہو گیا۔

جامعۃ الرشید کے احباب کے بقول جب بقارے یہ اور تخلیہ میں منافات ہے تو ان اکابر مفتیانِ کرام حبهم اللہ تعالیٰ نے متفقہ طور پر اس کو جائز کیوں فرمایا؟  
(۲) دونوں کے استعمال و استخراج کی اجازت اس انداز سے دینا جیسے کرنٹ اکاؤنٹ

میں ہوتا ہے اور جیسے مقرض مقرض سے جب چاہے اپنا قرض طلب کرے، ضرور قوی شیہہ پیدا کرتا ہے کہ یہ حقیقی شرکت و مضاربت کی طرح نہیں ہے کیونکہ حقیقی شرکت و مضاربت میں جمال عميل اور مضارب کو حوالہ اور تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں صاحب مال کو اس قسم کی اجازت نہیں ہوتی کہ جب چاہے اپنا دیا یا ہو مال نقد کی صورت میں لے لے۔

(۳) یہ کہنا کہ ”جب چاہیں رقم نکلوانے کی اجازت“ کو ”جب چاہیں شرکت ختم کرنے کی اجازت“ پر محول کیا جائے گا، درست نہیں۔ کیونکہ شرکت ختم کرنے کا حق اگرچہ شرعاً ہر شرکیک اور رب المال کو ہے لیکن شریعت نے یہ حق تو ان کو نہیں دیا کہ اپنا حصہ نقد کی صورت میں جب چاہیں لے سکتے ہیں۔

شرکت ختم کرنے کے بعد جب تک عميل مشترک سامان کو فروخت کر کے سارے اموال کو نقد میں تبدیل نہیں کرے گا، نقدر و پے کا مطالبه جائز نہیں۔

رہی یہ بات کہ یہ اپنا حصہ دوسرے شرکاء اور مضارب کو فروخت کر رہا ہے اس لئے نقد رو پے لیتا ہے تو اس کی تفصیل عنوان ”شرکت و مضاربت شروع ہونے کے بعد بعض شرکاء کا بعض یا کل رقم نکلوانا“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

﴿۸﴾ ”شرکت ختم کرتے وقت شرکیک کو ایک خاص قیمت پر اٹاٹے بینچے پر مجبور کرنا“، اس عنوان کے تحت ایک اشکال کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلے پوری عبارت ملاحظہ فرمائیے پھر ہمارا تبصرہ۔ لکھتے ہیں:

”بعض حضرات کی طرف سے اسلامی بینکوں میں راجح اس شرط کو شرط فاسد میں شمار کر کے بینکوں کے معاملات کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور وہ شرط یہ کہ شرکت ختم کرنے والے کو اس کی مملوکہ اثاثوں میں سے حصہ دینے کے بجائے اسے اپنا مشاع حصہ بینچے پر مجبور کیا جاتا ہے۔“

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مملوک حصوں کے بیچ پر جرواٹی شرط کو شرط  
فاسد تسلیم کر بھی لیا جائے تو آگے تفصیل آ رہا ہے کہ شرکت شروط فاسدہ سے  
فاسد نہیں ہوتی لہذا یہ شرط ہتی لغو ہو گی یعنی شریک شرکت ختم کر کے علیحدہ  
ہونا چاہے گا تو اسے خیار حاصل ہو گا کہ چاہے تو اپنا مشاع حصہ بیچ چاہے  
نہ بیچ۔ لیکن اگر وہ اپنی سہولت کیش قم کی حصوں میں ہی سمجھے اور اثاثے  
بینک کو فروخت کرنا اپنے لئے اہون سمجھے اور بینک بھی اس پر راضی ہو تو  
اسے کوئی بھی عین اثاثوں میں سے اپنا حصہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔  
اور اگر غور کیا جائے تو ارباب الاموال کے لئے سہولت بھی اسی میں ہے،  
ورنہ ارباب المال اس مشاع کے عین سے تو بہر حال اتفاق نہیں کر سکتے  
کیونکہ اس میں ہزاروں لوگ شریک ہیں نیز اثاثوں کے مشاع حصہ کو عام  
مارکیٹ میں فروخت کرنا اس کے لئے عادۃ ناممکن ہے، لہذا اسے یہ حصہ  
ایسے شخص کے ہاتھوں ہی فروخت کرنا پڑے گا جو ان اثاثوں میں دیگر شرکاء  
کے ساتھ شریک ہو کر اس کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتا ہو۔ اور انہیں بھی  
اگر زائد قیمت پر فروخت کرے گا یہ خریدیں گے ہی نہیں کیونکہ ان نے  
شرکاء کے لئے کاروبار میں شرکت کی غرض سے ان اثاثوں کی بقدر مشاع  
حصہ میں شرکت اس زائد قیمت سے کم میں بھی ممکن ہے، کیونکہ بینک کی  
طرف سے توہر ایک کو اجازت ہے کہ جو چاہے جب چاہے اکاؤنٹ ہو کر  
ان اثاثوں میں اپنے سرمایہ کے تناسب سے شریک ہو جائے۔

اور ان کے سوا کسی دوسرے شخص کو ان اثاثوں میں قطعاً غبت نہ ہو گی۔ لہذا  
شرکت ختم کرنے والا شخص اپنے مشاع حصے تو بہر حال ایسے شخص کے

ہاتھوں ہی فروخت کر سکے گا جو اس کاروبار کا حصہ دار بننا چاہتا ہو کیونکہ عملی طور پر سہولت کا راستہ اسی میں متعین ہے اور اس کام کے لئے سب سے آسان راستہ اس کے لئے بینک ہی ہے کہ براہ راست بینک کو فروخت کر دے کیونکہ بینک ہی آسانی یہ حصہ خرید کر اپنے پاس یا آگے اس کاروبار میں شریک ہونے والے کسی دوسرے شخص کو فروخت کر سکتا ہے۔

لہذا شرکت ختم کرتے وقت اپنا مشاع حصہ یعنی کی شرط کو اگر شرط فاسد مان بھی لیا جائے تو اولاد تو شرکت / مضاربہت کے عقد پر اس شرط سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ شرکت / مضاربہت ایسی شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگی، ثانیاً اس شرط کو لغو مان کر شرکت ختم کرنے والے شریک کو اٹاٹے یعنی اور نہ یعنی دونوں کا اختیار دینے کے نتیجے میں بھی عملی طور پر ہو گا بہر حال وہی جو اس شرط کو معتبر مانے کے نتیجے میں ہوتا، یعنی شرکت ختم کرنے والے شخص کے لئے ان اٹاٹوں سے انتفاع کا عملی طور پر سہولت یہی راستہ متعین رہ جائے گا کہ اسے بینک کی مقرر کردہ قیمت پر بینک کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ لہذا اس شرط کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اس کی بنیاد پر بینکوں کے معاملات کو ناجائز اور حرام کہنا بصیرت فہمیہ کے قطعاً منافی ہے۔

مزید یہ کہ تضییض کی صورت میں دیگر ارباب الاموال کی طرح خود اس رب المال کا بھی نقصان ہے جو عقد شرکت ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ تضییض کے بعد یا اٹاٹے مارکیٹ میں اونے پونے دام نیلام ہوں گے، جبکہ نیلامی کے مصارف اور اس پر اوقات کے ایک کثیر حصے کا صرف ہونا اور پھر نیلامی

کے انتظامات کی محنت جیسے امور الگ رہے جبکہ شریک سے بینک جب حصہ خریدتا ہے تو

- ۱۔ مارکیٹ ولیو (جو کہ عملاً Book Value ہوتا ہے) پر خریدتا ہے۔
  - ۲۔ بینک اس وقت تک کافی نفع بھی رب المال کو اس کی قیمت میں شامل کر کے دیتا ہے اس صورت میں علیحدہ ہونے والے شریک کی طرف سے تنضیف کا مطالبہ اضرار لفسم وغیرہ من الشرکاء کے سوا کچھ نہیں۔ فقهاء نے بعض ایسی صورت میں تقسیم کے مطالبہ کونا جائز قرار دیا ہے جب شریک کا مقصد اضرار لفسم وغیرہ کے سوا کچھ نہ ہو جیسے کسی چیز کی تقسیم کے بعد اگر اتفاق عُمکن نہ ہو تو شریک کا ایسے مشترک مال کے عین میں اپنے حصے کو الگ کرنے کا مطالبہ فقهاء کے نزدیک باطل ہے جیسے کسی چھوٹے سے کمرے میں تین آدمی شریک ہوں اور ان میں سے ایک اپنا حصہ الگ کرنا چاہیے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ علیحدگی کے اس مطلبے میں دیگر سب شرکاء کا بھی نقصان ہے اور تقسیم کا مطالبہ کرنے والے خود اس شریک کا بھی،“
- (غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید ۱۲۸ تا ۱۲۶)

آقول: عنوان ”شرکت و مشارکت شروع ہونے“ کے بعد بعض شرکاء کا بعض یا کل رقم نکلوانا، اور عنوان ”ویثیخ“ کے تحت ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ بینک کا یہ شرط لگانا اپنے نفع اور کلاسٹ کو نقصان دینے کے لئے ہے، لیکن یہ عجیب بصیرت فہمیہ ہے کہ اتنی واضح اور موٹی سی بات کو بھی نہ سمجھ سکی۔

بدوں تراضی جبراً اوکراً کسی سے کوئی چیز خریدنا حلال ہے یا حرام؟ قرآن کریم نے ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم﴾ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۹، کی شرط اور قید

کیوں لگائی؟ تمام حضرات فقہاء کرام حبہم اللہ تعالیٰ نے بیع کی تعریف میں مبادلة المال بالمال کے ساتھ بالتراضی کی قید لگائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں؟

اس بصیرت فہمیہ پر تجھب ہے! روزانہ یہ خلاف شرع بیوں ان نام نہاد اسلامی بینکوں میں کتنی ہوتی ہیں؟ اور یہ حرام کس کے پاس انتہاء جاتا ہے؟ اس حرام سے مسلمان کو بچنا لازم ہے یا نہیں؟ اور بچنے کی صورت کیا ہے؟ رفقاء احباب ہی وہ صورت مسلمانوں کو بتلا کیں!!!  
نیز یہ کہنا کہ:

”جبکہ شریک سے بینک جب حصہ خریدتا ہے تو

۱۔ مارکیٹ ولیو (جو کہ عملاً Book Value ہوتا ہے) پر خریدتا ہے۔

۲۔ بینک اس وقت تک کافی نفع بھی رب المال کو اس کی قیمت میں شامل

کر کے دیتا ہے، اخ”، (غیر سودی بینکاری جامعۃ الرشید ۱۲۶)

یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ حضرات کے دل بھی اس کو مانے کے لئے تیار ہونگے، کیونکہ روزانہ اس قسم کے شرکاء جو کلی یا جزوی طور پر شرکت ختم کرتے ہیں، کئی ہوتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں روزانہ مارکیٹ ولیو کا حساب کرنا بینک کے لئے ممکن ہے؟ اور کیا آج تک کسی ایک شریک کو یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کے حصے کی مارکیٹ ولیو کے حساب سے اتنی قیمت بننی ہے جس کی وجہ سے آپ کا اصل سرمایہ کے ساتھ ساتھ اتنا نفع بھی دیا جا رہا ہے؟

ایک اسلامی نامی بینک میجر نے تو بندہ کو خود بتلایا کہ زیادہ ویٹ والا اگر جلدی رقم نکلواتا ہے تو ہم تقلیل مدت کے ویٹ کے حساب سے نفع کا تعین کر کے زیادہ مدت کے ویٹ سے جو زیادہ نفع اب تک لے چکا ہے وہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اگرچہ علماء اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ نفع نہیں کاٹتے... بلکہ اس کے حساب سے اس کا حصہ کم قیمت میں خریدتے ہیں۔ بہر حال ولیو وغیرہ کی با تیں صرف ہوائی با تیں ہیں، ان پر بینک کے لئے عمل ممکن ہی نہیں۔

الحاصل یہ شرط بینک نے خالص اپنے نفع اور کلائنس کا خون چونے کے لئے لگائی ہے۔ احباب جامعۃ الرشید و دیگر مجوزین حضرات ان بینکوں سے یہ ناجائز شرط ختم کروائیں، کیونکہ عام لوگ تو نہیں سمجھتے کہ یہ شرط الغوہ ہے اور ہم دوسرے کو بھی اپنا حصہ پیٹھ سکتے ہیں، اس لئے اس شرط کے دباؤ میں کلائنٹ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہوئے چلتا ہے اور جن کو لغو ہونے کا علم بھی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شرط شرعاً لغو ہے اور بینک نہ تو شریعت کا پابند ہے، اور نہ علماء کی ہروہ شرعی بات جس میں بینک کا نقصان ہو، مانے کا ذمہ دار ہے، (ورنہ رفقاء دار الافتاء جامعۃ الرشید ناجائز اور لغو شرعاً اس سے بینک کو پاک کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بینک کو یہ مسئلہ بتا سیں کہ یہ شرط الغواہ اور ناجائز ہے اس کو ختم کر دیا جائے، پھر دیکھیں کہ بینک اس کو مانتا ہے یا نہیں؟) اس لئے یہ لوگ بھی اپنے حصے کو بینک کے ہاتھ فروخت کرنے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں۔

بینک اس شرط کو مجوزین حضرات کی وجہ سے چھوڑ کر اپنا نقصان نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ اس شرط کے راستک اگرچہ مجوزین حضرات کی بصیرتِ فقہیہ نہیں پہنچ پائی لیکن وہ (بینک) تو خوب سمجھتا ہے کہ اس شرط سے مستبردار ہونے کی صورت میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ مثلاً وہ شخص جس نے دس لاکھ روپے پر دس سال مدت کے ویٹ سے پانچ سال تک نفع لیا ہے اگر پانچ سال کے بعد کسی دوسرے پانچ سال تک دس لاکھ روپے رکھنے والے کے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کرے گا تو اس کو دس سالہ ویٹ کے حساب سے زیادہ نفع ملے گا، بینک اس شرط کی وجہ سے نکلنے والے یعنی حصہ فروخت کرنے والے سے بھی زیادہ لیا ہوا نفع واپس کر کے خود لے لیتا ہے اور دوسرے کے لئے پانچ سالہ ویٹ کے حساب سے نفع کا تعین کر کے اس کو دس سالہ ویٹ کے حساب سے زیادہ نفع سے محروم کر کے قلیل نفع پر مجبور کر دیتا ہے، تاکہ بینک کو زیادہ نفع ملے اور کلائنٹ کو کم۔ اس طرح اس شرط کے ذریعے سے دونوں کا خون چوتا ہے۔

**تعمیبیہ:** صرف اس کہنے سے کہ یہ شرط شرعاً لغو اور فاسد ہے اور اس سے شرکت و مضاربت پر کوئی اثر نہیں پڑتا (اگرچہ بینک اس کے ساتھ شرط صحیح کا معاملہ کرتا ہو) حضرات مجوزین علماء کرام بری الذمہ ہو جائیں گے؟ اور کیا اس قسم کی شرائط کا مشورہ دینا ان کے لئے جائز ہے؟

حضرات مجوزین علماء کرام کے ذمہ لازم ہے کہ نہ تو ایسی لغو اور فاسد شروط کا بینک کو مشورہ دیں اور اگر بینک ایسی شرائط پر مُصر ہو تو بھی یہ حضرات اپنی شرعی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ایسی شرائط کے نفاذ اور وجود کا راستہ روکیں، ورنہ ایسے بینکوں سے برائت کا اعلان کر دیں نہ کہ ان کے دفاع پر کمرستہ ہوں۔

## حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی کتاب

### ” بلاسود بینکاری“ پر تبصرہ

حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین صاحب مدظلہ کی کتاب ” بلاسود بینکاری“ میں کیا ہے؟ اور حقیقت کیا ہے؟

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ درج ذیل امور پر غور کیجئے اور خود حضرت مفتی صاحب کی دیانت، تحقیق اور اصول شرعیہ کی پاسداری کا اندازہ لگائیے، اور فیصلہ کیجئے کہ یہ کتاب دیانت پر بنی ہے یا نہیں؟ اس میں مخفف اور مدلل گفتگو ہے یا اس کے خلاف؟ اس میں اصول شرعیہ کا لحاظ رکھا گیا ہے یا ان کو پامال کیا گیا ہے؟

(۱) کتاب ” بلاسود بینکاری“ میں اخباری بیانات جو اکثر غیر مصدقہ ہوتے ہیں، سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اسلامی بینکاری کا جو خاکہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدد نے تیار کیا ہے یہود و نصاریٰ کو وہ قطعاً قبلِ محل نہیں۔ جبکہ یہ تاثر حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اسلامی نامی بینکاری کے خاکے اور ڈھانچے کا موجود اول کون ہے؟ ذیل میں اس کا جواب مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب زید مجدد کی تحریر سے ظاہر ہے کہ وہ یہودی ہے۔

لہذا ان کو اس سے چڑھ کیوں ہوگی؟ وہ مجوزین و مردِ جین سے ناراض کیوں ہونگے؟ نیز اگر یہ مروجہ اسلامی نامی بینکاری نظام ان کے مقاصد سے متصادم ہوتا تو یہود و نصاریٰ کے ممالک میں ان کی کثرت نہ ہوتی۔ یہود و نصاریٰ اپنے بینکوں میں اس کے وظائف نہ کھلواتے۔ اپنے ملکوں میں ان بینکوں کو جائز نہ دیتے۔

”جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ بنوری ناؤن“ سے شائع ہونے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے:

اہل مغرب اسلامی بینکاری و اسلامی معاشیات کو ہاتھوں ہاتھ اپنے ہاں فروغ دے رہے ہیں، روایتی بینک بھی اپنے ہاں ایک اسلامی کاؤنٹر (Islamic Windows) کھول رہے ہیں خود حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد ہم کا بیان ہے کہ اسلامی طریقہ ہائے تمویل (Modes of Financing) پر آئی، ایک، ایف اور ”ولڈ بینک“ کے تحت بھی با قاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ان میں سے بعض کی تائید میں مغربی مصنفوں کے مقالات بھی آرہے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اہل مغرب کو پورے اسلام میں صرف مروجہ طرق تمویل (Financing Modes) ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیا اسے اسلامی بینکاری کی نمایاں کامیابی کہنا چاہئے کہ اسے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بھرپور چیز کے ساتھ رواج دے رہے ہیں یا سرمایہ داری تقاضوں کی حامل بینکاری؟

حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم ملک ”سنگا پور“، کراچی شہر جتنا ملک بھی نہیں ہے اور ”انڈونیشیا“ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے مرجہ اسلامی بینکاری سنگا پور میں زیادہ اور انڈونیشیا میں کم ہیں۔ (مرجوہ اسلامی بینکاری ۸۸، ۸۹)

برادرِ من! یہودی لاپی تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بہت خوش ہے کہ ہمارا مرتب کیا ہوا وہ خاکہ جس کو دوسرا علاعِ حق نے رد کیا ہے، آپ نے اس کو خوب پرداں چڑھایا۔

## حقیقت کیا ہے؟

اصل حقیقت کو علماء کرام کی درج ذیل وزنی، جاندار اور چشم کشا تحریر میں ملاحظہ فرمائیے۔  
تیغیری برطانیہ کے محقق اور متدین علماء کرام نے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب زید مجدد ہم کو ارسال کی ہے۔

## ﴿برطانیہ سے مقتدر علماء کرام کی تحریر بنام مفتی حبیب اللہ صاحب﴾

از یعقوب احمد مفتاحی، لندن

با سمہ تعالیٰ!

محترم القائم حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ :

بعد سلام مسنونہ خیریت طرفین بدرگاہ ایزدی نیک مطلوب، بندہ عرصہ دراز سے ”اسلامک فائنس“ کے حوالے سے پریشانی میں تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کے بال مقابل ”شرعی رائے و فیصلہ“ کا اظہار ہمارے علماء و مفتیان کرام کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہا ہے جبکہ مفتی صاحب کی ذاتی رائے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اور خصوصاً برطانیہ میں غلط فائدہ اٹھا کر سودی کاروبار کو ”اسلامک حلال فائنس“، کا نام دے کر سود کو حلال کیا جا رہا ہے۔

الحمد للہ گذشتہ کل امیر جماعت حزب العلماء یو کے حضرت مولانا موسیٰ کرماؤی صاحب نے مجھے آپ مدظلہ کی کتاب ”تکملۃ الردا لفقہ حی .....“ عطا فرمائی، جسے کل ہی مکمل پڑھ لی اور دل کی گہرائیوں سے حضرت کے کاوشوں کی مقبولیت کے لئے دعائیں نکلیں کہ آپ نے قرآن و نبی الخاتم ﷺ و فقهاء امت کا حق ادا کر دیا، فخر اک اللہ خیر الجزراء و احسنالجزاء منهم و من امته اُمر مسلمین خصوصاً من علماء الدین۔

بندہ کی ”اسلامک فائنس“ کے حوالے سے پریشانی کی وجہ کے متعلق دو واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں:

کچھ سالوں سے یہاں یورپ میں خصوصاً برطانیہ میں ”حلال بینکنگ“ کے نام سے نہ صرف متدين مسلمانوں نے بلکہ غیر برطانوی اداروں نے بھی اس مہم کو ہوادی، معلوم نہیں

پس پرده کیا حرکات تھے؟ وہ سمجھ سے اس وقت بالاتر تھے، مگر اس وقت اس حوالے سے یہاں کی دینی شخصیات خصوصاً وہ علماء جو ملکی سطح پر ظنی طور پر محرک تھے ان میں اس حوالے سے اس کی صحت اور سود سے پاک ہونے پر مطمئن نہ تھے اور نہاب ہیں۔

ایسا ہی ایک واقعہ خود مجھے بھی پیش آیا اور وہ یہ ہوا کہ قطر میں مرکز کے حوالے سے ایک گروہ کے نمائندہ نے برطانیہ بھر میں مخصوص چکوں کے دورے کر کے مقامی مسلم نمائندوں سے ملاقات کی جس میں وہ مجھے بھی ملا اور مقامی مسلمانوں کے ساتھ اس سے ہماری ملاقات و سوال جواب ہوئے، یہ اجلاس انگلینڈ کے لکشاڑ ضلع کی سطح پر بلکہ ان میں میرے توسط سے ہوا، اس اجلاس کے حوالے سے یہ بات بڑی تجویز تھی کہ ”اسلام فائننس“ کے متعلق قطری مرکز کا ”امریکن غیر مسلم فائننس“ مسلمانوں سے مخاطب تھا وہ خود کو اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کا حوالہ دے رہا تھا اسے اس وقت سخت شرمندگی اٹھانی پڑی جب ایک متین شخص نے بحث و مباحثہ کے درمیان اس سے کہا کہ جب ”تو اسلام کے حوالے سے اتنے جذبات اور حلال اور حرام کی بات کرتا ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟“

اس اجلاس کے بعد خود اس نے اور اس کے ایریا علاقے کے غیر مسلم گورے نمائندہ نے بارہا مجھ سے رابطے کئے مگر میں نے انھیں اپنمنٹ نہیں دیا۔ اس کے بعد جب برطانیہ میں مارگریٹ تھپر کی کنٹرول یو پارٹی کو شکست دے کر لیبر حکومت قائم ہوئی تو برطانوی وزیر اعظم بلنیر نے برطانوی مسلم نمائندوں کو برطانوی تاریخ میں جہاں پہلی مرتبہ..... پارلیمنٹ میں مدعو کیا وہیں کامن ویلٹھ انسٹیٹیوٹ میں خود آ کر ملکران کے مسائل سننے اور وعدے کئے۔

تو اس کامن ویلٹھ کے اجلاس مذکور میں ”قطری مرکز“ کا وہ گور نمائندہ بھی موجود تھا اس نے جب مجھے پہچان لیا تو دوسرے ساتھیوں کے سامنے وہ خود ہی میرا تعارف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ شخص سخت جان ہے اس نے مجھے بار بار کی کوششوں کے باوجود ملنے کا وقت نہ دیا جس پر میں نے ساتھیوں کے سامنے ہی کہہ دیا کہ ”آپ جس حلال اسلام فائننس کے نام

سے مجھے ڈائیکٹر بنانا چاہتے تھے اسے میں خود یقین کی حد تک حلال نہیں جانتا تھا تو پھر کیسے میں آپ سے ملوں اور گناہ میں ملوث ہوں؟ اور دوسروں کو بھی ملوث کروں؟“

بہر حال مختصر یہ کہ عربوں کی یورپ خصوصاً امریکہ سے اپنے اربوں کھربوں کی دولت کو باہر نکالنے کے حوالے سے جو طوفانِ ربانی آیا اس میں برطانیہ نہ صرف عمومی سطح پر بلکہ خود حکومت بھی اس میدان میں دکھائی دینے لگی کہ وہ مسلمانوں کو ”حلال بینکنگ“ و ”حلال مارگنچ“ دینے کے حق میں ہے اس ضمن میں یہ ہوا کہ اچانک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے برطانیہ کے مخصوص دورے شروع ہوئے اور آپ نے ”برطانوی حلال فائننس“ پروگرام کو بہت زیادہ تقویت دینی شروع کر دی اور اس پر پورا ذریعہ لگادیا۔

ہم نے ذرائع سے مفتی صاحب کو انجانے طور پر اس غیر اسلامی حرکت اور سود کو حلال کرنے کی مہم جوئی سے رکنے اور اس کے مضمرات و دلائل سے باخبر کیا حتیٰ کہ آج سے دو سال پہلے غالباً ۲۰۰۷ء کے فروری میں مفتی صاحب اسی ایک مخصوص دورہ تبلیغ پر..... لندن میں ایک ہوٹل میں مقیم تھے اللہ کی شان کے خود ان کی طرف سے بنہ سے ملنے کا پیغام آیا تو بجائے اس کے آپ میرے پاس تشریف لائیں میں اور امیر جماعت حضرت مولانا موسیٰ کرمادی صاحب دونوں دوسرے روز ہوٹل چلے گئے جہاں تقریباً دو گھنٹوں سے زیادہ ملاقات رہی۔

یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ملاقات اور اس کی خواہش مفتی صاحب کی طرف سے ہمارے اوقاتِ عشاء و فجر کی نمازوں کے سال بھر کے برطانوی مشاہدات اور اس کی تفصیلات کے متعلق دو بدو جانے کے حوالے سے تھی کیونکہ ڈگریوں پر (۱۵، ۱۸) اوقاتِ نماز کے داعی حضرات نے مفتی صاحب کو اپنے ایک اجلاس میں فیصلہ کے لئے مجبور کیا تھا..... اور چونکہ موصوف ۱۸ ڈگری کے قائل تھے وہ سمجھے کے یہی فیصلہ کردیں گے مگر اللہ کا کرنا کہ اس حوالے سے ہماری کتاب ”برطانیہ میں عشاء کا صحیح وقت“ کا پہلے ہی مطالعہ کر چکے تھے جیسے کہ

موصوف نے مجھے اس ملاقات میں بتلایا کہ میں نے آپ کی کتاب کو اول تا آخر پڑھا ہے، بہر حال اوقات کے حوالے سے آج تک آپ نے اپنے فیصلے کو ظاہر نہیں کیا ہے جبکہ بندہ نے اپنی دوسری انگلش کتاب (فجر اور عشاء کے اوقات، برطانیہ میں) کا حوالہ بھی دیا اور بھیجا بھی جو، اردو کتاب سے مختلف انداز وغیر مسلم ماہرین کے حوالوں سے درجات کے اوقات اور مشاہداتی اوقات میں فرق کو ثابت کرتے ہوئے درجاتی اوقات کو غلط بتلانے سے بھر پور ہے بہر حال اوقات کے حوالے سے جب بات پوری ہو گئی تو میں نے اسی حلال اسلامک فائناں کے متعلق بات چھیڑ دی اور مذکورہ قطری واقعہ اور میرا ان تمام طریقوں پر عدم اطمینان کا کھل کر اظہار کیا، کیونکہ مفتی صاحب برطانیہ و یورپ میں انجانے طور پر (شايد) اس سے قائدانہ مسلک تھے، آپ نے محسوس کر لیا اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے جو جواب آپ نے دیا وہ قابل اعتراف ہے اور جس نام اور تجارت کے طریقوں سے اسلامک حلال فائناں کے نام سے جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں بلکہ اب تو اسلامک بینک بھی مفتی صاحب کی کاؤشوں کے نتیجے میں لندن میں کھل چکی ہے اور اب اس کی شاخوں کے ملک بھر میں کھلنے کے دن قریب ہیں اور ساتھ ہی برطانوی بینکز بھی اسلامک سیل کے نام سے اپنے بینکوں میں دفتر کھول چکے ہیں، زیادہ تر آپ ہی کے مرہون ہیں اور شاید فکر مند بھی ہیں، بہر حال آپ نے جو اپا فرمایا: پہلے تو یہاں اسلامک فائناں کی بات کرنا بھی ناممکن تھا چلو اتنا تو ہوا کہ حکومت نے ..... تو یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی، (اس سے ثابت ہوا کہ موصوف خود بھی مطمئن نہیں) اس پر میں مزید تو کیا لکھوں آپ نے اپنی کتاب میں کافی تفصیل سے ان کے اس قسم کے مختصر جوابات و حکمتوں کا جال توڑا ہے۔

بہر حال موصوف نے نہ صرف اسلامک فائناں میں اپنی ذاتی رائے کا دخل دیا اور اب پانی سرچڑھ جانے کے بعد اس سے واپسی کے کوئی معنی نہیں کہ لوگ گناہ میں ملوث تو ہو رہے ہیں مگر اس طرح اسلامی نصوص و قوانین کی دھیان بھی بکھیری جا رہی ہیں اور اب مفتی

صاحب کے واپسی کی طرح ان تاجرلوں کی واپسی خود موصوف کے دخل کے بعد بھی ناممکن ہو چکی ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

جیسے اسلام کا فائناں کا مسئلہ ہے وہیں اوقاتِ نماز کے علاوہ رویتِ ہلال کا مسئلہ بھی ہے کہ موصوف اب تک خود والدِ گرامی حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے بھی برخلاف اسلامی نص و چودہ سو سالہ اسلامی رویتِ ہلال مسئلہ کو ۱۸ڑودیڑی کے نیومون مفروضہ کے تابع بناتے چلے آتے تھے، میری اس ملاقات میں ہم نے اس سلسلے میں بھی انھیں باخبر کیا اور اوقات کے مشاہدات کی طرح آئینی رویتِ ہلال کے رصد گاہی حسابات کے مخالف واقعات کی اور خود میں نے اپنے ذاتی مشاہدہ رویتِ ہلال بموقع حج مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے ہونے کی شہادت کا ذکر بھی شامل تھا جن کی مکمل تفصیل ایک خط کی شکل میں کئی صفحات پر مشتمل میں نے ملاقات سے ایک ماہ بعد روانہ بھی کر دی تھی جیسے کہ آپ کی چاہت تھی الحمد للہ ابھی دو ماہ ہوئے گلاسکو کے سائل کے جواب میں ایک فتویٰ رویتِ ہلال کے سلسلے میں موصوف نے دیا ہے جس میں اسے نیومون سے مشروط کرنے کا انکار اور شہادت کو قبول کرنے کا ذکر ہے جس سے جدید نامی ترقیات سے مرعوب لوگوں کے لئے واپسی کا عنديہ ہے مگر موصوف نے افسوس کہ اس کے باوجود لکھا ہے کہ نیومون مفروضہ و سوالات و جوابات رویتِ ہلال کا مستقل ایک مسئلہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

نیومون مفروضہ کوئی نئی بات تو نہیں؟ کیونکہ آپؐ کے زمانے میں بھی تو یہ علوم تھے اور یہودا سی پر تعمیل کرتے تھے اور اسی لئے تو آپؐ نے ان کے خلاف کرتے ہوئے قیامت تک کے لئے فرمایا کہ نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب (المدیث) تو اب یہ اجتہادی مسئلہ کیسے بن گیا؟ جبکہ ۱۷۰۰ سالوں تک فقہاء امت نے اجتماعی طور پر اسے اجتہادی نہ بنایا حالانکہ خیر القرون کے بعد متصلہ ہی یونانی و ہندی فلسفہ کی کتابوں کے ترجم عربی میں ہوئے اور فلکیات خصوصاً رویتِ ہلال اور اوقاتِ نماز پر بحث و مباحثہ کا غیر ضروری وغیر

اسلامی سلسلہ تب سے شروع ہو کر اب تک چلا آ رہا تھا جس میں خصوصاً سلاطین و امراء کا عمل  
دخل کا رگرہ تا چلا آیا اس لئے موصوف نام نامی فکری عکسیں کوتا ہیوں کے مرتب ہو رہے ہیں  
اور کھل کر دین میں خنیف پر نہیں بولتے خصوصاً یہ مسائل۔

آخر میں اللہ عزیز آپ کی کوششوں پر مبارک باد کے حوالہ سے یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں  
ساتھ ہی ”برطانیہ میں عشاء کا صحیح وقت“، اردو روانہ ہے اور یہ بھی چھپنے والی ہے اگرچہ سی ڈی  
پر ہے اگر ضرورت ہو تو روانہ کر دوں گا، دعوات میں یاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی تقی صاحب کو  
ہمت عطا افرمائے کہ وہ ان مسائل کو کھل کر متنی برحق بیان کر دیں تاکہ امت کا وباں و بگاڑ سے  
تحفظ ہو، آمین

فقط

والسلام یعقوب احمد مفتی

ناظم حزب العلماء یونیورسٹی رومینیت ہال کمیٹی، برطانیہ (جمعیۃ العلماء، حزب العلماء یونیورسٹی)

مورخہ ۲۷ / ربیعہ ۱۴۲۷ھ / ۲۱ اگست ۲۰۰۶ء بروز دوشنبہ

**نوٹ:** اس تحریر سے متعلق مزید معلومات شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب  
زید مجدد ہم سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

(۲) کتاب ” بلا سود بینکاری“، میں علماء حق کے کئی ثقہ اور متین مفتیان کراماں اقبال ہم  
پر بہت بڑا اذراں لگایا گیا ہے۔ ان کے خلاف دو آیتیں اور ایک حدیث پیش کر کے ان کا  
صدق ان پا کیزہ نقوص کو ٹھہرایا گیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”لیکن معلوم نہیں کہ اس پا کیزہ جماعت کے بعض با اثر افراد کو کیا نظر لگ گئی  
کہ ان کی طرف سے ایک بڑی کمزوری اور غیر متوازن روید کیجئے میں آ رہا  
ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک تو یہ حضرات قرآن و حدیث کی واضح نصوص

﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل﴾

﴿أولئك كأن عنهم مسئولا﴾

اور جس بات کی تجھے علم (اور تحقیق) نہیں اس کے پچھے نہ پڑ (بلکہ آنکھوں  
کانوں اور عقل سے کام لے کر صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرو) بے شک کان  
آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ (اسراء: ۳۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ﴾

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق  
کرو۔ (حجرات: ۲)

اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے

کفی بالمرء کذباً أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ  
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سی سنائی بات کو (بغیر  
تحقیق کے) بیان کرے۔ (حدیث)

ان واضح نصوص کے باوجود سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے علماء و مشائخ کی  
تحقیر و تذلیل جیسے بدترین گناہ اور جرم کے مرتكب ہو رہے ہیں۔

دوسری کمزوری ان کی یہ ہے کہ یہ حضرات صرف اختلافی مسائل میں حد  
سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ معمولی نوعیت کے اختلافی مسائل کو بڑھا چڑھا کر  
ان کو کفر و شرک وغیرہ جیسا سمجھیں مسئلہ بنادیتے ہیں پھر اس کے پردہ میں  
اپنے مسلک کے ان علماء و مشائخ کی جن سے اللہ تعالیٰ کوئی دینی کام لے  
رہا ہے تحقیر و تذلیل اور تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصی اور  
عوامی تقریبات اور جماعتیں میں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور جس مسئلہ میں  
کسی شخص سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اپنی رائے کو اس قدر اہمیت دیتے  
ہیں کہ گویا ان کی بات اور رائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی بات

اور حکم ہے اور جو اس کو قبول نہ کرے وہ گویا اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بارے میں بندہ کے پاس کافی شواہد موجود ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں۔“ ( بلاسود بینکاری ۲۰، ۲۱ )

اقول: اس عبارت میں دوازام لگائے گئے ہیں۔

ایک الزام یہ کہ ان علماء ربانیین کے رویے کو غیر متوازن کہہ کر ان کو بدترین گناہ اور جرم کا مرتكب قرار دیا ہے۔

دوسرالزام یہ کہ اختلافی مسائل میں یہ علماء ربانیین حد سے تجاوز کرتے ہیں اور معمولی نوعیت کے مسائل کو کسی نیک پاک طینت عالم دین پر الزام لگانے کی خاطر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔

## حقیقت کیا ہے؟

موجودہ اسلامی نامی بینکوں کے خلاف فتویٰ دینے والوں میں ایسے جید اور پاک طینت علمائے کرام دامت برکاتہم شامل ہیں جن کے رویے کو غیر متوازن کہنا، ثالث کو اس فیصلہ پر مجبور کرتا ہے کہ خود لکھنے والا متفقہ فتویٰ اور بنوری ٹاؤن سے شائع ہونے والی کتاب دیکھ کر بیچارہ غیر متوازن رویے کا شکار ہو گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان جید علماء کرام کی بینکنگ کے سلسلے میں جو مجلس قائم ہوئیں، صرف ان کے دوران ہی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے اپنی اپنی جگہ سالوں سے اپنی تحقیقات کی روشنی میں موجودہ بینکاری نظام کو خلاف شرع سمجھتے رہے ہیں۔

نیز جیسے چائے پانی کے عنوان سے رشتہ خوری کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ایسے ہی اسلام کے نام پر حرام خوری اور ربا کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا (خواہ غیر اختیاری) اور اجتہادی طور پر ہی کیوں نہ ہو) بھی کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بلکہ امت کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے مقابل میدانِ جنگ میں لاکھڑا کرنا ہے۔ ایسے اکابر الکبار کو معمولی سمجھنا حقیقت کا

انکار ہے، اور ان درجنوں نصوص قطعیہ سے نظریں چرانا ہے جن میں ربا، حرام خوری اور بیوع فاسدہ کی مذمت، شناخت اور حرمت وارد ہوئی ہے۔

حضرت مفتی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: لیکن معلوم نہیں کہ اس پاکیزہ جماعت الخ جب معلوم نہیں تو الزام کیوں لگایا؟ فتوی دینے والے اسی ملک میں رہتے ہیں ان سے جا کر معلوم کر لیتے۔ دوسروں کو تو آیت ﴿ ولا تقتنف ما لیس لک علم ﴾ کا الزام دیا جا رہا ہے کہ بدوں علم اور تحقیق کے فتوی دیتے ہیں جبکہ خود اقرار فرم رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو بدوں علم و تحقیق کے رسالہ کیوں لکھا گیا؟ کیا یہ رسالہ لکھنا کوئی فرض تھا؟

(۳) اس کتاب میں کتنے نیک اور متدين علماء کرام دامت برکاتہم کے اخلاص پر حملہ کیا گیا ہے..... لکھتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ فقہی مسائل میں فتاوی اور آراء کا اختلاف فطری بھی

ہے اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں بلکہ ہر دور میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں

اور یہ اختلاف کوئی نقصان دہ بھی نہیں بلکہ اگر یہ اختلاف دیانت اور

اخلاص پر مبنی حدودِ اعتدال میں ہو تو یہ یقیناً امت کے لئے باعث خیر و

رحمت ہے۔ لیکن جب اختلاف کا مقصد عنا دا اور دوسرا کی تو ہیں و تحریر ہو

یا اس اختلاف کا مقصد اس فانی دنیا کی مال و عزت کا حصول ہو یا اپنی بات

اور رائے پر حد سے زیادہ اصرار اور منوانے اور دوسروں کی بات نہ ماننے کا

جنذبہ کا فرمایا ہو تو ایسا اختلاف یقیناً شر و فساد اور افتراء و انتشار کا سبب بنتا ہے۔

اسلاف امت نے اختلاف رائے کو اپنی حدود میں رکھا ان میں اخلاص و

لہیت تھی اور ان کا مقصد تحقیق حق اور طلب ثواب تھا ان کے اختلاف سے

امت کے لئے جو خیر کے پہلو پیدا ہوئے اس پر صدیوں کی تاریخ گواہ

ہے۔ ( بلا سود بینکاری ۲۲)

آقوں: اس عبارت میں اہل حق کے کتنے ایسے مفتیان کرام (جن کی دیانت، اخلاص اور علم پر لوگوں کو شاید کہ حضرت مفتی صاحب مظلہ کے علم و دیانت سے زیادہ اعتماد ہو) پر عدم دیانت اور عدم اخلاص کی تہمت لگائی گئی ہے۔ ایسے اکابر پر عدم دیانت اور عدم اخلاص کی تہمت لگانا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ نیزان کے دل کس خورد بین اور دور بین سے نظر آئے کہ یہ دیانت اور اخلاص سے خالی ہیں؟

### حقیقت کیا ہے؟

اصل حقیقت یہ ہے کہ ان مانعین حضرات میں سے کتنے حضرات پیکر اخلاص و دیانت ہیں اور حدیث ”ظنو بالمؤمنین خيرا“ کے پیش نظر ہمیں ان سے اچھے گمان کا حکم ہے۔ انہوں نے بینک کے خلاف فتویٰ یہ جانے کے باوجود کہ اس فتویٰ کے بعد ہم پر کیسے کیسے لوگ، اور کہاں کہاں سے اور کن کن جملوں سے اعتراضات کی بوچھاڑ کریں گے!!! لیکن شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو منظر رکھتے ہوئے پوری دیانتاری کے ساتھ ان حضرات نے فتویٰ دیا۔

(۲) بلاسود بینکاری میں لکھا گیا ہے:

”اب“ متفقہ فتویٰ، نامی فتویٰ کو دیکھئے کہ وہ کس قدر غیر متوازن اور غیر معقول ہے اور اس فتویٰ کے پس منظر کو بھی دیکھا جائے تو ایک انصاف پسند مسلمان کی تشویش و افسوس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

کیونکہ ایک تو اسلامی بینکاری کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ اس میں اخباری اور صحافیانہ انداز میں فتوے شائع کرنا..... اخ，“(بلاسود بینکاری ۶۰)

آقوں: جناب نے ایک فریق کی تحریر اور بات سن کر پس منظر کو متعین کر لیا۔ کاش کہ آپ فتویٰ دینے والوں سے بھی اس کا پس منظر معلوم کر لیتے یا کم از کم بنوی ٹاؤن سے شائع ہونے والی کتاب ”مرجہ اسلامی بینکاری“، کو بنظر انصاف دیکھتے، تو اس فتویٰ کو بھی غیر

متوازن اور غیر معتدل نہ کہتے۔

کیا آپ کی نظر میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی حضرت مولانا حمید اللہ جان صاحب، جامعہ خیرالمدارس کے مفتی حضرت مولانا عبد اللہ صاحب، جامعہ اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے مفتی حضرت مولانا عبدالجید دین پوری صاحب، جامعہ اشرفیہ سکھر کے مفتی حضرت مولانا عبد الغفار صاحب، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحیمیہ کوئٹہ کے مفتی گل حسن صاحب، مدرسہ تعلیم القرآن دارالافتاء ربانیہ کوئٹہ کے مفتی روزی خان صاحب وغیرہم دامت برکاتہم اندازِ فتویٰ سے کچھ بُند بُند نہیں رکھتے؟ جبکہ ایک زمانے سے ان حضرات کے اکثر اوقات فتویٰ نویں اور تحقیقات میں صرف ہور ہے ہیں۔

تعجب ہے کہ کس بیبا کی کے ساتھ ان اکابر کے فتویٰ کو غیر معتدل، غیر متوازن، اخباری اور صحافیانہ انداز کا فتویٰ کہا گیا ہے؟ کیا کسی فتویٰ کا اخبار میں آنا یا اس فتویٰ کے صحافیانہ اور اخباری ہونے یعنی مثلِ اخبار غیر مصدق ہونے کی علامت ہے؟

### حقیقت کیا ہے؟

الحمد للہ اس فتویٰ کے پیچھے دلائل کا انبار ہے جس کو علامہ بنوری ٹاؤن سے شائع ہونے والی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔ نیز زیر نظر کتاب میں بھی ان دلائل کی تھوڑی سے جملک ان شاء اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائیں گے۔ البتہ ” بلا سود بینکاری“ نامی اس تحریر کو صحافیانہ اور اخباری انداز کی تحریر کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں اخباری خبریں بطور شہادت اور دلیل کے پیش فرمائی گئی ہیں۔

(۵) آگے لکھتے ہیں:

”اس لئے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ عرض کرنے کی جہارت پر پیشگی عاجزانہ مذدرت کے ساتھ ان علماء و مشائخ سے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے بلا سود بینکاری وغیرہ کے

بارے میں غیرمتوازن فتوی خطاہت کے انداز میں دیا ہے اور جنہوں نے اس پر دستخط کئے ہیں کہ وہ اس فتوی پر نظر ثانی فرمائیں، ( بلاسود بینکاری ۶۲)

آقوٰل: یہ درخواست بے محل ہے۔ کاش آپ ان مانعین حضرات پر بمباری اور مشتمل بر دلائل فتوی کی بے حرمتی سے قبل ان حضرات کی خدمت میں تشریف لے جاتے، حقائق معلوم کرتے، اور مل بیٹھ کر غور و فکر کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تا کہ ایک اتفاقی صورت سامنے آتی جیسے بندہ نے اس زیرنظر کتاب کی طباعت سے پہلے اپنی مقدور بھر کوشش کی، جس کی روئیداد عنوان ”بینکنگ کے مسئلہ پر اجتماعی غور و فکر کی کوشش ناکام کیوں ہوئی؟“ کے تحت ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔ اخباری خبروں پر مبنی اور نامناسب فقرے اکابر پر کئے کے بعد ”درخواست“ کرنا ایک استہزا بر استہزا سامعلوم ہوتا ہے۔

### ﴿کیپ لیب ایشیاء، کمپنی کی شرعی حیثیت﴾

اس کمپنی کے کل سات ڈائریکٹر ہیں جن میں سے مولانا ابراہیم صاحب، مفتی اسماعیل صاحب اور مولانا عبداللہ کوہاٹی صاحب پاکستان میں رہتے ہیں اور باقی چار یورپی ملک۔ کچھ مدت پہلے مفتی عبدالرؤوف صاحب کی موجودگی میں اس کاروبار کے اندر بعض خلاف شرع امور کی طرف مولانا ابراہیم صاحب کی توجہ دلائی گئی تھی، انہوں نے اصلاح کا عندیہ بھی دیا تھا لیکن آج تک عملًا اصلاح کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں آئی۔

اس تحریر کے ذریعے ہم دوبارہ ان حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حرام کھلانے کے بجائے حلال کھلانے کا اہتمام کیا جائے اور اپنے کاروبار کو تمام خلاف شرع امور سے پاک کیا جائے اور عوام کا علماء پر جو اعتماد ہے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، ورنہ مستقبل میں شدید نقصان کا ندیشہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ گزارش قبول کی جائے گی اور ہمیں اس کاروبار کے تفصیلی مفاسد اور خلاف شرع امور کو آئندہ ایڈیشن میں بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

# حضرت مولانا فتح احمد ممتاز رضا حبیب کی چند کتابیں

- پانچ مسائل (متعلق بریلویت) 
- غیر مقلدین کا اصلی چہرہ ان کی اپنی تحریرات کے آئینہ میں 
- تراؤخ، فضائل، مسائل، تعداد رکعت 
- حیله، اسقاط اور عابعد نماز جنازہ 
- اولاد اور والدین کے حقوق 
- قربانی اور عیدین کے ضروری مسائل 
- امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے دلچسپ واقعات 
- احکام حیض و نفاس و استحاضہ مع حج و عمرہ میں خواتین کے مسائل مخصوصہ 
- درس ارشاد الصرف 
- طلاق عثلاث 
- منفرد اور مقتنی کی نماز اور قرآنہ کا حکم 
- خواتین کا اصلی زیور ستر اور پردہ ہے 
- عبد الرحمن کے اوصاف  مسلمان تاجر 
- استشارة (مشورہ) و استخارہ کی اہمیت 
- آٹھ مسائل  مسائلِ رمضان المبارک 
- تقویٰ کے چار انعامات  اصلی زیست 
- اسلام کی حقیقت اور سنت و بدعت کی وضاحت 

ناشر   
جامعة خلفاء الرشادین

مدنی کالوںی، گریکس ماری پور، ہاس بے روڈ، کراچی  
موباکل: 0333-2117851, 0334-3190916